

(رجسٹرڈ)

# امامیہ جنتری

## 2011



Download Shia Urdu & English Books

[www.ShiaMultimedia.com](http://www.ShiaMultimedia.com)

# Imamia Jantri

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور پوسٹ کوڈ 54000

Registration # 9573

Main Bazar, Islampura, Lahore

Tel: 92 42 3722 3686 e-mail: [ibdtrade@gmail.com](mailto:ibdtrade@gmail.com)

[www.ibdtrade.com](http://www.ibdtrade.com)

**Iftikhar**<sup>®</sup>

BOOK DEPOT

ESTB 1955

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  
اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط

جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (القرآن)  
پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا  
**امامہ جنتی**  
(رجسٹرڈ)

2011ء

۱۴۳۲-۱۴۳۳ھ

حضرت فاطمہ الزہرا  
سلام اللہ علیہا

حضرت محمد  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

امام  
علی  
علیہ السلام

امام  
حسن  
علیہ السلام

امام  
حسین  
علیہ السلام

امام  
علی زین العابدین  
علیہ السلام

امام  
محمد باقر  
علیہ السلام

امام  
جعفر صادق  
علیہ السلام

امام  
موسیٰ کاظم  
علیہ السلام

امام  
علی رضا  
علیہ السلام

امام  
محمد تقی  
علیہ السلام

امام  
علی نقی  
علیہ السلام

امام  
حسن عسکری  
علیہ السلام

امام  
مہدی آخر الزماں  
علیہ السلام

سرکار قائم آل محمد

زیر سرپرستی

امامیہ جنتی کاپی رائٹ ایکٹ رجسٹریشن نمبر 9573 کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ کوئی ناشر اس کا جعلی ایڈیشن شائع کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔

زیر نگرانی

الحاج علامہ حافظ تصدق حسین لاہور  
علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی لاہور  
مدیر: آغا افتخار حسین  
مدیر معاون: آغا شکیل رضا، آغا علی فرزاد  
معاونین خصوصی: کیپٹن ایس ایم زیدی، سید یار حسین رضوی



آغا محمد رفیع صاحب (پالیٹیکل جنتی) لاہور

تقویم  
غلام رضا عسکری، سید عباس سلطان  
یک سالہ زائچے: شیخ زوار رضا جاوا  
فائنل: اوپس کیونیکیشنز ماڈل ٹاؤن لاہور  
کیوزنگ و گرافکس: علی عمران کٹھی، مثال احمد خان  
معاونین: آغا واحد رضا۔ فدا حسین بلتستانی۔  
محمد عباس گلگتی۔ صادق علی بلتستانی۔ صابر عباس۔  
مصدر عباس۔ مؤنس رضا۔ حسن عباس۔ محمد اکرم۔  
محمد جاوید۔ غلام علی۔ محمد اشرف



سید اطہر حسن زیدی، رضا احسن مرزا  
مطبع:  
فارما کیچر پریس لاہور

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور فون 37223686 عام کانڈ -/120  
پوسٹ کوڈ 54000 علاوہ ڈاک خرچ



## استخارۂ سجادیہ

یہ استخارہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امامیہ جنتری کے صفحات کے بالائی حصہ پر درج کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وضو کیجئے اس کے بعد جس کام کیلئے استخارہ دیکھنا ہو۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانچ، سات، یا گیارہ مرتبہ ذرود شریف پڑھیے اور تین مرتبہ یہ آیت " اَسْتَخِيْرُ اللّٰهَ بِرُحْمَتِهِ خَيْرًا فِيْ عَافِيَةٍ " پڑھ کر پہلی تعداد کے مطابق ذرود پڑھ کر جنتری کھولے اور طلوع فجر سے زوال آفتاب تک دابنے صفحہ کی عبارت کے مطابق عمل کیجئے۔ زوال آفتاب کے بعد استخارہ دیکھیں تو بائیں صفحہ کی عبارت کے مطابق عمل کریں۔

## استخارۂ تسبیح

یہ استخارہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو ہو کر قہر کی طرف منہ کر کے تسبیح پڑھیں لیجئے۔ جس کام کے لئے نیت کی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے تین مرتبہ ذرود شریف پڑھئے۔ اس کے بعد یہ دُعا مع بسم اللہ پڑھیں۔ " اَسْتَخِيْرُ اللّٰهَ بِرُحْمَتِهِ خَيْرًا فِيْ عَافِيَةٍ " اس کے بعد پھر تین مرتبہ ذرود شریف پڑھئے اور آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانوں پر ہاتھ ڈالنے اور دو، دو کر کے شمار کریں۔ اگر ایک دانہ باقی رہے تو خوب ہے اگر کوئی دانہ باقی نہ رہے تو بد ہے وہ کام ہرگز نہ کریں۔

اونقار	اونقار
صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، زوال سے عصر تک	جمعہ
صبح صادق سے چاشت تک، ظہر سے عصر تک	ہفتہ
صبح صادق سے ظہر تک، عصر سے غروب تک	اتوار
صبح صادق سے طلوع آفتاب تک چاشت سے ظہر تک، عصر سے عشاء تک	سوموار
چاشت سے ظہر تک، عصر سے عشاء تک	منگل
صبح صادق سے ظہر تک، عصر سے عشاء تک	بدھ
صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، ظہر سے عشاء تک	جمعرات

امامیہ جنتری (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے لہذا اس کی نقل یا جعلی ایڈیشن شائع کرنا قانونی خلاف ورزی ہے۔ جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں اور فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جنتری میں دیئے گئے تمام آرٹیکل اور اشتہارات خالص نیک نیتی کے جذبہ سے شائع کئے گئے ہیں۔ کسی بھی مضمون یا اشتہار کے غیر حقیقی ہونے پر ادارہ ہرگز ذمہ دار نہیں ہے۔ البتہ اپنی شکایت اور رائے سے ضرور مطلع کریں۔ (رجسٹریشن نمبر 9573)

افتخار بگ ڈپو (رجسٹرڈ) مین بازار اسلام پورہ لاہور نمبر 54000

جملہ حقوق بحق ناشر پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت محفوظ ہیں



## فہرست مضامین

۲	مضامین کی فہرست - استخارے
۳	اسمائے باری تعالیٰ جل جلالہ
۴	القباب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۵	القباب امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
۶	حضرت بی بی فاطمہ الزہراء کے اسمائے صفات
۷	دُعا حضرت اویس قرنی
۸	اسمائے مبارکہ بہتر ۲۷ شہدائے کربلا
۹	حضرت رسول خدا و حضرت علی کی دُعا
۱۰	دُعا داغ بلیات، طاعون، سیلاب
۱۱	اسماء الحسنی سے حاجات بوسید محمد وآل محمد
۱۲	اسماء الحسنی کی روحانی فضیلت
۱۵	اسمائے باری تعالیٰ سے حاجات
۱۷	علم الاعداد، اہلبیت علیہم السلام اور شفا
۲۱	اسرار الاعمال (آیت الکرسی کا عمل)
۲۳	تلاوت قرآن مجید اور دعائیں
۲۵	تعمد امامیہ - صحیح حاجات
۲۷	اسرار غیبی
۳۱	صحبت، سکون، کامیابی بذریعہ ربی
۳۷	استخارہ کی شرعی حیثیت
۳۹ تا ۴۱	نوروز عالم افروز - پیشگوئیاں
۷۳ تا ۷۵	تقویم جنوری 2011 تا مارچ 2012
۷۵	عدوہ کی برکات و دلہیز سیدہ سلام اللہ علیہا ہے
۸۰ تا ۷۸	فہم جعفر - جعفر کاشف الاسرار
۸۱	جادو، حسد، سفلیات، اور شرف شش سیارگان
۸۹	نومولود کے اسلامی نام
۹۱	علم رمل کی افادیت
۱۰۱	سعد و نحس اوقات نظرات سیارگان
۱۵۲ تا ۱۳۷	یک سالہ زائچے، فہرست کتب، اشتہارات

حَلَّ جَلَالَهُ

## اسماءے باری تعالیٰ

خدا کا نام		جہاں	۲۶	اللَّهُ	جہاں	۲۹۸	الرَّحْمَنُ	جہاں	۲۵۸	الرَّحِيمُ	جہاں	۹۰	المَلِكُ	جہاں	
جہاں	۱۷۰	القُدُّوسُ	جہاں	۱۳۱	السَّلَامُ	جہاں	۱۳۶	المُؤْمِنُ	جہاں	۱۳۵	المُهَيَّمِنُ	جہاں	۹۳	العَزِيزُ	جہاں
جہاں	۲۶۲	المُتَكَبِّرُ	جہاں	۳۱	الْخَالِقُ	جہاں	۲۱۳	الْبَارِئُ	جہاں	۳۳	المُصَوِّرُ	جہاں	۱۲۸۱	الْقَهَّارُ	جہاں
جہاں	۱۴	الْوَهَّابُ	جہاں	۳۰۸	الرَّزَّاقُ	جہاں	۲۸۹	الْفَتَّاحُ	جہاں	۱۵۰	الْعَلِيمُ	جہاں	۹۰۳	الْقَابِضُ	جہاں
جہاں	۱۲۸	الْخَافِضُ	جہاں	۳۵۱	الرَّافِعُ	جہاں	۱۱۷	الْمُعِزُّ	جہاں	۷۷	الْمُدِلُّ	جہاں	۱۸۰	السَّمِيعُ	جہاں
جہاں	۶۸	الْحَكَمُ	جہاں	۱۰۴	الْعَدْلُ	جہاں	۱۲۹	اللطِيفُ	جہاں	۸۱۲	الْخَبِيرُ	جہاں	۸۸	الْحَلِيمُ	جہاں
جہاں	۱۲۸۶	الْعَفُورُ	جہاں	۵۲۶	الشَّكُورُ	جہاں	۱۱۰	الْعَلِيُّ	جہاں	۲۳۲	الْكَبِيرُ	جہاں	۹۹۸	الْحَفِيفُ	جہاں
جہاں	۸۰	الْحَسِيبُ	جہاں	۷۳	الْجَلِيلُ	جہاں	۲۷۰	الْكَرِيمُ	جہاں	۳۱۲	الرَّقِيبُ	جہاں	۵۵	الْمُجِيبُ	جہاں
جہاں	۷۸	الْحَكِيمُ	جہاں	۲۰	الْوَدُودُ	جہاں	۵۷	الْمَجِيدُ	جہاں	۵۷۳	الْبَاعِثُ	جہاں	۳۱۹	الشَّهِيدُ	جہاں
جہاں	۶۶	الْوَكِيلُ	جہاں	۱۱۶	الْقَوِيُّ	جہاں	۵۰۰	الْمَتِينُ	جہاں	۴۶	الْوَلِيُّ	جہاں	۶۲	الْحَمِيدُ	جہاں
جہاں	۵۶	الْمُبْدِي	جہاں	۱۲۳	الْمُعِيدُ	جہاں	۶۸	الْمُحْيِي	جہاں	۴۹	الْمُمِيتُ	جہاں	۱۸	الْحَيُّ	جہاں
جہاں	۱۳	الْوَاحِدُ	جہاں	۲۸	الْمَاجِدُ	جہاں	۱۹	الْوَاحِدُ	جہاں	۱۳	الْأَحَدُ	جہاں	۱۳۳	الضَّمَدُ	جہاں
جہاں	۷۳	الْمُقْتَدِرُ	جہاں	۱۸۳	الْمُقَدِّمُ	جہاں	۸۳۶	الْمَوْخِرُ	جہاں	۳۷	الْأَوَّلُ	جہاں	۸۰۱	الْآخِرُ	جہاں
جہاں	۶۲	الْبَاطِنُ	جہاں	۴۷	الْوَالِي	جہاں	۵۵۱	الْمُتَعَالِي	جہاں	۲۰۲	الْبَرُّ	جہاں	۴۰۹	التَّوَّابُ	جہاں
جہاں	۱۵۶	الْعَفُوُّ	جہاں	۲۸۶	الرَّءُوفُ	جہاں	۳۱۲	مَالِكُ الْمَلِكِ	جہاں	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ					
جہاں	۱۱۳	الْجَامِعُ	جہاں	۱۰۶۰	الْغَنِيُّ	جہاں	۱۱۰۰	الْمَغْنِيُّ	جہاں	۱۶۱	الْمَانِعُ	جہاں	۱۰۰۱	الضَّارُّ	جہاں
جہاں	۲۵۶	النُّورُ	جہاں	۴۰	الْهَادِي	جہاں	۱۱۳	الْبَاقِي	جہاں	۷۰۷	الْوَارِثُ	جہاں	۵۱۳	الرَّشِيدُ	جہاں
										۸۶	الْبَدِيعُ	جہاں	۲۶۱	الْأَسْتَارُ	جہاں

اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسمِ عظیم تلاش کر کے نماز فجر یا عشاء کے بعد اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا لیں۔



صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

## اسمائے مبارکہ والقبابت حضور پر نور رسول اکرم



مُحَمَّدٌ	أَحْمَدُ	حَامِدٌ	مَحْمُودٌ	قَاسِمٌ	عَاقِبٌ
فَاتِحٌ	شَاهِدٌ	حَاشِرٌ	رَشِيدٌ	مَشْهُودٌ	بَشِيرٌ
نَذِيرٌ	دَاعٍ	شَافٍ	هَادٍ	مَهْدٍ	مَاحٍ
مُنْجٍ	نَاوٍ	رَسُولٌ	نَبِيٌّ	أُمِّيٌّ	تَهَامِيٌّ
هَاشِمِيٌّ	أَبْطَحِيٌّ	عَزِيزٌ	عَارِفٌ	رَوْفٌ	رَحِيمٌ
طَهٌ	مُجْتَبَىٌّ	طَسٌ	مُرْتَضَىٌّ	حَمٌ	مُصْطَفَىٌّ
يَسٌ	أَوْلَىٌّ	مُزْمَلٌ	وَلِيٌّ	مُدْتَرٌ	مَتِينٌ
مُصَدِّقٌ	طَيْبٌ	نَاصِرٌ	مَنْصُورٌ	مِصْبَاحٌ	أَمْرٌ
حِجَازِيٌّ	عَالِمٌ	قَرَشِيٌّ	صَابِرٌ	أَلْتَقَىٌّ	حَافِظٌ
كَامِلٌ	صَادِقٌ	أَمِينٌ	عَبْدُ اللَّهِ	كَلِيمُ اللَّهِ	حَبِيبُ اللَّهِ
نَجِيُّ اللَّهِ	صَفِيُّ اللَّهِ	خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ	حَسِيبٌ	مُجِيبٌ	شَكُورٌ
مُبَلِّغٌ	رَسُولُ الرَّحْمَةِ	قَوِيٌّ	حَفِيٌّ	مَامُونٌ	مَعْلُومٌ
حَقٌّ	مُؤْمِنٌ	مُطِيعٌ	رَسُولُ الرَّاحَةِ	أَوَّلٌ	آخِرٌ
ظَاهِرٌ	بَاطِنٌ	نَبِيُّ الرَّحْمَةِ	يَتِيمٌ	كَرِيمٌ	حَكِيمٌ
خَاتَمُ الرُّسُلِ	سَيِّدٌ	سِرَاجٌ	مُنِيرٌ	أَلْحَقٌ	مُكْرَمٌ
مُبَشِّرٌ	مُدَكِّرٌ	مُطَهَّرٌ	قَرِيبٌ	خَلِيلٌ	مَدْعُوٌّ
جَوَادٌ	خَاتَمٌ	عَادِلٌ	شَهِيرٌ	شَهِيدٌ	مِيعُوْتُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا مُحَمَّدٌ يَا عَلِيَّ يَا فَاطِمَةَ يَا حَسَنَ يَا حُسَيْنَ يَا اَبِي تَالِبٍ

الْقَابِلَاتِ الْمَأْمُورَاتِ الْمُؤْتَمِنَاتِ عَلَى ابْنِ ابِي تَالِبٍ طَيْبِ السَّلَامِ

اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُتَّقِينَ	الْمُسْلِمِينَ	الْعَارِفِينَ	الْوٰصِلِينَ	الْمُوَحِّدِينَ	الْمُحَقِّقِينَ	السَّالِكِينَ	الْمُحْسِنِينَ	الصَّادِقِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْاَوْلِيَّيْنَ	الْعُلَمَاءِ	الْمُتَعَبِدِينَ	السَّابِقِينَ	الْمَسْبُوقِينَ	الْمَخْلُوقِينَ	الْعَادِلِينَ	الْمَعْصُومِينَ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُرشِدِينَ	الْمُبَشِّرِينَ	الْمُنذِرِينَ	الْمُقْسِطِينَ	الْعَاشِقِينَ	الْمُقَرَّبِينَ	الرَّاشِدِينَ	الْمُتَوَكِّلِينَ	الشَّاهِدِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُتَكَلِّمِينَ	الطَّاهِرِينَ	الْمُبَارِزِينَ	الْمُعْظَمِينَ	الْاَجْوَدِينَ	الْقَارِئِينَ	الْمَالِكِينَ	الْمُفْلِحِينَ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الرَّكَعِينَ	السَّاجِدِينَ	الْحَاكِمِينَ	الْمُتَّخِرِينَ	الْمُحِبِّينَ	الرَّاسِخِينَ	الْوٰصِفِينَ	الْحَاشِعِينَ	الْمُكَبِّرِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُتَعَالِينَ	الْمُقَدَّسِينَ	الْاَفْصَحِينَ	الْبَادِلِينَ	الْمُكْمَلِينَ	الْحَافِظِينَ	الْمُشْفِعِينَ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُكْرَمِينَ	الْقَانِتِينَ	الْمُهَاجِرِينَ	الشَّاهِدِينَ	الْمُطَهَّرِينَ	الْمُحَدِّثِينَ	الصَّامِتِينَ	الرَّافِعِينَ	الْاَطْهَرِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْاَئِمَّةَ	الْمُهَيِّمِينَ	الْمُقَاتِلِينَ	الْاَشْجَعِينَ	الْاَعْلَمِينَ	الْاَمِينِينَ	الزَّكِيَّيْنَ	الْاَوْرَعِينَ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُجْتَهِدِينَ	الْاَمْرِينَ	الْمُجَاهِدِينَ	الْحَطِيبِينَ	الْمُطِيعِينَ	الْمُبْرِّينَ	الْمُقَارِنِينَ	الْحَاضِعِينَ	الْاَفْضَلِينَ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْعَالِبِينَ	الْمُخَيَّرِينَ	الْمُتَقَدِّمِينَ	الْمُعَلِّمِينَ	الصَّائِمِينَ	الْمُظْفِرِينَ	النَّاطِرِينَ	الْعَالَمِينَ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ	اِمَامٌ
الْمُحْسِنِينَ	الْمُعْطُوفِينَ	الشَّهِيدِينَ	الْوَارِثِينَ	الْمُطِيبِينَ	الْاَكْمَلِينَ	الْكَاظِمِينَ	الْمُسَبِّحِينَ	الْمَعْشُوقِينَ	اِمَامٌ

# حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

## کے اسمائے صفات والقباب

جَائِلَةٌ	بَتُولٌ	تَقِيَّةٌ	حَبِيْبَةٌ	نَقِيَّةٌ	فَاطِمَةٌ	طَاهِرَةٌ	حُرَّةٌ	حَوْرَاءٌ
رَاكِعَةٌ	رَاضِيَةٌ	زَهْرَاءُ	رَشِيْدَةٌ	رَضِيَّةٌ	رِيْحَانَةٌ	سَاجِدَةٌ	سَعِيْدَةٌ	سَيِّدَةٌ
شَهِيدَةٌ	صَابِرَةٌ	صَادِقَةٌ	صَادِقَةٌ	صَدِيْقَةٌ	طَيِّبَةٌ	عَارِفَةٌ	عَالِيَةٌ	عَدِيْلَةٌ
عَدْرَاءُ	عَزِيْزَةٌ	عَلِيْمَةٌ	فَاصِلَةٌ	فَرِيْدَةٌ	كَرِيْمَةٌ	كُوْتْرٌ	كُوْكَبٌ	مُبَشِّرَةٌ
مَحْمُوْدَةٌ	مُطَهَّرَةٌ	مَعْصُوْمَةٌ	مُلْهَمَةٌ	مُمْتَحَنَةٌ	مَنْصُوْرَةٌ	مُوَفَّقَةٌ	مُهْدِيَّةٌ	مُوْمِنَةٌ
نَاعِمَةٌ	زَكِيَّةٌ	مَرْضِيَّةٌ	مُحَدِّثَةٌ	حَيِّدَةٌ	وَالِهَةٌ	رَضِيْعَةٌ	صَفِيَّةٌ	حَلِيْمَةٌ
جَمِيْلَةٌ	مُصَلِّيَّةٌ	قَائِمَةٌ	قَارِيَةٌ	صَائِمَةٌ	وَجِيْهَةٌ	حَكِيْمَةٌ	زَاهِدَةٌ	عَابِدَةٌ
مُحَدَّرَةٌ	قَادِرَةٌ	نَاصِحَةٌ	عَامِلَةٌ	وَلِيَّةٌ	صَالِحَةٌ	وَاضِيَّةٌ	فَصِيْحَةٌ	مُنْجِيَّةٌ

حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسماء کے سب علاوہ تمام کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اور شرکوں میں حضرت سدا (بم) لگا ہے  
 اور ان کے صفات والقباب کے آخر میں دو تین (۰) ہیں وہ ان کی ہیں (۰) برکت ہے جسے بنا بقول اور ان کے آخر میں ایک میں سے  
 اسے ان میں ایک میں کے ساتھ پڑھنا ہے جسے بنا زہراء (مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی۔ فون: 0301 4285737)

## آقا زادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور 14 سلام برائے حل مشکلات

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنْتُ مَكَّةَ وَ مَنِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنْتُ  
 زَمْرَمَةَ وَالصَّفَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلِي زَيْنَبِ التَّقِيَّةِ وَ كَلثُوْمِ الرِّضِيِّ وَ عَلِي سَكِيْنَةَ  
 الْمُنِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ فَاطِمَةَ وَ رُقِيَّةَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَاتِقَةَ وَ صَفِيَّةَ السَّلَامُ  
 عَلِي نِسَاءِ الْمَخْفِيَّةِ السَّلَامُ عَلِي بَنَاتِ الْهَاشِمِيَّةِ السَّلَامُ عَلِي سَادَاتِ الْعُلُوِيَّةِ  
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ جَمِيْعًا وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

کسی بھی پریشانی کے حل کے لئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور نماز کے بعد ۱۴ سلام پیش کریں اور بی بی کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس پر سلام پڑھیں۔ آپ اللہ کی حفظ و امان میں ہو جائیں گے۔ دن رات کثرت سے دُرد و شریف جناب سیدہ طاہرہ کے حضور ہدیہ کریں۔ اس محبت اور عقیدت سے پڑھیں کہ آنسو جاری ہو جائیں اور آپ کی روحانیت اس قدر بلند ہو کہ آپ اپنے کانوں سے سلام کا جواب سن سکیں۔ (شیخ ارشد علی ولایت دی ہٹی ماروالہ 0306 4242542)

مرسلہ: کیٹین بیڈل اصغر بھائی

# دُعائے حضرت اویس قرنی

**اسناد!** کتاب صحیح الدعوات میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا! جو شخص اس دُعا کو پڑھے اس کی ہر حاجت بر آئے گی۔ اگر بھوک پیاس کی شدت ہو اور اس دُعا کو پڑھے تو پروردگار عالم اس کو سیر و سیراب کرے گا اور اگر پہاڑ پر اس کو پڑھا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا، پڑھنے والا اپنی مراد کو پہنچے، اگر دیوانہ (جنون) پر پڑھے کہ دم کریں تو صحت پائے اور اگر بوقت ولادت پڑھیں تو ولادت آسان ہو جائے، اگر چالیس شب جمعہ پڑھی جائے تو گناہ معاف ہو جائیں خواہ وہ گناہ خدا کے ہوں یا بندوں کے اور اگر کسی جاہر حاکم کے سامنے جانے سے قبل یہ دُعا پڑھے تو خداوند عالم اُس کے شر سے محفوظ رکھے گا اور جو سونے سے قبل پڑھے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو اس بات پر معین فرمائے گا کہ اُس کیلئے استغفار کریں اور حسانت کیلئے دُعا کریں اور اگر اسی شب مر جائے تو شہیدوں میں شمار ہوگا، اگرچہ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوا ہو۔ (انشاء اللہ تعالیٰ) وہ دُعا یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے۔

يَا سَلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّبِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْقَاهِرِ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ

اے سلامتی و امان دینے والے (سب کی) نگہبانی کرنے والے، جبروت والے، بزرگی والے، خود پاک (اور دوسروں کو پاک کرنے والے، صاحب غلبہ، صاحب قدرت،

يَا مَنْ يُنَادِي مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ بِأَلْسِنَةٍ شَتَّىٰ وَ لُغَاتٍ مُّخْتَلِفَةٍ وَ حَوَاجِبٍ أُخْرَىٰ

صاحب اقتدار، اے وہ ذات جسے تمام گہری گہری گھاٹیوں اور دڑوں سے طرح طرح کی بولیوں اور قسم قسم کی زبانوں میں مختلف حاجتوں کیلئے پکارا جاتا ہے

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ أَنْتَ الَّذِي لَا تُغَيِّرُكَ الْأَزْمِنَةُ وَلَا يَحِيْطُ بِكَ

اے وہ ذات جسے ایک کام دوسرا کام کرنے سے نہیں روکتا صرف تو ہی وہ ہے جس پر کے تغیرات اثر نہیں کر سکتے اور کوئی مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا

الْأَمِكِنَةُ وَلَا تَأْخُذُكَ نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ كَيْسِرْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ

اور نہ ہی تجھے کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اُدھ تو رحمت نازل فرما حضرت محمدؐ اور آپؐ کی آلؑ پر اور آسان کر دے میرے لیے میرا وہ کام جس کے مشکل ہونے کا مجھے خوف ہے

عُسْرَهُ وَ فَرِّجْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ كَرْبَهُ وَ سَهِّلْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ

اور کشادگی پیدا کر دے میرے لیے میرے اس کام میں جس کے اندر مجھے تنگی کا خطرہ ہے اور آسان کر دے میرے لیے میرا وہ کام جس میں حزن و ملال پہنچنے کا مجھے ڈر ہے

حُزْنَهُ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ عَلِمْتُ سُوءَ وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي

پاک ہے تو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے بے شک میرا شمار ظالموں میں ہے میں نے بُرا کام کیا اور میں نے ظلم کیا خود اپنے ہی نفس پر پس تو میرے گناہوں کو

فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا حَوْلَ


معاف فرمادے لاریب کہ کوئی بخشنے والا نہیں گناہوں کو سوائے تیرے اور ہر طرح کی تعریف کا سزاوار اللہ ہی ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے اور نہیں ہے کوئی طاقت

وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا

اور نہیں ہے کوئی قوت لیکن صرف اس اللہ کی دی ہوئی جو بلند اور عظمت والا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نبی (محمدؐ) اور آپؐ کی آلؑ پر اور ان کیلئے سلامتی ہو جو سلامتی کا حق ہے۔



# اسمائے مبارکہ شہدائے کربلا



کنانہ بن عتیق التغلبی	کردوس بن زہیر التغلبی	قاسط بن زہیر التغلبی	حظله ابن عمر الشیبانی	عمران بن کعب الاشجعی	نعیم بن عجلان الانصاری	علی بن الحر الزیاحی	حرابن یزید الزیاحی
عمرو بن عبد اللہ الجندی	حیان بن حارث السلمانی	مجمع بن عبد اللہ العاصمی	عبدالرحمن الارجبی	سیف ابن مالک العبیدی	غامر بن مسلم العبیدی	ضرقامہ ابن مالک التغلبی	عمر بن صدیقہ الضبعی
حجاج ابن بدر التیمی السعدی	مسعود بن حجاج التیمی	جلدہ ابن علی الشیبانی	زاہر بن عمر الکندی	عمار ابن سلامتہ الدالانی	سوار ابن ابی عمیر الہمدانی	نعمان بن عمر الراسبی	حلاس بن عمر الراسبی
عبداللہ بن عروہ الغفاری	بشر بن عمر الکندی	عبداللہ بن یزید العبیدی	زہیر ابن سلیم الازدی	مسلم ابن کثیر الازدی	عبداللہ ابن عمیر الکلبی	عمار ابن حسان الطائی	عبداللہ ابن بہر الخثعمی
ہلال ابن نافع الجبلی	مسلم بن عویضہ الاسدی	عمیر ابن عبداللہ المدحجی	سعد ابن حظله التیمی	امیہ بن سعد الطائی	ادھم بن امیہ العبیدی	وہب بن عبداللہ الکلبی	بزیر ابن خسیر الہمدانی
سوید ابن عمر الاتھاری	حظله ابن اسعد الشیبانی	عمر ابن خالد الصیرادی	جون بن حوی غلام الغفاری	عمر بن قرظتہ الانصاری	نافع ابن ہلال الجبلی	عبدالرحمن بن عبدالمرزوقی	سعید بن عبداللہ الحنفی
حسب ابن مظاہر الاسدی	زہیر ابن قین الجبلی	حجاج ابن مسروق المدحجی	عمر بن مطاع الجعفی	زیاد ابن غریب الصاندی	مالک ابن انس المالکی	قرہ ابن ابی قرۃ الغفاری	یحییٰ بن سلیم المازنی
عائس ابن شعیب الشاکری	جنادہ بن الحرث السلمانی	عمر بن جنادۃ الانصاری	جنادہ ابن کعب الخزرجی	سالم مولی عامر العبیدی	جابر ابن عروہ الغفاری	انیس بن معتقل الاسجی	ابوشامہ عمرو بن عبداللہ الصیدادی
مالک ابن عبداللہ الجابری	سلمان بن مضارب الاتھاری	جندب بن حجیر الخولانی الکندی	ابوعمر انہشلی	یزید ابن زیاد الہدی	حرث ابن امرو القیس الکندی	عبدالرحمن بن عروہ الغفاری	شوذب ابن عبداللہ الہمدانی

## حضرت علیؑ کی ایک مخصوص دُعا

منقول ہے کہ جب حضرت علیؑ کو کوئی نہایت پریشان کن اور اضطراب آگیاں مہم درپیش ہوتی تو آپ دو رکعت نماز ادا کر کے (۱۰۰) سورتہ " اَسْتَعِیْزُ اللّٰہَ " پڑھنے کے بعد دُعا کے ذیل کو پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے کام کو شروع فرماتے تھے۔ جس کی وجہ سے آپ کو کسی کام میں نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ

خدایا! میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اُس سے ضرور واقف ہے

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِّيْ فِي دِينِيْ وَ

دیکھا اگر وہ دینی، دنیاوی و اخروی حیثیت سے میرے لئے

دُنْيَايِ وَآخِرَتِيْ فَيَسِّرْ لِيْ وَإِنْ كُنْتَ

بہتر ہے تو سہل و آسان فرما دے اور اگر تیری حقیقت میں نظر

تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِّيْ فِي دِينِيْ وَدُنْيَايِ وَآخِرَتِيْ

سے دینی، دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لئے بُرا ہے

فَأَصْرِفْهُ عَنِّيْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَحَبَبْتُ

تو رد فرما دے چاہے مجھے بُرا لگے یا وہ مجھے اچھا لگے کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے

فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو ہی ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہے۔

## حضرت علیؑ کی تعلیم کردہ دُعا برائے امراض قلب

ہر واجب نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر پہلے دُرود پڑھے۔ پھر گیارہ مرتبہ (یا حَىٰ يَاقِيُومُ) کہے۔ اور بارہویں مرتبہ یوں کہے۔

(يا حَىُّ يَاقِيُومُ يَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِيَ قَلْبِي)

ترجمہ: اے زندہ! اے قائم رہنے والے، اے نہیں ہے کوئی معبود مگر، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو زندہ کر دے میرے دل کو۔

## حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا

حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا ہر نئے سال کی پہلی شب میں دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دُعا پڑھتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اَنْتَ اِلٰهَ الْقَدِیْمِ وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِیْدَةٌ

فَاَسْئَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطٰنِ وَالْقُوَّةَ

عَلٰی هَذِهِ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَالْاِسْتِغَالَ

بِمَا يَفْرِي بَنِي الْاِيْكِكَ يَا كَرِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْاِكْرَامِ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا

ذُخْرَ لَهُ يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ يَا كَنْزَ مَنْ لَا

كَنْزَ لَهُ يَا حَسَنَ الْبُلَاءِ يَا عَظِيْمَ الرَّجَاءِ يَا عِزَّ

الصُّغْفَاءِ يَا مُنْقِذَ الْغُرْفَى يَا مُنْجِيَ الْهَلْكَى

يَا مُنْعِمَ يَا مُجْمِلَ يَا مُفْضِلَ يَا مُحْسِنَ اَنْتَ الَّذِي

سَجَدَ لَكَ سَواذِ الْبَلِ وَالنُّوْرُ النَّهَارِ وَضَوْءُ

الْقَمْرِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَدَوِيُّ الْمَاءِ وَخَفِيْفُ

الشَّجَرِ يَا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا

خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ وَاغْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَلَا

تَوْخِذْنَا بِمَا يَقُوْلُوْنَ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اٰمَنَّا بِهٖ

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ ط

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ط

## لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

### دُعا دافع بلیات، طاعون، سیلاب

ان ناموں کی عظمت پہ تھے داؤد سو جاں سے فدا کرتے تھے ان کا تذکرہ دائم جناب ذکریا نمرود نے جب آگ میں ڈالے ظلیل کبریا لب پر تھے ان کے اس گھڑی یہ نام پاک اور یہ دُعا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

جس شہر میں جس قریہ میں طاعون ہو یا ہو دیا اس جاکے رہنے والوں کو لازم ہے اہل ولا برپا عقیدے سے کریں شہیر کی بزم عزا اور بعد مجلس یک زباں ہو کر پڑھیں یہ سب دُعا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

جل بھن کے کوہ طور پہ ہو جاتے موٹی سُر مہ سا ان ناموں کی تائید سے لیکن ٹلی سر سے بلا یعقوب سے بچھڑا پیر ملا نہ تا روز جزا درگاہ خالق میں اگر کرتا نہ یوں وہ التجا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

اسائے اعظم ہیں یہی اسمائے پاک بچھن سب انبیاء و اوصیاء دائم دم رنج و محن بہتر وسیلہ جان کر پیش خدائے ذوالمن کرتے تھے عرض مدعا پڑھ کر یہ باصوت حسن

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

اب ہے ہماری التجا یا رب پے آل عباء ہر وہاب کا ہو خاتمہ چل جائے رحمت کی ہوا تیری حفاظت میں رہیں سرور کے سب اہل عزا سن لے یہ سرمد کی دُعا اس بزم غم کا واسطہ

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

سب سے مقدم ہے خدا اور بعد ذات ذوالعلا اول حبیب کبریا دویم علی شیر خدا سویم جناب فاطمہ بنت رسول دو سرا چوتھے حسن شاہ ہدی پنجم شہید کربلا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

کیا ہی یہ نام پاک ہیں صل علی صل علی ان ناموں میں حق نے اڑے اسم اعظم کا رکھا جس وقت ساق عرش پر ان کو قلم لکھنے لگا پیہم صرہ کلک سے پیدا ہوئی تب یہ صدا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

رنج و مشکل میں اگر کوئی بشر ہو بتلا ان ناموں کی تاثیر کو پڑھ کر وہ لیوے آزما زہار آسکتی نہیں نزدیک اُس کے کچھ بلا رکھتا ہے جو ورد زباں شام و سحر صبح و مسا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

اسماء حسنیٰ ہیں یہ وہ قرآن میں ہے جن کی ثنا آدم کی توبہ کو ولا حسن قبول ان سے ملا طوقاں سے بیزار نوح کا ان ہی کی برکت سے بچا یونس شکم میں موت کے پڑھے رہے یہ برلا

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

یہ نام یوسف کے لئے تھے چاہ میں آب بقا اور دار پر درد دل عیسیٰ کی تھی یہ ہی دوا ان کے تصدق سے ہوئی ایوب کو حاصل شفا پڑھے ہیں الیاس و خضر یہ ہی وظیفہ و انما

لِيْ خَمْسَةَ اَطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاطِمَةَ  
الْمُصْطَفِيَّ وَالْمُرْتَضَىٰ وَاَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةَ

# اسماء الحسنیٰ سے حاجات بوسیدہ محمد و آل محمد

یا وَاٰرِثِ آلِ مُحَمَّدٍ اَذْرِ كُنْیَ      یا نُورِ آلِ مُحَمَّدٍ اَذْرِ كُنْیَ

قارئین امامیہ جنٹری آپ کی خدمت میں اسمائے باری تعالیٰ کو ایک منفرد اور الگ انداز میں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ان اسماء کو محمد و آل محمد کے وسیلے سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر مشکل و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رب العزت نے کائنات میں ہر چیز آل محمد کے لئے خلق کی۔ جیسا کہ حدیث کساء میں خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا "اے میرے فرشتو اور اے میرے آسمانوں کے رہنے والو میرا آسمان کو خلق کرنا، زمین کا فرش بچھانا، چاند کو منور کرنا، سورج کو روشنی دینا، گھوٹے فلک کو قائم کرنا، دریاؤں میں پانی جاری کرنا اور ان میں کشتیوں کو رو کرنا یہ سب کچھ ان پانچ ہستیوں (جنجن پاک) آل محمد کی وجہ سے ہے۔

انہی کے وسیلے کے ساتھ اسمائے باری تعالیٰ کا ورد کیا جائے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ان حضرات ان اسماء میں سے اپنے مقصد کے حل کے لئے کسی اسم مبارک کا ورد کرنا چاہیں۔ انہیں کسی جلالی یا بجمالی پرہیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ لالچ، غیبت، تہمت، جھوٹ، شراب نوشی، زنا، لوٹ کھسوٹ، غرور، تکبر، حسد اور بغض جیسے تمام امراض خبیثہ سے خود کو دور رکھے۔ جس اسم کا آپ ورد کریں پڑھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس کی قرأت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہر مہینے میں ایک مرتبہ صدقہ ضرور دیں۔ پڑھنے سے پہلے اور اختتام پر کم از کم 14 چوہہ مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ اپنے نام کے حساب سے اسم اعظم حاصل کرنے کے لئے آپ فون کر سکتے ہیں۔ اب اسماء بیان کیے جا رہے ہیں۔ اپنے مقصد کے حل کے لئے ان میں سے انتخاب کریں اور استفادہ حاصل کریں۔

الْحَفِیْظُ

برائے حفاظت جان و مال :

The Preserver

سب کا محافظ

یا حَفِیْظُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا حَفِیْظُ

الرِّزْقِ

برائے وسعت رزق :

The Provider

بہت بڑا روزی دینے والا

یا رِزْقِ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا رِزْقِ

الْعَلِیْمُ

برائے وسیع علم :

The All knowing

بہت وسیع علم والا

یا عَلِیْمُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا عَلِیْمُ

الْوَدُوْدُ

باہمی محبت کے لئے :

The Loving

بڑا محبت کرنے والا

یا وُدُوْدُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا وُدُوْدُ

الصَّبُوْرُ

برائے اطمینان قلب :

The Patient

بڑے صبر و تحمل والا

یا صَبُوْرُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا صَبُوْرُ

الْعَلِیُّ

برائے بلندی درجات :

The High

بہت بلند و بالا

یا عَلِیُّ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا عَلِیُّ

الرَّشِیْدُ

برائے رشد و ہدایت :

The guide of the right path

رشد و ہدایت دینے والا

یا رَشِیْدُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا رَشِیْدُ

الْفَتْحُ

برائے فتح و کامیابی :

Remover of difficulties

بہت بڑا مشکل کشا

یا فَتْحُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا فَتْحُ

الْحَکِیْمُ

حصول حکمت کے لئے :

The Wise

بڑی حکمتوں والا

یا حَکِیْمُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا حَکِیْمُ

الْمُجِیْبُ

برائے قبولیت دعا :

The Responsive

دعا میں سننے اور قبول کرنے والا

یا مُجِیْبُ بِحَقِّ اللّٰہِمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ یَا مُجِیْبُ


سید فخر امام کاظمی بیت الزہراء حیدرآباد لاہور 3360786 0333



# اسمائے حسنیٰ کی روحانی فضیلت

حضرت عباس  
پیاسی

ایک منزل سے منسوب ہے۔  
اب آپ اپنے نام کا پہلا حرف  
لیں۔ اور دائرے میں تلاش  
کریں۔ جہاں آپ کو  
ملے۔ وہی آپ سے  
منسوب قمری  
منزل اور برج  
ہے پھر اسی کے  
سامنے نیچے کی  
طرف منسوب  
اسماء الحسنیٰ ہے جو آپ  
کے لئے اسم اعظم کا درجہ  
رکھتا ہے۔ اس کی صبح اور مغرب  
کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھیں۔  
اور دیگر اوقات میں بھی کثرت سے ذکر کرنا سود مند ہے۔



اہل یورپ نے نجوم کے عربی قواعد  
کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علم کو جدید  
سے جدید تر بنانے کی ہر ممکن  
کوشش کی ہے۔ قارئین  
کی دلچسپی کے لئے  
اس دور کے مسلمان  
محققین میں سے  
ایک دانشور شخصیت  
لا عربی کا علم نجوم  
سے متعلقہ ایک راز  
جس میں مخصوص  
اسماء الحسنیٰ قمری منازل سے  
منسوب دکھائے گئے ایک خاکہ کی  
شکل میں پیش خدمت ہیں۔ عربی کے  
حرف جمعی ۲۸ ہیں۔ قمری منازل ۲۸ ہیں۔ ایک حرف

## آپ کا معاون و مبارک نگینہ (نگینوں کا تعلق راس کے ساتھ) بھریے کہ قدرت نگیںوں کا تعلق ہر ماہ کی تبدیلی سے

برج	ستارہ	رنگ	متعلق نگینہ
حمل - سنبلہ	مرغ	سرخ	ہیرا، ہونگا، یاقوت، جہنم، مئی، اوایل
ثور - برکھ	زہرہ	سفید	مرجان، سرخ، ہیرا، ڈیڑھ، موتی
جوزا - مہسن	عطارد	سرخ یا لال	پتھر، زرد، زبرجد
سرطان - کرک	قمر	سفید	نیلیم، جواہر، جہنم، زرد، ہونگا، زبرجد، ہونگا
اسد - سنگھ	مش	تاریخی	نیلیم، مرجان، جہنم، یاقوت
سنبلہ - کینیا	عطارد	سفید	جہنم، زرد، زبرجد، اوایل
برج <th>ستارہ</th> <th>رنگ</th> <th>متعلق نگینہ</th>	ستارہ	رنگ	متعلق نگینہ
جدوی	کبیرک، اجرت، ایل، جہنم، مرزا	فروری	نیلیم، لاجورد، جواہر، جہنم
دھرم	نیر، زہرہ، زبرجد، زبرجد	اپریل	ہیرا، نیلیم، یاقوت، جہنم
مہس	زہرہ، جہنم، مئی	جون	موتی، زبرجد
جولائی	یاقوت، جہنم، مئی، کبیرک، مرزا	اگست	مرجان، یاقوت، جہنم، مئی
ستمبر	نیلیم، یاقوت، جہنم، زبرجد	اکتوبر	اہل، زبرجد، زبرجد
نویمبر	پتھر، لاجورد	دسمبر	لاجورد، یاقوت، زبرجد


حالیہ حکیم شاعر اہلیت و درویش حضرت عباس پیاسی فاضل پورٹی نڈر پولیس چوکی تحصیل وطن راجن پور (جنوبی پنجاب) پاکستان

0346 7328884, 0333 6474494, 0302 7909693

# اسم اعظم

معاونین اور قارئین امامیہ جنتوری کو السلام علیکم یہ میرا پہلا مضمون ہے۔ اسم اعظم کے متعلق کافی روایات ملتی ہیں مگر یہ مان لینا کہ اسم اعظم بہت زیادہ ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ اسم اعظم صرف ایک ہے اور بقول معصومین علیہم السلام اسم اعظم 73 حروف پر مشتمل ہے اور ان میں سے خالق نے اپنے پاس ایک حرف رکھا ہوا ہے۔ اور باقی 72 حروف پنجتن پاک علیہم السلام کو عطا کیے ہیں۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کیا اسم ہے جو اتنا بڑا ہے اور 73 حروف پر مشتمل ہے۔ اسے تو یاد کرنا بھی مشکل کام ہے۔ اس کی عطا نام انسان کو نہیں۔ میری ریسرچ کے مطابق معصومین نے ہمیشہ مختصر جملہ میں رفیق مسائل کا حل فرمایا اور خود خالق کائنات بھی کن فنکشن فرماتا ہے کہ میں نے آج تک اسم اعظم کے وہ 73 حروف تو دریافت نہیں کیے مگر وہ قاعدہ کافی محنت کے بعد دریافت کر لیا جس سے اسم اعظم کا استخراج ہوتا ہے۔ اور اصل میں اسم اعظم کے متعلق میری دریافت یہ ہے کہ وہ معصومین سے ایک معصوم ہیں جن کا نام اسم اعظم ہے اور انشاء اللہ یہ اسم مستقبل میں ہر مومن پر واضح ہو جائے گا۔ مجتہدین اس کا علم رکھتے ہیں۔

**مثال:** جابر علی کا اسم اعظم استخراج کرنا ہے۔



عدد 5 مرتبہ ہکا ہے۔ یعنی حرف ہ سے متعلق اسم اعظم ورد کرے۔ اب جدول سے عدد 5 حرف ہ کے اسم یہ ہیں۔ "یا غَفُورٌ - یا مُشْکِرٌ - یا جَابِحٌ - یا رَشِيدٌ" ان میں سے حسب موقع جو چاہیں ورد کر سکتے ہیں۔

**قاعدہ:** جس کے نام کا اسم اعظم معلوم کرنا مقصود ہو اس کے نام کے حروف کو علیحدہ علیحدہ تحریر کریں اور ان کے نیچے ان کے مراتب کو ملحوظ حروف ابجد تحریر کریں۔ اب ان مراتب کو ملحوظ ترتیب صعودی جمع کریں یعنی ایک مرتبہ کو دوسرے میں پھر دوسرے کو تیسرے میں جمع کریں۔ جو جوابی عدد 28 تک آئے اُسے دوسری سطر میں نیچے تحریر کریں۔ اگر 28 سے زیادہ ہو تو اُس حاصل ہونے والے عدد کو 28 سے نفی کر دیں۔ یعنی حاصل عدد 35 ہو تو 28 سے نفی کرنے پر  $35 - 28 = 7$  تحریر کریں۔ اب یہ طریقہ اُس وقت تک دہراتے رہیں جب تک کہ آخری حرف برآمد نہ ہو جائے۔ اب اس آخری مرتبہ کے حرف کو جدول سے ملاحظہ کریں اور اس حرف کے آگے جو اسماء دیے گئے ہیں ان میں سے حسب ضرورت جو چاہیں ورد کریں اور تعداد جو جدول میں دی گئی ہے اس پر عمل کریں۔

حروف	اسماء الحسنی	تعداد اورد	مراتب
ا	قَهَّارٌ . حَسِيبٌ . مَاجِدٌ	111	1
ب	لَطِيفٌ . كَرِيمٌ . هَادِيٌ	113	2
ج	رَحِيمٌ . بَاسِطٌ . حَلِيمٌ . مَالِكُ الْمَلِكِ	53	3
د	جَبَّارٌ . حَفِيفٌ	35	4
ه	غَفُورٌ . مُقْتَدِرٌ . جَامِعٌ . رَشِيدٌ	116	5
و	رَافِعٌ	117	6
ز	رِزَّاقٌ	118	7
ح	قُدُّوسٌ . عَلِيمٌ . مُنْكَوِّرٌ . وَاِثٌ . صَبُورٌ	119	8
ط	وَاحِدٌ . ظَاهِرٌ . مُفِينٌ	120	9
ی	فَتَّاحٌ . مُقِيْتٌ . غَنِيٌ	121	10

11	101	سَلَامٌ . عَلَيْنُمْ . مَزِيلٌ . كَبِيرٌ . مُتَيْنٌ . مُعِيدٌ . مُجِيٌّ . مُقَدِّمٌ . مُؤَخَّرٌ	ک
12	71	وَذُوذٌ . وَوَلِيٌّ . مُقْسِطٌ	ل
13	90	رَحْمَنٌ . قَوِيٌّ . مُبِيدِيٌّ . اِخْرُؤٌ	م
14	106	وَاسِعٌ . شَهِيدٌ . قَوْمٌ	ن
15	120	حَكَمٌ	س
16	130	سَمِيعٌ	ع
17	81	مُخَصِّصِيٌّ . مُتَعَالِيٌّ . قَوَابٌ	ف
18	95	عَزِيزٌ . غَفَّارٌ . بَاطِنٌ . مَانِعٌ . نَوْرٌ . بَالِيٌّ	ص
19	181	مُهَيِّبٌ . بَارِيٌّ	ق
20	201	مَلِكٌ . خَافِضٌ . بَاعِثٌ . مُمِيتٌ . صَمَدٌ . مُنْتَقِمٌ . ضَارٌ	ر
21	360	مُصَوِّرٌ . أَحَدٌ . رَوْفٌ	ش
22	401	اللَّهُ . بَصِيرٌ . عَلِيٌّ . وَاحِدٌ . بَرٌّ	ت
23	501	سُلْطَانٌ	ث
24	601	مُعِزٌّ . خَبِيرٌ	خ
25	731	جَلِيلٌ . رَقِيبٌ . وَكِنِيلٌ . حَمِيدٌ . ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	ذ
26	805	وَهَّابٌ . قَابِضٌ . مُجِيبٌ . قَادِرٌ	ض
27	901	مُتَكَبِّرٌ . حَقٌّ . وَالِيٌّ	ظ
28	1060	مَوْءٍ مِنْ . عَظِيمٌ . حَكِيمٌ . مَجِيدٌ . حَيٌّ . عَفْوٌ	غ

قارئین میں نے اس فرقہ و حیات کی عمل و وضاحت کر دی ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو بذریعہ خط و کتابت یا بذریعہ فون سمجھ سکتے ہیں۔ کسی مسئلے کا حل بذریعہ علم جفر۔ اعداد۔ رمل یا نجوم سے کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس ناچیز کو ضرور یاد کیجئے گا۔ انشاء اللہ اب یہ ناچیز مستقل طور پر مختلف موضوعات کے ذریعہ آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔  
 ڈعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام **جابر علی** محلہ قمبر زہرا بگی ڈاکر محمد حسین والی جھنگ صدر فون: 0315/0302 5243272, 0312 5310914

## دعائے حضرت ابو ذرؓ:

کتاب نوح الباقین صفحہ ۷ طبع ممبئی میں ہے کہ حضرت صادق آل محمدؑ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن جبرئیل نازل ہوئے۔ جناب ابو ذرؓ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرئیل نے عرض کی مولا ذرا ان سے پوچھیے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعہ وہ اتنا محبوب خدا ہو گئے ہیں کہ ان کا ذکر برابر آسمان پر رہا کرتا ہے۔ جناب ابو ذرؓ نے عرض کی میں صبح کو یہ دعا پڑھتا ہوں جس سے خدا بھی خوش ہے اور تمام بلاؤں سے نجات بھی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ وَالْاِیْمَانَ بِكَ وَالتَّصَدِیْقَ بِسَبِّكَ وَ الْعَافِیَةَ

مِنْ جَمِیْعِ الْبَلَاءِ وَ الشُّكْرِ عَلَی الْعَافِیَةِ وَ الْغِنَا عَنْ شِرَارِ النَّاسِ

خدا یا! میں تجھ سے امن و امان اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور تمام بلاؤں سے نجات اور پھر اس نجات پر شکر اور شریروں کوں سے بے

نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ خدا یا بحق محمد و آل محمد قبول فرما۔  
 مرسلہ: صوفیہ نقوی (انٹیریور ڈیزائنر) فون: 0331 4547036





## نقش جملہ اعداد اسمائے حسنیٰ

## چال

۱۳۵۳۳	۱۳۵۳۶	۱۳۵۳۹	۱۳۵۳۵	۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳۵۳۸	۱۳۵۳۶	۱۳۵۳۲	۱۳۵۳۷	۱۳	۲	۷	۱۲
۱۳۵۳۷	۱۳۵۳۱	۱۳۵۳۳	۱۳۵۳۱	۳	۱۶	۹	۶
۱۳۵۳۵	۱۳۵۳۰	۱۳۵۲۸	۱۳۵۳۰	۱۰	۵	۴	۱۵

عزیزان گرامی۔ میں نے جملہ اسمائے حسنیٰ کے نقوش اور چالیس ترتیب دے دی ہیں۔ مندرجہ بالا اسمائے مبارکہ میں سے دو حاضر کے جناب کاش البرہنی مرحوم اور حضرت ابوالعباس بوٹی کی تصانیف سے لئے ہیں۔ عرصہ دراز سے میں ان سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں۔ ترکیب انتہائی آسان ہے۔ عروج ماہ میں متعلقہ یوم بعد نماز فجر و طلع آفتاب سفید لباس زیب تن کر کے خوشبو لگائیں۔ کمرہ معطر کر دیں۔ باوضو قبلہ رخ ہو کر اپنے مقصد کے لئے سفید باریک کاغذ پر منک و زعفران سے دو نقش تحریر کریں۔ دونوں نقوش کے نیچے جملہ اسمائے حسنیٰ کے اعداد کا نقش تحریر کریں اور تعداد کے مطابق (جو فرست میں تحریر کی گئی ہے) اسم مبارک جس کا نقش تیار کیا ہے پڑھ کر دونوں نقوش پر دم کریں۔ اب ایک نقش ہمیشہ پاس رکھیں۔ جب کہ دوسرا نقش فریم کروا کر گھر، دفتر یا کاروبار کی جگہ لٹکائیں اور روزانہ اسم مبارک قہری تعداد کے مطابق پڑھ کر پاس والے نقش پر دم کریں اور اپنے مقصد کی دعا کریں۔ انشاء اللہ چند وقتوں میں تمام ہر ادیں برآئیں گی۔

امراض شدیدہ کے لئے 12 نقش اسم شانی کے تحریر کریں۔ ایک نقش مریض کے گلے میں جب کہ 11 نقوش پانی میں گھول کر روزانہ پلائیں۔ انشاء اللہ شفا کامل نصیب ہوگی۔ اسی طرح اسم دودو کے 14 نقوش تحریر کریں۔ ایک پاس رکھنے کے لئے، ایک مطلوب کے گھر یا راستے میں دفن کرنے کے لئے، ایک انار کے درخت کے ساتھ لٹکانے کے لئے جب کہ 11 نقوش کے چراغ وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ جلائے جاتے ہیں۔ طلبی مطلوب یا محبت زوجین کے لئے سعد اکبر ستاروں کی سعد نظرات و شرفات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔

عزیزان میں نے جملہ نقوش اور ان کی تفصیل کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ نقوش میں چال ایک اہم بجز ہوتا ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق نقوش ترتیب دینا چاہیے۔ تاہم کسی جگہ سمجھنے آنے تو اس بندہ حقیر سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اللہ عزوجل صدق آل امام علیؑ مقام ہماری مشکلات آسان فرمائے اور بندہ حقیر کی اس کاوش کو قبول کرے۔

## کافی

۱	۹	۸۱	ک	۹۶۲
۹۶۸	۹۷۵	۹۷۲	۸	۹۷۳
۸۲	۱۹	۲	۹۶۹	۹۷۳
۱۸	۷۹	۱۱	۹۷۷	۹۷۰
۹۶۳	۹۷۰	۹۷۷	۹۷۰	۹۷۰
کی	۳	۷	۹۶۳	۹۷۱
۹۷۶	۹۷۱	۹۶۳	۹۷۱	۹۷۱

## چال

۵	۱۲	۱۱	۳
۱۲	۳	۶	۱۳
۲	۹	۱۶	۷
۱۵	۸	۱	۱۰

## نصیب

۱	۹	۸۱	ل	۱۲۳۳
۱۲۳۹	۱۲۳۳	۱۲۳۸	۱۱	۱۲۳۳
۸	۳۱	۷۹	۱۱	۱۲۳۵
۱۲۳۷	۱۲۳۳	۱۲۳۸	۸	۷۸
۳۲	۱۱	۱۱	۱۲۳۳	۱۲۳۷
۱۲۳۵	۱۲۳۰	۱۲۳۳	۱۰	۱۲۳۹
۹	۷۷	۳۳	۱۲۳۶	۱۲۳۹
۱۲۳۳	۱۲۳۶	۱۲۳۶	۱۲۳۶	۱۲۳۹

## چال

۱۶	۱۱	۶	۱
۵	۲	۱۵	۱۲
۳	۸	۹	۱۳
۱۰	۱۳	۴	۷

## شافعی

۱	۹	۸۱	ش	۱۲۳۷
۱۲۳۸	۱۲۳۷	۱۲۳۳	۸	۱۲۳۶
۸۲	۳۹۹	۲	۱۲۳۹	۱۲۳۶
۱۲۳۵	۱۲۳۶	۱۲۳۶	۳	۱۲۳۰
۳۹۸	۷۹	۱۱	۱۲۳۹	۱۲۳۰
۱۲۳۵	۱۲۳۲	۱۲۳۹	۳	۱۲۳۳
کی	۳	۹۷	۱۲۳۳	۱۲۳۳
۱۲۳۸	۱۲۳۶	۱۲۳۳	۱۲۳۳	۱۲۳۳

## چال

۵	۱۲	۱۱	۴
۱۲	۳	۶	۱۳
۲	۹	۶۱	۷
۱۵	۸	۱	۱۰

## غنی

۱	۹	۸۱	غ	۱۳۶۳
۱۳۷۹	۱۳۷۳	۱۳۶۸	۷	۱۳۶۳
۳۹	۰۰۱	۳	۱۳۷۸	۱۳۷۳
۱۳۷۷	۱۳۶۳	۱۳۷۸	۸	۱۳۷۷
۱۰۰۲	۳۸	۳	۱۳۷۷	۱۳۷۷
۱۳۶۵	۱۳۷۰	۱۳۷۷	۵۱	۱۳۶۹
۹	۹۹۹	۱۳۶۶	۱۳۶۶	۱۳۶۹
۱۳۷۲	۱۳۶۶	۱۳۶۶	۱۳۶۶	۱۳۶۹

## چال

۱۶	۱۱	۶	۱
۵	۲	۱۵	۱۲
۳	۸	۹	۱۳
۱۰	۱۳	۴	۷

## شمیث

۱	۹	۸۱	ش	۱۳۳۳
۱۳۳۲	۱۳۳۹	۱۳۳۳	۱۱	۱۳۳۳
۷	۳۰۱	۲	۱۳۳۳	۱۳۳۰
۱۳۳۳	۱۳۳۵	۱۳۳۱	۳	۱۳۳۰
۳۰۲	۳	۳	۱۳۳۳	۱۳۳۰
۱۳۳۶	۱۳۳۶	۱۳۳۷	۹	۱۳۳۵
د	۳	۳۰۳	۱۳۳۷	۱۳۳۵
۱۳۳۸	۱۳۳۹	۱۳۳۷	۱۳۳۷	۱۳۳۵

## چال

۸	۱۵	۱۰	۱
۹	۲	۷	۱۶
۳	۱۲	۱۳	۶
۱۳	۵	۴	۱۱

## نعم المولیٰ و نعم النصیر

۱	۹	۸۱	نعم المولیٰ	۵۳۳۹
۵۳۳۷	۵۳۳۹	۵۳۳۲	نعم النصیر	۵۳۳۹
نعم	نعم	نعم	نعم	۵۳۳۶
۵۳۳۱	۵۳۳۰	۵۳۳۵	نعم	۵۳۳۶
نعم	نعم	نعم	نعم	۵۳۳۳
۵۳۳۱	۵۳۳۲	۵۳۳۷	نعم	۵۳۳۳
نعم	نعم	نعم	نعم	۵۳۳۳
۵۳۳۸	۵۳۳۳	۵۳۳۲	نعم	۵۳۳۳

## چال

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

# علم الاعداد، اہلبیت علیہم السلام اور شفا

سیدانور حسین رضوی کراچی

علم الاعداد کے بارے میں حضرت محمدؐ کا ارشاد پاک ہے:

"عِلْمُ الْأَعْدَادِ أَجَلُ الْعُلُومِ"

ایک اور حدیث مبارکہ ہے:

"تَعَلَّمُوا آبَا جَادٍ وَتَفْسِيرُهَا"

حروف ابجد ۲۸ حروف پر مشتمل ہے۔ ابجد سے علم جفر میں کام لیا جاتا ہے اور اسی کو ابجد قمری کہتے ہیں۔ اگر زندگی رہی تو انشاء اللہ علم جفر کی کھانیت اور اس کے ذریعے سے ایسے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا جس سے انسانی عقل حیران رہ جائے گی۔ ابجد قمری ذیل میں مع اعداد کے لکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے سے معلومات کا حصول ہوگا۔

اللہ رب العزت نے محمدؐ و آل محمدؐ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا

ہے۔ مشہور کھ شاعر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے:

بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات

خیر النساء حسن و حسین مرتضیٰ علیؑ

جو ان پاک ہستیوں کا دامن تھام لے گا اور ان کی بتائی ہوئی

تعلیمات پر چلے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب رہے گا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو انہیں دل سے پکارے تو اس کی مشکل کشائی کرتی ہیں۔ انہیں کے ذریعے سے ہم تک علوم پہنچے ہیں تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ان میں سے ایک علم علم الاعداد ہے۔

## نقشہ حروف ابجد قمری

حروف	ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
اعداد	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
حروف	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
اعداد	۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

ان دونوں کے ناموں کے اعداد کا مجموعہ ۹۲ + ۱۱۰ = ۲۰۲ اور ۲۰۲ رب کے نام کے اعداد ہیں۔

**نمبر ۲:** "محمدؐ" کے نام کے بنیات اعداد نکالے جو کہ "اسلام" کے اعداد ہیں:

زبر	بنیات
م	ی م = ۱۰ + ۴۰ = ۵۰
ح	ا = ۱
م	ی م = ۱۰ + ۴۰ = ۵۰
د	ا ل = ۱ + ۳۰ = ۳۱
	میزان = ۱۳۲ = اسلام

چند رموز آشکار کر رہا ہوں محمدؐ و آل محمدؐ کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لئے۔ رب کے اعداد ۲۰۲ ہوتے ہیں۔ اور محمدؐ اور علیؑ کے ناموں کے مجموعی اعداد بھی ۲۰۲ ہی ہیں۔

## رب

نمبر ۱: ر + ب = ۲۰۲ = ۲ + ۲۰۰

محمدؐ = م + ح + م + د = ۴۰ + ۸ + ۲۰ + ۳ = ۹۲

علیؑ = ع + ل + ی = ۷۰ + ۳۰ + ۱۰ = ۱۱۰

**نمبر ۷** مولانا علی مشکل کشاء کی مدد سے میں ایک انتہائی اہم راز کھول رہا ہوں جو محمد و آل محمد سے مودت رکھنے والوں کے لئے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔

**شفا** = ش + ف + ا

$$۳۸۱ = ۱ + ۸۰ + ۳۰۰$$

**فاطمہ** = ف + ا + ط + م + ہ

$$۱۳۵ = ۵ + ۲۰ + ۹ + ۱ + ۸۰$$

**حسن** = ح + س + ن

$$۱۱۸ = ۵۰ + ۶۰ + ۸$$

**حسین** = ح + س + ی + ن

$$۱۲۸ = ۵۰ + ۱۰ + ۶۰ + ۸$$

ان تینوں کے ناموں کے اعداد کا مجموعہ = ۳۸۱ جو کہ شفا کے اعداد ہیں

**کربلا** = ک + ر + ب + ل + ا

$$۲۵۳ = ۱ + ۳۰ + ۲ + ۲۰۰ + ۲۰$$

اب کربلا کے اعداد ۲۵۳ کو پھر حروف میں بدلا

$$۳ = ۲۰۰ + ۵۰ + کربلا$$

$$ج = ۲۰ + ۱۰ + نربلا$$

یعنی کربلا کے باطن میں "ربلا" ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا مداوہ

$$۱۲۸ = حسین$$

$$۲۵۳ = کربلا$$

$$۳۸۱ = شفا$$

۳۸۱ شفا کے اعداد ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو کربلا کی خاک کو خاکِ شفا کہا

جاتا ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج اسی ۳۸۱ میں پوشیدہ ہے۔ اس شفا کو

حاصل کرنے کے لئے ایک نقش مربع آتش چال سے پُر کریں۔ عرق

گلاب زعفران اور خاکِ شفا سے نئے سرکنڈے کے قلم سے شپ جمعہ

نوپچندی جمعرات یا شرفِ قمر میں متعلقہ بخور جلا کر یہ نقش تیار کیا جائے گا

اور اس کو ہرے رنگ کے کپڑے میں کر کے پتھن کی نذر دے کر دعا

کر کے مریض کے سیدھے بازو میں باندھ دیں۔ اگر خاکِ شفا نہ ہو تو اس

**اسلام** = ا + س + ل + م + ا + م  
۱۳۲ = ۱ + ۳۰ + ۶۰ + ۴۱  
"علی" کے بنیاد اعداد نکالے جو کہ "ایمان" کے اعداد ہیں۔

زیر	بنیاد
ع	ی ن = ۱۰ + ۵۰ = ۶۰
ل	ا م = ۱ + ۳۰ = ۳۱
ی	ا = ۱
میزان	ایمان = ۱۰۲

**ایمان** = ا + ی + م + ا + ن

$$۱۰۲ = ۱۰ + ۲۰ + ۱ + ۵۰ = ایمان$$

**نمبر ۱۲** حب علی واجب

$$۱۳۲ = اسلام$$

$$۱۳۲ = قلب$$

$$۱۲۳ = قلب کے بنیاد اعداد$$

$$۱۲۳ = آل محمد کے اعداد$$

**نمبر ۱۳** امام مہدی علیہ السلام کے نام مبارک مہدی

کے اعداد ۵۹ بنتے ہیں جس کا مفرد عدد "۵" بنتا ہے۔

آپ کی ولادت ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ اس میں

بھی عدد ۵ تین بار آیا ہے۔

۵ = عدل	۵ = لقب "باقی"
۵ = عریضہ	۵ = غائب
۵ = ماء (پانی)	۵ = موجود
۵ = جزیرہ برمودہ	۵ = علم
۵ = قم	۵ = عمل
۵ = آمد مہدی	۵ = شپ برات
	۵ = آزادی

علم اعداد سے صاف اشارہ مل رہا ہے کہ ہم شپ برات میں پانی میں کیوں عریضہ ڈالتے ہیں۔

## تمنا برائے الٹا تنگی قرض

**تعداد:** دو رکعت نماز کی طرح **وقت:** شب جمعہ

**طریقہ:** بعد سلام پڑھے یا تکی یا کتبوم سوار، یا وقحاب 1000 بار۔  
اس عمل کو بارہ شب تک انجام دینا ہے۔ (تحفۃ الرضویہ)

## محرِب نماز الٹا تنگی قرض

**طریقہ:** پہلی رکعت: سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید گیارہ بار

دوسری رکعت: سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید اکیس بار

تیسری رکعت: سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید اکتیس بار

چوتھی رکعت: سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید اکتیس بار

نماز کے بعد سورہ توحید ۵۱ بار، صلوٰۃ ۵۱ بار سجدے میں جائے اور سوار کہے  
یا اللہ یا اللہ پھر حاجت طلب کرے۔

**فضائل:** مرحوم علی بن طاووس فرماتے ہیں۔ کہ حضرت مرسل عظیم صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس نماز کو پڑھا تو خدا اس کی دعا کو حتماً مستجاب  
فرماتا ہے۔ اگر نمازی نے پہاڑوں کے ٹلنے، بارش کے ہونے جیسی دعا کی خدا  
اس کو بھی قبول فرمایگا۔ خدا غضبناک ہوتا ہے اس شخص پر جو اس نماز کو پڑھ کر خدا  
سے حاجت طلب نہ کرے۔ (صحیفہ نماز) از مولانا سید حسین مہدی السینی

## عذابِ قبر سے امان کی تمنا

**تعداد:** ۲۰ رکعت ۲۰ رکعت پڑھے، ماہِ ربیع کی چاندنات درمیان نماز مغربین

**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید ایک بار

**فضیلت:** اس نماز کے پڑھنے والا، اس کی اولاد اور اس کی آل و اولاد اور  
خاندان والے عذابِ قبر اور بربادی مال سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور روز قیامت  
پہلے صراط سے بچنے کی طرح گزر جائیں گے۔ (صحیفہ نماز)

## تمنا بخش گناہ

**تعداد:** دس رکعت دو، دو رکعت پڑھے۔ ماہِ ربیع کی کسی ایک شب۔

**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ کافرون ایک بار، سورہ توحید تین بار  
فضیلت: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے  
تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ (صحیفہ نماز)

کے بغیر بھی نقش بنایا جاسکتا ہے۔ سخت امیر جنسی میں سادے پانی پر ۳۸۱  
بار مع اول و آخر ۱۱ مرتبہ درود کے یا قاطمہ یا حسن یا حسین پڑھ کر  
درم کر کے پلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

جبرائیل			
۸۷	۱۰۱	۹۸	۹۵
۹۹	۹۴	۸۸	۱۰۰
۹۳	۹۶	۱۰۳	۸۹
۱۰۲	۹۰	۹۲	۹۷

۳۸۱ = وفق

میں نے خود بہت مرتبوں کا اس سے علاج کیا ہے۔ الحمد للہ  
لا علاج مریض بھی اس سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ  
آ رہی ہو یا نقش خود تیار نہ کر سکیں یا کسی بھی قسم کی پریشانی کے لئے مجھ ناچیز  
سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ سید انور حسین رضوی 0300 2194117  
مکان نمبر R-408، بیکٹر 15-A/5، بفرزون نار تھہ کراچی، کراچی۔

e mail: anwerrizvi14@yahoo.com

## عمل سورہ یسین برائے حاجت

یہ مجرب عمل آقائے مولوی سید محمد تقی سلمہ اللہ الواہب نے اپنی  
کتاب منبع حسانت (مطبوعہ نئی نولکھنور لکھنؤ) میں تحریر فرمایا ہے۔  
یہ طریقہ آئمہ سے منقول ہے کہ جب کوئی حاجت و شوار پیش آئے تو دو رکعت  
نماز بہ نیت قریبۃ الی اللہ پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی تا  
خالدوں پڑھے۔ دو رکعت نماز پڑھ کر سر برہنہ کھڑا ہو کر اپنی گردن میں کپڑا  
ڈال کر مثل مجرم اور گناہ گار کے، دونوں ہاتھوں سے گلے میں ڈالے ہوئے  
کپڑے کو ہاتھ جوڑ کر پکڑے اور سورہ یسین کو شروع کرے۔ جب "سکن  
فیسگون" پر پہنچے تو فوراً سجدہ میں جائے۔ اور پڑھے "سُبْحٰنَ اَللّٰہِ"  
یعنی باقی ماندہ سورت ختم کرے۔ اسی حالت میں خضوع و خشوع سے اپنی  
حاجت طلب کرے۔ مستجاب ہے (یہ عمل میرا آزمودہ ہے)

سید ضیاء نقوی ایمک 057 2604408, 0301 7899751



# ہفت ہیکل کا حصار

حکیم سید مجتبیٰ حسین مکان نمبر 1443 گلی نمبر 6 علیہ کامل پورسراں ایک کینٹ فون: 0321 5708995

قارئین امامیہ جنتی السلام علیکم! آپ کے پیار اور غلوں کی وجہ سے امامیہ جنتی کے درخشاں اوراق پر بندہ ناچیز کو اپنے مضمون کے لئے جگہ مل جاتی ہے۔ آپ کے مسائل جو آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پر اور خطوط کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اُن ضروریات کو مد نظر رکھ کر آسان اور تیر بہدف عمل تیار کیا ہے۔

**عمل:** یہ عمل بہت مشہور ہے اور آسان ہے۔ اس عمل کے بارے میں ہر خاص اور عام غیب جانتے ہیں۔ ہمارے دینی رسالوں اور کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس عمل کی اہمیت اور قدر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم موعلاً سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز تعلیم کروں کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی خلقت مل کر تمہیں بدی پہنچانا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یا علیؑ جو کوئی اس ہفت ہیکل کو پڑھے اس کے نامہ اعمال میں ستر ہزار اعمال حسنہ لکھے جائیں گے۔ ستر ہزار قصر بہشت میں ہوں گے۔ جو شخص ان سات آیات کو پڑھے اور اپنے پاس رکھے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔

## سات آیات ہیکل:

الْحَكِيمُ ۝ (سورۃ طہ آیت نمبر 2)

۷ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۝ قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَتَدَعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِی اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتْ ضُرَّوْۤا اَوْ اَرَادَنِی بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَةٌ رَّحْمَتِهٖ ۝ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ ۝ عَلَیْهِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ (سورۃ زمر آیت نمبر 38)

یہ ساتوں آیات سارے جسم پر پڑھ کر پھونکیں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ میرے اکثر مریض جن کی میں جادو کی کاٹ کرتا ہوں وہ میری کاٹ کرنے کے بعد مسلسل (6) چھ دن سورۃ تغابن پارہ نمبر ۲۸ کی تلاوت بعد نماز عشاء اور (6) چھ دن مسلسل یہ حصار کریں۔

**نوٹ:** زانچہ بخوانے کے لئے یا کوئی معلومات لینے کے لئے شام (4) بجے سے رات (11) بجے تک رابطہ کریں۔ زانچہ بذریعہ علم ریل کے لئے 1 سے 96 تک (4) عدد خط ملے گا کہ ارسال کریں تو بھی زانچہ تیار کر کے جوابی لفافے میں آپ کو ارسال کر دیا جائے گا اور فون پر صرف بروز جمعہ المبارک زانچہ ریل تیار کیا جائے گا۔ میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی دُعا کی اجیل کرتا ہوں کہ فیض یاب ہونے کے بعد ہائی امامیہ جنتی آغا شام مرحوم اور تمام مومنین مرحومین کے لئے دعا مغفرت اور متعلقین ادارہ کی صحت و سلامتی کے لئے دُعا ضرور کریں۔

۱ قُلْ لَنْ یُّصِیْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۝ هُوَ مَوْلَانَا ۝ وَعَلٰی

اللّٰهِ فَلَیْتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ (سورۃ توبہ آیت نمبر 51)

۲ وَاِنْ یَّمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهٗ الْاٰهُوَجَ وَاِنْ

یُرِذْکَ بِخَیْرِ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهٖ ۝ یُصِیْبُ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ

عِبَادِهٖ ۝ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (سورۃ یونس آیت نمبر 107)

۳ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رَزَقُهَا یَعْلَمُ

مُسْتَقْرَرًا وَهُوَ مُسْتَوْدَعُهَا ۝ کُلٌّ فِیْ کِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝ (سورۃ ص آیت نمبر 6)

۴ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ ۝ مَا مِنْ دَابَّةٍ

اِلَّا هُوَ اَخَذَ ۝ بِنَاصِیَتِهَا ۝ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ

مُسْتَقِیْمٍ ۝ (سورۃ ص آیت نمبر 56)

۵ وَکَآیْنٍ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رَزَقَهَا ۝ اللّٰهُ یُرِزُّهَا وَا

اٰیَاتُکُمْ ۝ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ (سورۃ عجمت آیت نمبر 60)

۶ مَا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِکَ

لَهَا ۝ مَا یُمْسِکَ فَلَا مَرْسِلَ لَهٗ مِنْ ۝ بَعْدِهٖ ۝ وَهُوَ الْعَزِیْزُ

# آسْرَارُ الْأَعْمَالِ

## هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لہذا تم صدق دل سے عبادت کر کے اسی سے دعا مانگو۔ سورہ مومن آیت نمبر 65

محمدؐ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئیں۔ (۱۵) صلوات یعنی اول و آخر درود کا پڑھنا (۱۶) عمل بسم اللہ سے شروع کرنا (۱۷) حمد خدا زیادہ کرے (۱۸) عمل کے اوقات کا خیال رکھے (۱۹) مقام عمل کا خیال رکھے (۲۰) صرف مصیبت میں نہیں بلکہ خوشحالی میں بھی عمل یادعا کرے (۲۱) واجبات کا تارک نہ ہو (۲۲) محرمات کا ارتکاب نہ کرتا ہو (۲۳) کسی ایک عمل کا انتخاب کرے (۲۴) عمل یادعا میں تسلسل و باقاعدگی ہو (۲۵) جس عمل یادعا میں عدد کی شرط ہے اسکا خاص خیال رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ تعداد معین کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص تعداد "کوڈ" ہوتا ہے۔ اگر اس تعداد سے بڑھایا یا تعداد کو کم کر دیا تو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا (۲۶) کسی مسلمان مومن کو نقصان دینے کی نیت سے وظیفہ نہ کیا جائے۔

معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان پانچ سورتوں کو پانچ وقت میں تلاوت کرے تو وہ کچھ بھی طلب کرے گا بغیر کسی رنج و مشقت کے پائے گا۔ بوقت صبح سورہ یسین۔ بوقت ظہر سورہ نبا۔ بوقت عصر سورہ فتح۔ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ اور بعد نماز عشاء سورہ ملک تلاوت کرے۔ جو شرعی حاجت ہو گی پوری ہوگی۔ آیت الکرسی کے اس عمل میں سابقہ عمل کی طرح حصار کرنا ضروری ہے جبکا طریقہ 2010ء کی امامیہ جنتی صفحہ نمبر 13 پر درج ہے۔ حصار کے ساتھ آیت الکرسی کا نقش رکھنا ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جنہوں نے ابجد کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ یہ عمل ہر روز بعد نماز صبح صرف 5 بار باقاعدگی سے پڑھیں، چند دن میں اس کے عجیب و غریب اثرات دیکھیں گے۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین عالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 11 بار درود پڑھ کر اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْوٰحِدِ الْمَاجِدِ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَحَاسِدٍ کہہ کر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ السُّعَاءُ عِبَادَتِمْ فِي سَبِّهِ مِنْ سَبِّ سَائِرِ الْعِبَادَةِ۔ قارئین۔ ناشران امامیہ جنتی کا بے حد مشکور ہوں۔ امامیہ جنتی 2010ء میں کئی الاسرار کے عنوان سے شائع ہونے والا آئیہ الکرسی کا عمل بے حد پسند کیا گیا ہے۔ پاکستان کے علاوہ کئی ممالک سے سینکڑوں لوگوں کے فون موصول ہوئے۔ کئی لوگ فیضیاب ہوئے۔ اس بار اسرار الاعمال کے نام سے آئیہ الکرسی کا ایک اور موثر و مجرب عمل نذر قارئین امامیہ جنتی کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس مادی دور میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا ذریعہ اپنائے جس سے اس کے پاس سب کی سب خیر و برکات جمع ہو جائیں۔ اس لئے انسان ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے اور اسی خواہش میں بیروں۔ فقیروں اور درویشوں کے پاس چکر لگاتا ہے تاکہ اسے کہیں سے کچھ مل جائے۔ ہر عمل کے کچھ مخصوص شرائط و آداب ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے کے لئے ضروری ہے درج ذیل باتوں کا لحاظ رکھے۔ (۱) طہارت ظاہری (۲) طہارت باطنی (۳) اکل حلال (۴) دل کے ساتھ زبان بھی پاک ہو (۵) خدائی عہد و پیمانہ کو وفا کرنا (۶) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دینے والا ہو (۷) دل کا بغیر خدا سے خالی ہونا (۸) خدا پر حسن ظن اور اعتماد کا مال ہو (۹) مجرور و کمساری ہو (۱۰) عمل میں تکرار ہو (۱۱) استقامت ہو (۱۲) دہمی آواز میں عمل یادعا پڑھو (۱۳) دوسروں کی حاجات کو اپنی حاجت و وسیلہ بنانا (۱۴) توسل ہو۔ یعنی خدا تک پہنچنے کے لئے اور اپنی حاجات بارگاہ ربوبیت میں قبول کرانے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کیا جائے جو خدا کے بالکل قریب ہو۔ جیسا کہ خود قرآن میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ وَأَل

## احادیث برائے حضور قلب در نماز

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے وقت آخر وصیت کی کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ نے وقت آخر وصیت کی کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے جو نماز کو معمولی سمجھے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملے تو رات میں درج تھے کہ اے آدمؑ کی اولاد اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کرے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ دو رکعت نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ سمجھے کہ ان دو رکعت میں کیا پڑھا رہا ہے (معافی کی جانب توجہ کرے) جب نماز سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ بخش دیا گیا ہو۔

حضرت علیؑ سے پوچھا گیا کہ نماز میں دل کیسے لگے (یعنی حضور قلب کیسے ہو)؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ تم جو پڑھاؤ (معافی کے جانب توجہ کے ساتھ) سمجھ کر ادا کرو۔

رسول اللہؐ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے تالاب ہو اور تم دن میں پانچ بار اس میں نہاؤ تو کیا تمہارے بدن پر میل باقی رہے گا؟ اصحاب نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہؐ۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ (اسی طرح) اگر تم پانچ وقت نماز کو (حضور قلب اور معافی کی جانب توجہ سے) ادا کرو تو تمہارے دل پر (دیکھا) میل باقی نہیں رہے گا۔

اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نطفے (بے عقلی) کی حالت میں ہو مگر اس وقت (جاؤ یہاں تک) کہ جو گہر رہے ہو وہ بھج رہے ہو۔ (القرآن)

اے بھائی تم اللہ کی قربت کے لئے نماز ادا کرتے ہو اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے ہو یعنی نماز پڑھنے کے باوجود تم پر شیطان کا قبضہ اور تسلط ہے کیا تم نے کبھی اس آیت میں غور کیا ہے کہ:

نماز بری باتوں سے روکتی ہے؟

تم اللہ سے قریب ہونے کے لئے نماز سالوں سے پڑھ رہے ہو تو تم بے شمار نمازیں پڑھ کر اللہ سے کتنے قریب ہوئے؟ حقیقتاً اگر تم کو اللہ کی قربت (زندگی) نصیب ہوئی ہوتی تو تم پر شیطان کا قبضہ نہ ہوتا۔ پس اے بھائی سمجھ لو کہ تمہاری نمازیں اللہ کے لئے نہیں ہیں۔ حدیث ہے کہ جو شخص چالیس دن خلوص سے اللہ کے لئے عمل کرتا ہے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چالیس دن کی بات ہے۔ تم تو چالیس چالیس مہینوں اور چالیس چالیس سالوں سے نماز قریباً الی اللہ (اللہ سے قریب ہونے) کی نیت سے پڑھ رہے ہو اور ابھی تک گناہ کر رہے ہو۔ اتنی عبادت و ریاضت کے بعد بھی تمہارے دل پر شیطان کا قبضہ ہے۔ جب کہ قول معصومؑ میں چالیس روز کی یہ خلوص عبادت کا تذکرہ ہے۔

بس بھائی، دوشیار ہو جاؤ کہ تمہاری نماز اللہ کے لئے نہیں ہے۔ بس نماز کو معافی کی جانب توجہ سے پڑھاؤ کہ یہ نماز کے الفاظ تمہارے دل پر اثر ڈال سکیں۔

محمد علی کھیلے 0332-6996581 (نماز کی گہرائیاں)

پڑھیں۔ پھر آیت الکرسی کو الفیوم تک پڑھ کر سورہ قل ہو اللہ احدؑ ایک مرتبہ پڑھیں۔ پھر لا تاخذہ سنۃ ولا نومؑ لہ ما فی السموات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندهؑ الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشئ من علمہ تک پڑھ کر ایک بار سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھے پھر الا بماشاء و سع کرسیہ السموات والارض تک پڑھ کر ایک بار سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے پھر ولا یتوڈہ حفظہما وهو اعلیٰ العظیم تک پڑھ کر ایک بار سورہ قل یا ایہا الکافرؤن پڑھے۔ پھر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یكفر با لطاغوت و یؤمن بالله پڑھ کر سورہ کوثر پڑھے۔ پھر فقد استمسک بالعرورۃ الوثقیؑ لا انفصام لہا واللہ سميعؑ علیم O کہ کر سورہ النصر پڑھے۔ پھر اللہ ولی الدین امنوا یخیر جہم من الظلمات الی النور پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ الحمد پڑھے۔ پھر واللذین کفروا اولینہم الطاغوت یخیر جہم من النور الی الظلمات اولیک اصحب النار ہم فیہا خالدون O پر عمل ختم کرے۔ آخر میں

11 بار درود پڑھے اور اپنی حاجت طلب کرے۔ واضح رہے کہ آیہ الکرسی کا یہ عمل صرف جائز اور شرعی حاجت کے لئے مجرب و موثر ہے۔ خلوص اور اعتقاد کامل شرط ہے۔ جو قارئین اس عمل سے فائدہ حاصل کریں بانیان و دانشوران امامیہ جنتی اور مجتہدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ آمین۔

علامہ اہل تقوی روحانی عالم (امام اے اسلامیات۔ فاضل قم ایران)  
نقوی ہاؤس ناصر شہید روڈ نزد پرانا بک خانہ محلہ بخاری احمد پور شریف ضلع بہاولپور

عمل برائے قضاء حاجات  
تین شب متواتر غلوت میں بیٹھ کر ہر رات ایک ہزار مرتبہ پڑھے  
"الہی قد انقطع رجائی عن الخلق وانت رجائی"

# تلاوت قرآن مجید اور دعائیں

## قرآنی آیات ادعاؤں سے مشکلات کا حل

سید مبارک حسین گامھی (شاہ صاحب)  
R-31 ڈیکس کارڈن فیروز II کراچی

قارئین امامیہ جنتی! السلام علیکم: تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں بلائیں آتے ہیں۔ شیاطین دور رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ عذاب خدا سے امان ہے۔

### أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

ترجمہ: آگاہ کہ خدا کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے

انسان مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، تنگدستی، بے روزگاری، شادی، مقدمہ بازی اور دشمنوں سے نجات کے لئے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ قرآن الکریم مسلمانوں کے لئے سرفہرست حیات اور رحمت ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو۔ دعا مسلمان کے لئے بہت بڑا سہارا ہے۔ اگر زبان و قلب کے پورے زجور سے دعا مانگی جائے تو ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ ہر دعا اور عمل کے لئے شرط زجور قلبی ہے۔ جب انسان کو مصائب اور مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے اور مایوس ہو جائے تو ایسے میں دل کی تسکین اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اگر دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو دعا ترک نہ کریں۔ بلکہ ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ تاخیر میں بھی مصلحت خداوندی ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

### "وَقَالَ رَبُّكُمْ دَعُونِي سَبِّ لَكُمْ"

ترجمہ: "مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں" دعا مومن کی ڈھال ہے۔ جب بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل جائے گا۔

چند مجرب اور آزمودہ دعائیں پیش خدمت ہیں۔ استفادہ فرمائیں اور مجھ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیز بیانی امامیہ جنتی الحاج آغا ثار احمد (مرحوم) والہیہ مرحومہ کے لئے فاتحہ تلاوت فرمادیں۔

### ثَلَاثُ أَعْوَابِ النَّاسِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ

یہ دونوں سورہ نظر بد کے اثر کا علاج ہیں۔ جو کوئی ان کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے تو بچہ جنات کے شر اور سانپ پھجو وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:

حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت خداوند عالم کے اسم اعظم سے بہ نسبت اس کی زیادہ قریب ہے۔ جس قدر آیت کی سفیدی سے سیاسی نزدیک ہے۔ لہذا ہر حاجت کے لئے اس کا ورد رکھے۔

### حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ:

اس آیت کو وہ شخص پڑھتا رہے جو دشمن کے شر سے ڈرتا ہو۔ اس کے پڑھنے سے بے خوف ہو جائے گا اور سب اذیتیں بند ہو جائیں گی۔ وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . اس آیت کا مسلسل ورد کرتا رہے۔

**سورہ الحمد:** کی یہ عظمت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے اور بندہ اس کے وسیلہ سے جو شے طلب کرتا ہے۔ وہ اس کو عطا ہوتی ہے۔ یہ سورہ تمام سورتوں سے افضل ہے اور سوائے موت کے سب بیماریوں کے لئے شفا ہے۔

### سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ:

امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھے تو خداوند عالم اس پر برکت نازل فرماتا ہے۔ دوسرے مرتبہ پڑھے تو اس پر اور اس کے گھر والوں پر برکت نازل فرماتا ہے۔ تین مرتبہ پڑھے تو اس پر، اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں پر برکت نازل کرتا ہے اور کوئی مرض ہو اور اس سورہ کو اس کے زائل ہونے کے لئے نہ پڑھے تو اہل جہنم سے ہے۔

### سورہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ:

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو اس کو پڑھے تو مہلک اس کی ہے کہ اس نے جو حقانی قرآن پڑھا۔ اس کے خواص میں ہے کہ جو کوئی اس کو طلوع آفتاب کے وقت پڑھ کر دعا کرے قبول ہوگی۔

**جوڑوہ گھنٹوں کے درد کے لئے:**

جوڑوں، گھنٹوں یا پورے جسم میں درد کی شکایت ہو تو امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے " سورۃ تبت یدنا " نماز عشاء کے بعد تین بار پڑھ کر دروای جگہ پر چوکھلیں اور یہ عمل روزانہ کریں جب تک کہ درد میں افادہ نہ ہو جائے۔ انشاء اللہ افادہ ہوگا۔

**نکاح کے لئے:**

کسی لڑکی کو نکاح کے لئے پیغام بھیجنے وقت آیت لکھ کر اپنے بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ پیغام منظور ہوگا۔

" قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ج يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " (سورۃ آل عمران، پارہ ۲، آیت ۷۳-۷۴)

**وسعت رزق کے لئے:**

روزی میں اضافہ، وسعت رزق، برقی عہدہ، تنگ ذہنی اور حصول روزگار کے لئے بعد نماز عشاء روزانہ ۵۰۰ مرتبہ پڑھیں۔ اوّل و آخر ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ " يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " (سورۃ النور، پارہ ۱۸، آیت ۳۳) بہت مجرب ہے۔

**سر کے درد کے لئے:**

کروم کریں۔ انشاء اللہ درد سرجاتا رہے گا۔

" لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفِقُونَ " (سورۃ واقفہ، پارہ ۱۲، آیت ۱۹)

**تلاشِ گمشدہ کے لئے:**

گمشدہ شخص یا کھوئی ہوئی کوئی شے کے لئے مندرجہ ذیل اسم الہی کا روزانہ کثرت سے ورد کریں " يَا مُعِينُ "

**سانپ سے بچاؤ کے لئے:**

جہاں سانپ اور بچھو کثرت ہوں تو درج ذیل آیت کو تین بار پڑھ کر حصار کر لیں۔ " سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ " (سورۃ طہ، پارہ ۲۳، آیت ۷۹)

**بہن بھائیوں کا جھگڑنا**

☆ اس صورت میں کہ چھوٹے بڑے بہن بھائی باہم جھگڑتے ہوں تو درج ذیل آیت ہر ایک کے نیچے پر سو بار پڑھیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ تبدیل نہ ہو۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ (الطارق: ۱۵-۱۶)

بیکہ وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔

**قرض کی ادائیگی کے لئے:**

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں گزارش کی تو آپ نے فرمایا یا علیؑ یہ دعا پڑھیں۔ " اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ " نماز فجر کے بعد روزانہ 110 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کر ڈعامانگ لیا کریں۔

انشاء اللہ جلد ہی قرض سے نجات ملے گی۔ نیز قرض کی ادائیگی کے لئے " استغفار " اور سورۃ قدر کثرت سے روزانہ ورد کرتے رہیں۔ انشاء اللہ جلد ہی قرض ادا ہو جائے گا۔

**دوری نظر بد:**

نظر بد پتھر پر پڑے تو اسے توڑ دینی ہے۔ اور نظر نیک جن کو گل گزار کر دیتی ہے۔ جادو کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب کی بنیاد " حسد " اور آغاز " نظر بد " سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کو نظر بد لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ " سورۃ الہمزہ " ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرے۔ انشاء اللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔

**بچوں اور بڑوں کی بری عادتوں، غلط کاموں کو****چھڑانے اور راہِ راست پر آنے کے لئے:**

رات کو سوئے وقت سر ہانے کھڑے ہو کر گیارہ مرتبہ بلند آواز سے اکیس دن تک درج ذیل آیت پڑھیں۔ انشاء اللہ جلد ہی عادتیں ختم ہو جائیں گی۔

" بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ " فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ "

(سورۃ البروج، پارہ ۳، آیت ۲۰)

**بے روزگاری کے لئے:**

اگر کوئی شخص بے روزگار ہو اور کسی

ملازمت کے لئے درخواست دے۔ تو تین روز تک سات ہزار مرتبہ روزانہ گل اکیس

ہزار مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ اوّل و آخر ایک مرتبہ درود پڑھ کر ڈعامانگیں۔

انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔ " نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ " (سورۃ یوسف آیت نمبر ۷۶)

**سرا ل کے ظلم و ستم کے لئے:**

اکثر سراسر ہندیوں،

سیکے والے، رشتہ دار، بچیوں (ہبو) پر ظلم اور پریشان کرتی ہیں اور بات بات پر جھگڑا

رکھتی ہیں۔ ان لوگوں کی زبان ہندی کے لئے درج ذیل آیت اگلے سامنے چند بار

پڑھو۔ انشاء اللہ سکون میسر آئے گا۔ " وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَ

كُفِيَ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ۝ " (سورۃ النساء آیت ۳۵)

# تحفہ امامیہ - جمیع حاجات

## برائے خاص امامیہ جنتی 2011

زاہد حسین جعفری ملتان

**اسم اعظم دست غیب:** اللہ عزوجل کے جلالی نام پڑھنے سے مشکل حل ہوئے اسم اعظم کہتے ہیں۔ دست غیب کے معنی ہیں کہ انسان کبھی نگر معاش میں پریشان نہ ہو اور قدرت کی طرف سے اس کی امداد ہو کرے۔ تمام بزرگان دین کی امداد غیب سے ہوتی ہے۔ کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے۔ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ کسی نے امیر کائنات حضرت علی سے پوچھا کہ مولا رزق کیسے پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا جیسے موت انسان کو ڈھونڈ کر پہنچتی ہے۔

رزق کے لئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ بہت ہی مجرب دعا ہے۔ یعنی پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ امیر کائنات ابوالاٹمہ حضرت علی۔ امام باقر حضرت امام جعفر صادق اور ضامن غریب ان غریب الغریاء غریب بطوں حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص روزانہ سو مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ واہب العطا یسبب الاسباب غیب سے مدد فرمائے گا۔ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ کے جو صفات ہیں وہ سب حاصل ہوں گے جب ان تمام ہر ن کا فرمان ہو تو پھر شک کیسا۔

**تنگدستی و فحش کی ادائیگی:** ہمیشہ بعد از نماز عشاء درود شریف کے ساتھ اسم مبارک السہی یا وَهَابُ چودہ سو چودہ مرتبہ پڑھ کر ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھیں: يَا وَهَابُ هَبْ لِي مِنْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

**حل مشکلات کے لئے:** یہ دعا امام محمد تقی جو اولیاء السلام سے منقول ہے۔ سختی و غم کو دور کرنے، حل مشکلات اور کشائش رزق کے لئے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ يَا مَنْ يُكْفِي مَنْ كُنِيَ مِنْ كُنَى شَيْءٍ وَلَا يَكْفِي مَنْهُ شَيْءٌ اِكْفِنِي مَا اَهْمَنِي اَوَّلَ وَاخِرَ دُرُودِ شَرِيفٍ پڑھیں۔ (ازمفتاح)

**صروح بخت شامی کے لئے:** الحمد للہ میرا سورۃ الاحزاب والا عمل جو کہ میں نے پچھلے سال امامیہ جنتی 2010 میں دیا تھا۔ بہت کامیاب رہا۔ بہت بچیوں کی شادیاں ہوئیں۔ اندرون و بیرون ممالک سے شکر کے خطوط موصول ہوئے۔ اب مزید شادی کے لئے عمل درج کر رہا ہوں۔ لڑکے یا لڑکیوں کے رشتے نہ آتے ہوں یا من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہوں۔ رشتہ دیکھ کر پھر واپس نہ آتے ہوں۔ بغض و عناد کی وجہ سے بندش کرا دی گئی ہو۔ میں وقت ہر معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہوں۔

**من پسند شامی کے لئے:** چاہل کاف کی مستند اور صحیح ترین عمارت (كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيكَ وَاكْفَى كَفَاكُنَّهَا

**اسم اعظم دو رکعت نماز برائے حاجت:** ایک صحابی حضرت براء بن عازب نے امیر کائنات مولا نے مسلمان امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب سے عرض کیا یا علی میں آپ کو اللہ عزوجل کی وحدانیت اور پیغمبر اعظم کی نبوت کا واسطہ کہ وہ عظیم چیز یعنی اسم اعظم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم چاہو اللہ حل مشکلات کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا جائے اور فوری مشکل حل ہو تو آپ نے فرمایا سورۃ الحمد کی پہلی چھ آیات عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک اور سورۃ حشر کی آخری چار آیات اور سورۃ العنبران کی آیت نمبر ۱۸ شَهِدَ اللَّهُ سے اَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک (بروایت علامہ حلی) اور آیات نمبر ۲۶، ۲۷ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ بِغَيْرِ حِسَابٍ تک حدیث پاک میں ہے کہ سورۃ حشر کی آخری چار آیات سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے اور جو شخص رات کو تلاوت کرے مر جائے تو گو یا وہ شہید مرا۔ (نماز کی حاجت کا طریقہ اور تینوں آیات ایک ساتھ جوابی لفاظی بھیج کر منگوائی جاسکتی ہیں)۔ یہ عمل رزق بے اولاد بچوں کی شادی، غیر ملک جانے کے لئے، تمام پریشانیوں کے لئے، بیماری کے لئے، مجرب اور تیر بہدف دعا اور اسم اعظم ہے۔

**عمل دست غیب:** کلام پاک سے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر ۱۲، ۱۳ اچھی طرح یاد کر لیں۔ خداوند غیب سے رزق کی فراہمی کے لئے یہ عجیب چیز ہے پڑھ کر دیکھ لیں کس طرح رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ میری زبان تعریف سے قاصر ہے۔ خدا کے کلام پاک کا اثر دیکھیں۔ روزانہ بعد نماز مغربین کے بعد عمل کریں۔ روزانہ سو مرتبہ آیات مبارکہ پڑھنی ہیں۔ چاہے دو رکعت نماز میں بعد الحمد 50 مرتبہ اس کی تلاوت کریں یا 4 رکعت درود کے پڑھی جاسکتی ہیں۔ بعد سورۃ فاتحہ 25 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ کل تعداد 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔

**رزق کے لئے بڑا برکت والا عمل:** چار واسطوں سے





# اسرار غیبی

سید محمد الیاس موسوی مشہدی  
اسلام آباد

مرحوم الحاج آغا ثار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک ترین گھڑی میں ایسی جنتی کا آغاز کیا جس نے دنیا اسلام ہی نہیں غیر مسلم قارئین کو بھی علوم آل محمد سے روشناس کرا دیا۔ اور تمام پڑھے لکھے افراد بہت شوق سے اس کا مطالعہ کرتے اور اپنے مسائل کامل اس سے تلاش کرتے ہیں۔ قارئین سے بانی جنتی کی بلندی درجات کیلئے دعا کی استدعا سچے لکھ ایک جنتی سال تک قارئین کی نگاہ میں رہتی ہے۔ لہذا جامع الفوائد عملیات پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر حاجت منداپنی جائز حاجت کے لئے اس سے استفادہ کر سکے۔ حضرات طاہرین علیہم السلام کی امداد سے ہم تجربہ شدہ چند جامع الفوائد جواہرات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

## اس سال 2011ء میں 30 سال کے بعد زحل شرف میں آ رہا ہے

لہذا شرف کے اوقات میں اس فتح نامہ کا تیار کر کے پاس رکھنا بے حد مفید ہوگا جو لوگ ساڑھ سنی اور زحل و دیگر ستاروں کی نحوست وغیرہ سے متاثر ہو رہے ان کے لئے آب حیات کا کام دے گا۔ چونکہ 8 کا عدد عواماً شمس سمجھا جاتا ہے لہذا 8 عدد کی نحوست سے بچنے کے لئے 8 آیات سلام سے استفادہ کیا ہے۔

## نقش آیات سلام کے خواص و فوائد

۵۲۹	۳۵۶۰	۱۷۰۷
۲۸۳۵	مقصد	۳۹۹۱
۳۲۲۲	۲۲۷۶	۱۱۳۸

نقش کا وقتی 6836 ہے

☆..... جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو اور غیر معمولی حالات کا شکار ہوں تو بلا سوچے سمجھے نام نہاد جاہل عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے فی الفور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حاکمان شریعت آئمہ ہدیٰ کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہئے اور توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔ صدقہ و خیرات دینا ضروری ہے اور اس فتح نامہ سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ فتح نامہ ۸ سلاموں پر مشتمل ہے اور اس کے مندرجہ ذیل خواص و فوائد ہیں۔

۱۔ اس نقش فتح نامہ کو ساعت سعیدہ میں لکھ کر جو بھی لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے گا یا بازو پر باندھے گا اسے اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی ہوگی اور اپنی ہر دلی مراد حاصل ہوگی۔ انشاء اللہ مثلاً شادی بیاہ، روزی، ملازمت، تیسر خلافت، عزت و وقار، ترقی مراتب وغیرہ۔ اس مقصد کے لئے ۲۰۲ مرتبہ آیات کا ورد

قرآن مجید میں ”سلام“ کا لفظ یائیس (۴۲) مرتبہ آیا ہے، ہم رفع نحوست کے لئے صرف آٹھ (۸) آیات سلام کی آیات مبارک سے استفادہ کر رہے ہیں۔

- 1 سلام قولاً من رب رحیم (تین، آیت، 58، پارہ 23، اعداد 818)
- 2 سلام علی نوح فی العالمین (الصف، آیت، 79، پارہ 23، اعداد 627)
- 3 سلام علی ابراہیم (الصف، آیت، 109، پارہ 23، اعداد 500)
- 4 سلام علی موسیٰ و ہارون (الصف، آیت، 120، پارہ 23، اعداد 625)
- 5 سلام علی الیاسین (الصف، آیت، 130، پارہ 23، اعداد 403)
- 6 سلام علی المرسلین (الصف، آیت، 181، پارہ 23، اعداد 662)
- 7 سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین (سورہ زمر، آیت، 73، پارہ 24، اعداد 2174)
- 8 سلام ہی حتی مطلع الفجر (القدر، آیت، 5، پارہ 30، اعداد 1027)

کل اعداد 6836

## ہشت آیات سلام کا نقش خالی البطن

جمعرات یا جمعہ کے دن پہلی ساعت یہ نقش زعفران و عرق گلاب سے لکھیں۔ سعید ساعت کا انتخاب نہایت احتیاط سے کریں۔

روزانہ کریں۔

۲۔ دشمنوں کو ذلت و خوارگی و شکست فاش پہنچانے کے لئے چھ روز کا عمل ہے ہر روز آیات سلام ایک سوا ایک بار اول و آخر گیارہ بار درود مجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ پڑھیں۔ خدائے ذوالجلال کی مدد سے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔

۳۔ جو شرمین سے محفوظ رہنا چاہئے تو روزانہ ۳۱۳ بار آیات سلام پڑھے۔ انشاء اللہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۴۔ زہریلا جانور کاٹنے تو اس پر اثر نہ ہوگا۔

۵۔ شادی کا نہ ہونا، بندش، رکاوٹ، بانجھ پن، ملازمت کا نہ ملنا، سحر و جادو اس کے لئے روزانہ ایک سوا ایک بار ۴۱ یوم پڑھیں۔ ایک نقش گلے میں پہنیں اور ایک نقش زعفران سے لکھ کر روزانہ چالیس یوم بیئیں۔

۶۔ برائے کشف اسرار غیبی۔ پردہ غیب سے راز خداوندی معلوم کرنے کیلئے چالیس روز کا عمل ہے۔ روزانہ ۱۶ مرتبہ آیات سلام پڑھیں۔ انشاء اللہ اسرار غیبی منکشف ہوں گے۔

۷۔ عزت و وقار اور ترقی مراتب کے لئے روزانہ گیارہ مرتبہ آیات سلام پڑھے۔  
۸۔ تمام مشکلات، مہمات اور جملہ دشواریوں کے حل کے لئے آیات سلام ۲۰۲ مرتبہ ورد بے حد مؤثر ہے۔

۹۔ انتہائی وحشت کی دوری اور قید و بند اور پھانسی سے نجات کے لئے روزانہ ۱۶۵ مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ۲۵ مرتبہ سورہ جن پڑھیں۔ اجازت لینا ضروری ہے۔

۱۰۔ تسخیر خلائق کیلئے ۱۰ مرتبہ نیز جس مقصد کے لئے پڑھیں گے انشاء اللہ غیب سے سامان ہوگا اور کامیابی قدم چومے گی۔

۱۱۔ جو شخص روزانہ ۱۰ مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھے وہ اس کے عجیب و غریب اثرات دیکھے گا اور انشاء اللہ ہر کام میں کامیابی ہوگی۔ زیادہ فوائد لکھنے سے قلم قاصر ہے اور آیات سلام کو روزانہ پڑھیں اپنی زندگی خوش و خوش حالی سے بسر کریں۔ یہ عمل جو بھی یقین کامل کے ساتھ کرے گا انشاء اللہ ضرور بہ ضرور کامیاب ہوگا۔

۱۲۔ آیات سلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ۸ سلام جادو کے توڑ خاتمہ کے لئے بھی بے حد مفید ہیں اور سحری و جادوئی اثرات کو ختم

کرنے کیلئے فوری اثر کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے معجزہ نما مسلمانوں سے بھر پور استفادہ کیا ہے۔ اگر کسی انسان پر زبردست جادو ہو اور کسی بھی طرح جادو کے اثر سے نجات نہ ملتی ہو تو آیات سلام کے نقش ”لوح فتح نامہ“ کے ذریعے جادو اور سحر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک نقش مریض کے گلے میں ڈال دینا چاہئے اور ایک نقش زعفران سے لکھ کر مریض کو پینے کے لئے دینا چاہئے۔ انشاء اللہ سخت سے سخت جادو ختم ہو جائے گا اور مریض ۲۸ یوم میں مکمل صحت یاب ہو جائے گا اور جس کسی نے بھی جادو کیا ہو گا وہ جادو پلٹ جائے گا۔

۱۳۔ جس لڑکی کا بخت بستہ ہو اور شادی نہ ہو رہی ہو وہ ۱۳۵ مرتبہ اور جس لڑکے کا بخت بستہ ہو وہ ۲۰۲ مرتبہ ان آیات کا ورد کرے اور نقش کاغذ پر یا چاندی کی لوح بنوا کر پاس رکھے۔ بخت کشادہ ہوگا۔

۱۴۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ان آیات کو ۳۱۳ مرتبہ اور آیت معراج (سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت) ۲۶۸ مرتبہ بلاناغہ عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے ورد بنائیں کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔

**نوٹ:** کسی بھی مقصد کے لئے عمل کرنے سے پہلے امام ہشتم حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا بدیہ دور رکعت نماز اور نذر دے کر عمل شروع کریں اور جب مقصد حاصل ہو جائے تو پھر دوبارہ مولانا امام ہشتم علیہ السلام کا دسترخوان ضرور ادا کریں۔ خداوند کریم بظہل حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کو اپنے مقاصد شرعیہ میں کامیاب فرمائے۔ آمین

**روحانی امداد**

اہل بیت سے پاکیزہ علوم کی روشنی میں آپ کی الجھنوں اور رکاوٹوں، خواہ رشتہ، شادی بیاہ یا ملازمت، غرض کسی ہی پریشانی ہو مل موجود ہے۔ انشاء اللہ آپ کی خدمت ہمارے لئے سعادت ہے۔

رابطہ: علامہ آغا السید محمد ابوالحسن موسوی مشہدی

بیت الزہراء، مکان نمبر 494، سٹریٹ 106، آئی، 8/4، اسلام آباد

موبائل: 0300 5090814, 0345 5457551

فون: 0092 51 4443094, 4446360

**منگنی و نکاح کے لئے (امام ضامن) دستیاب ہیں**

انتخاب رنگ ڈیوڑھی اور اسلام پورہ لاہور 042 37223686

# ہر شرعی اور جائز مسئلے کا حل

## محمد و آل محمد کے توسل سے

قارئین امامیہ جنتی آپکی خدمت میں آئمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق چند عملیات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

### امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ برائے

#### بخت کشائی دختران:

آج کل اکثر والدین بچوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جو موٹھیں و مومنات پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی کے حل کے لئے در خدمت اقدس امام زمانہ عجل اللہ فرجہ میں عریضہ پیش کریں جو کہ یہ ہے۔

تَوَسَّلْتُ إِلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ  
بِنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  
عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَلْبَاءِ  
الْعَظِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَعِصْمَةِ الْأَجِينِ بِأَمِّكَ  
سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَبِأَبَائِكَ الطَّاهِرِينَ وَ  
بِأُمَّهَاتِكَ الطَّاهِرَاتِ وَحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَنُورِ النُّورِ وَ  
كِتَابِ مُسْطُورٍ أَنْ تَكُونَ سَفِيرِي إِلَى اللَّهِ فِي الْحَاجَةِ

اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیں اور اس کو پاک مٹی میں رکھ کر کنویں یا آب جاری میں رو قبیلہ ڈالیں اور کہیں يَا عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَوْ صِلْ رُقِعْتِي هَذِهِ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (عجربے)۔

جو حضرات ان اعمال کے کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ لوح پختن پاک بنوا کر اپنے پاس رکھیں۔ جملہ مقاصد سے مستفید ہوں گے۔ لوح پاک یہ ہے۔

۷۸۶	۱۲۱	۱۲۶	۱۳۲	۹۲
۱۳۲	۹۵	۱۰۸	۱۱۹	۱۲۹
۱۱۷	۱۲۷	۱۳۵	۹۳	۱۱۱
۹۶	۱۰۹	۱۲۰	۱۲۵	۱۳۳
۱۲۸	۱۳۱	۹۴	۱۱۲	۱۱۸

نام صح والدہ لکھیں

عریضہ در خدمت امام زمانہ جو ابی لفاظہ بھیج کر مفت طلب کریں۔

### ترض سے نجات: نذر حضرت امام محمد تقی

قضاے حوائج اور ادائیگی ترض کے لئے حمد المبارک کے دن غسل کر کے قبل از طلوع شمس دو رکعت نماز بطریق نماز فجر ادا کرے اور بعد از نماز ایک ہزار پینتالیس (1045) مرتبہ پڑھے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور اس کا ثواب امام محمد تقی جو اولیاء علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرے تو انشاء اللہ کامیاب و کامران ہوگا۔

### هرغم سے نجات کے لئے:

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز عاشور میرے پدر بزرگوار نے میرے نیچے میں اس حالت میں نزول اجلال فرمایا کہ آپ کی تمام زہر سے خون جوش مار رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ دعا میری ماں نے میرے نانا اور نانا نے جبرائیل سے مجھے تعلیم فرمائی کہ خداوند معصوم میں پڑھی جائے جو بھی سنگین و پریشان اس کو پڑھے گا۔ خدا اس کو نجات دے گا۔ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِحَقِّ يَسِّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  
وَبِحَقِّ طِهِّ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ يَا مَنْ يَقْدُرُ عَلَى حَوَائِجِ  
السَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الضَّمِيرِ يَا مَنْقَسُ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ  
وَيَأْمُرُ عَنِ الْمَغْمُومِينَ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَا  
رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ صَلِّ  
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کرے۔

### قبولیت دعا کے لئے:

سید ابن طاووس علیہ الرحمۃ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ بقدر ایک سانس یا اللہ بقدر ایک سانس یا الرحمن اور بقدر ایک سانس یا رحیم کہہ کر دعا مانگی جائے تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن شریف کی سو آیتیں کسی بھی جگہ سے پڑھ کر سات مرتبہ یا اللہ کہہ کر اگر دعا کی جائے تو مستجاب ہوگی۔

سید ندیم حیدر زیدی الواسطی 0300 4178137, 0333 4322756

786 آٹو شور کمان نمبر 3 فرسٹ فلور شا آٹو مارکیٹ، بادای باغ لاہور 042 37720984

## آیات قرآنی کے ذریعہ جادو کا توڑ

اگر حالات و گرتوں ہوں، تمام کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہوں۔ خون کے چھینٹے گھر میں گر میں یا کپڑوں پر پائے جائیں۔ قفل کے اندر بھی کپڑے محفوظ نہ ہوں۔ بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں غلط پیدا ہو اور آپ کا ذہن یہ نتیجہ اخذ کرے کہ کیا آپ پر جادو کار تو نہیں کیا گیا تو یہ ناچیز کتاب بین میں سے ایک بہترین توڑ پیش کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کیجئے اور اس عمل کا نتیجہ دیکھئے اور ناچیز کو بھی مطلع کیجئے۔

**طریقہ عمل:** چاند کی پہلی تاریخوں میں جو کہ 1 سے 3 یا 7 سے 9 تک شروع ہوں ان میں 11 گیارہ کنکر یا چھپن یا پتھر کی لیے لیں۔ ان کنکریوں پر روزانہ 41 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں۔ 41 دن تک سورہ فیل پڑھ کر ان کنکریوں کو اپنے گھر کے حدود اربعہ کے چاروں طرف باہر کی جانب پھینک دیں۔ انشاء اللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں آگ کا چولہا جلا کر اس کے پاس بیٹھ کر سورہ فیل اکتالیس مرتبہ روزانہ چاند کی مندرکہ بالا تاریخ کے حساب سے پڑھیں۔ 41 روز تک پڑھنے سے جادو کرنے والے پر اپنا اثر ہوگا۔

### فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّنَ

پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا

سورہ فیل پڑھیے اور حملہ آور پر واپسی کا اثر دیکھئے۔ کیا آپ یہ جانتا چاہتے ہیں کہ آپ پر واقعی جادو ہوا ہے یا نہیں تو ٹشو پیپر پر اپنے خون کے دو تین قطرے لگا کر اس ناچیز کو بیچے اور بذریعہ فون رابطہ کر کے معلوم کر لیجئے۔

### ہومیو ڈاکٹر سید عقیل حسن شاہ

حالی ہومیو پیتھک کمپیوٹرائزڈ کلینک لاہور کینٹ 0322 4812453

## استاذہ محضوہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام

دور کعت نماز ہدیہ ابوالفضل العباس پڑھیں۔ پھر (۱۳۳) مرتبہ درج ذیل دعا پڑھیں "یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام" اے پریشانی کو دور کر نوالے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت کا واسطہ اِکْشِفْ کَرْبِیْ بِحَقِّ اَخِیْکَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ " میری پریشانی کو دور فرمائیے۔ آپ کو آپ کے بھائی حضرت امام حسین کے حق کا واسطہ اؤل و آخر گیارہ مرتبہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر رُو رُو پڑھیں۔

## آزمودہ دعائیں برائے کشادگی رزق

(1) یا بَاسِطُ بِحَقِّ مِیْکَائِیلَ کَمَا نَا کَمَا نَہُ الْبَدْحِ 45 مرتبہ پڑھیں۔ خدا تعالیٰ رزق میں ترقی دے گا۔ (2) یا وَهَّابُ یا رَزَّاقُ یا خَالِصُ یا مُخْلِصُ یا مُعِزُّ یا وَکِیْلُ ایک تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنے سے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ (3) یا بَاسِطُ اِنْسِطُ فِی رِزْقِیْ بِحَقِّ یا بَاسِطُ ایک تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنے سے کبھی غربت قریب نہیں آئے گی۔ ملازمت میں ترقی اور کاروبار میں عزت و افتخار میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ غیب سے امداد ملے گی۔ قرض کتنا ہی کیوں نہ ہو دونوں میں اتر جائے گا۔ سیاست میں حصہ لینے والے موثر بنیں پڑھیں۔ کبھی شکست نہ ہوگی۔ ہر جمعرات غازی عباس علمدار علیہ السلام کی نیاز دلائیں اور مضموم بچوں میں تقسیم کریں۔ (4) اَللّٰهُ نَبِیُّ کُلِّ نُوْرٍ یا مُحَمَّدٌ یا رَسُوْلٌ میں اکیلا منزل درود کرو یا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ صدقہ چھتین پاک کا نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھیں۔ رزق کشادہ ہو گا۔ اگر نقدے یا کسی بھی کام میں حق مطلوب ہے، سچی کار شہ مطلوب ہو۔ اگر مالک یا افسر مہربان نہ ہو تو دائیں ہاتھ پر 7 مرتبہ پڑھ کر چھوٹک مار کر سلام کریں۔ مہربان ہوگا بلکہ ہمیشہ مہربان ہوگا۔ (5) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ روزانہ 101 مرتبہ اول آخر درود پڑھیں روزی کشادہ ہوگی۔ غمی ہوگا کبھی تنگدستی نہیں آئے گی۔ (6) الْمَلِکُ ایک ہزار مرتبہ تین روز بوقت رات 2 بجے پڑھے۔ کبھی زندگی بھر کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ غمی ہوگا۔ مولائے کائنات اور آل رسول کے مدد سے وقت کا بادشاہ ہوگا۔ (7) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ایک مرتبہ بعد از نماز مغرب پڑھنے والا غمی ہوگا اور اس قدر رزق ملے گا کہ سنبال نہیں سکے گا۔ (8) یا حَسْبِیْ یا قِیُوْمُ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے والے کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ امر اور غیب بھی نظر آئیں گے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ (9) یا حَاضِرُ یا نَاطِرُ یا حَافِظُ یا نَاصِرُ یا شَافِیُّ یا حَسْبِیْ یا مَالِکُ نماز عشاء کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ (10) یا قُوِّیْ یا عَلِیُّ یا کَبِیْرُ یا مُتَعَالٍ یا غَنِیُّ الْمُسْتَغْنِیُّ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ پڑھے غمی ہوگا رزق کشادہ ہوگا۔

پروفیسر سید ظفر عباس پیرزادہ ایم اے

0300 6560121, 0333 7333121

# صحت، سکون، کامیابی اور خوشحالی بذریعہ ریکی روحانیت و اسمائے حسنیٰ

ڈاکٹر سید نیاز محمد ہدائی۔ فاضل تم۔ ایم اے (اسلامیات۔ عربی۔ فارسی) پنی انج ڈی (روحانیت اور روحانی معالجہ)

گزشتہ دو سالوں میں ریکی، امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی قوت شفا یعنی رضوی ریکی اور اسمائے حسنیٰ کے بارے میں میری تحریر کو قارئین امامیہ جنتی نے جو پذیرائی دی اس پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو بات بہت زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ کہ امامیہ جنتی کے باشعور قارئین کی طرف سے صرف ریکی کے ذریعے بیماریوں کے علاج، ریکی کی تربیت حاصل کرنے کی لگن کا ہی اظہار نہیں کیا گیا بلکہ اس کے علاوہ زندگی کے مسائل اور ریکی اور روحانیت کے بارے میں بہت خوبصورت سوال بھی سال بھر کئے جاتے رہے۔ انہی سوالات کی روشنی میں یہ تحریر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔

دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں صحت، سکون، کامیابی اور خوشحالی کا خواہشمند ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ لیکن ہوتا ہے کہ بھرپور کوشش کے باوجود بہت سے لوگ ان نعمتوں کو نہیں پا سکتے اور ان کی زندگی دکھوں اور پریشانیوں کے سائے میں بسر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ان چیزوں کی کمی ہے؟ اگر نہیں!!! حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ان کے علاوہ دنیا کی ہر نعمت اللہ کے خزانے میں اتنی ہی وافر ہے جتنی ہوا اور پانی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ان سب چیزوں کی اتنی فراوانی ہے اور اللہ تعالیٰ رحمن، رحیم، کریم اور فیاض رب ہے تو پھر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان نعمتوں سے محروم کیوں ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف انسان کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دریا پر جائے تو جتنا بڑا برتن لے کے جائے گا اتنا زیادہ پانی دریا سے لاسکے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی برتن نہ ہو، یا برتن کا پینڈا نہ ہو یا برتن کا منہ بند ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے دریا کے کنارے ہونے کے باوجود آپ پانی حاصل نہیں کر پائیں گے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے پر مجبور ہوں گے۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے وسیع سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح دریا سے پانی بھرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اسی طرح کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سمندر سے اپنا ظرف بھر لینے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر سے جتنی مقدار میں چاہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کے ساتھ مناسب رکھنے والا برتن یعنی ظرف ہو۔

ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے وسیع سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح دریا سے پانی بھرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اسی طرح کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سمندر سے اپنا ظرف بھر لینے پر کوئی پابندی نہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر سے جتنی مقدار میں چاہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کے ساتھ مناسب رکھنے والا برتن یعنی ظرف ہو۔

ہمارا اصل مسئلہ ظرف کا مسئلہ ہے۔ یا تو ہمارے پاس کوئی ظرف نہیں ہوتا یا پھر ظرف میں بہت خرابی ہوتی ہے۔ ہمارے وجود کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جن سے ہمارے ظرف کی تشکیل ہوتی ہے۔ ان پہلوؤں میں سے ایک مادی اور جسمانی پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہمارے جذبات ہیں۔ تیسرا پہلو ہماری سوچ اور چوٹھا پہلو ہماری روحانی کیفیت ہے۔ بد قسمتی سے عام طور پر لوگ صرف مادی اور جسمانی پہلو کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ اس بات سے انکار نہیں کہ مادی اور جسمانی پہلو اور اس کی توانائی (Energy) بہت اہم ہے اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس کی اہمیت دوسرے تمام پہلوؤں کی نسبت کم اہم ہے۔ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جسمانی اور مادی طاقت اور توانائی کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات، ہماری سوچ اور ہماری روحانیت کی انرجی کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ مادی اور جسمانی توانائی کے ساتھ اگر جذبات، سوچ اور روحانیت کی توانائیاں (Energies) بھی تعمیری انداز میں فعال ہوں تو ہمارے سارے کام کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر مادی اور جسمانی توانائی (Energy) کے بھرپور طور پر فعال ہونے کے باوجود جذبات، سوچ اور روحانیت کی توانائیاں (Energies) مناسب طور پر فعال نہ ہوں تو کامیابی، خوشحالی اور سکون و صحت کی نعمتیں حاصل نہیں ہو سکیں گی اور ہماری ساری کوششیں ناکامی سے دوچار ہو جائیں گی۔

بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں جذبات، سوچ اور روحانی تربیت کا نظام یا تو بالکل نہیں ہے یا پھر بہت ہی ناقص ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی جذبات، سوچ اور روحانیت کی انرجی مثبت اور تعمیری انداز میں عمل کرنے کی بجائے منفی اور تخریبی انداز میں کام کر رہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے کام ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے بھر جاتی ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے جذبات، ہماری سوچ

# مغرب دعائیں و عملیات

## 1- وسعت رزق و خیر و برکت: حضرت امام جعفر صادقؑ سے

روایت ہے کہ جو کوئی جمعہ کے روز دو رکعت نماز پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم اور دوسری رکعت میں سورہ حجر پڑھے تو اس کو فقر و جنوں و مصیبت نہ آئے گی۔

## 2- ملازمت ملنے کے لئے: ان اسمائے حسنة کو آخرات میں تہجد کے

بعد پانچ سو بار پڑھے اور اگر تہجد کے وقت ممکن نہ ہو تو بعدِ عشاء پڑھے۔ چند دن کی مداوت سے نوکری مل جائے گی۔ انشاء اللہ یا اللہ یا لطیف یا فاتح یا باسط یا رزاق یا غنی یا مغنی یا معطی یا منعم اور ہر روز اس کی مداوت کرنے سے نوکری سے معطل نہ ہوگا۔

## 3- غنا اور ادائیگی قرض: سورہ نصر روزانہ آیتیں بار بار پڑھے

باذن اللہ تعالیٰ غنی ہو جائے گا اور ادائے قرض کے لئے ایک ہزار بار یا واجب پڑھے۔ قرض سے نجات ملے گی۔

## 4- حاسدوں کی زبان بندی کے لئے: صَلَّی اللہ

عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ نُورٌ "مِنْ نُورِ اللہِ" محفل میں بیٹھتے اور اٹھتے وقت اور آتے جاتے وقت پڑھے۔ حاسدین، حاسدوں اور جھٹل خوروں کی زبان بند رہے گی۔

## 5- بانجھ عورت کے لئے: چالیس روز تک سورہ منزل شریف ہر روز

ایک مرتبہ چھوڑے پر پڑھ کر کھلائے، بشرط چاند سے بعد نماز صبح پڑھا کرے۔ انشاء اللہ مراد حاصل ہوگی۔ وہ سات روزے رکھے اور افطار کے وقت اکیس بار یا مَصْوُور پڑھے۔ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے۔ حق تعالیٰ یک فرزند عطا فرمائے گا۔

## سینے کی جلن سے نجات کا دھیس ٹونکہ

جس کسی کو کھانے کے بعد سینے میں گیس اور جلن محسوس ہو چاہے جتنی شدید ہو۔ چھاپھ (تسی) میں سرخ مرچ اور نمک ڈال کر اس میں روٹی بھگو کر کھا لینے سے اس مرض سے نجات ملتی ہے۔

ہر قسمی امراض، مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لئے فی سبیل اللہ تعویذات وغیرہ منگوائیں۔ یا دوائف حاصل کریں۔ جواب طلب امور کے لئے جوابی لفاظی ضرور ارسال فرمائیں۔

محمد نعیم قادری clo فریدی پبلک سکول۔ محلہ شمس آباد، کالج روڈ، تونسہ شریف، ضلع ڈیرہ غازیخان۔ فون: 0301 7906477, 0333 8916586

اور روحانیت کی توانائیاں مثبت اور تعمیری انداز میں فعال ہو جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کے کئی طریقے موجود ہیں مگر ریگی کی تربیت حاصل کر کے ہم اس مقصد کو بہت سادہ اور آسان طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ریگی کی تربیت حاصل کر کے ہمارے وجود کے ساری توانائیاں (Energies) بہت مثبت اور تعمیری انداز میں فعال ہو جاتی ہیں۔ ریگی درحقیقت ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آفاقی روحانی اصولوں پر مبنی ہے۔

ہر دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کی تربیت حاصل کر سکتا ہے اس لئے کہ اس کے اصول و قواعد کسی دین اور مذہب کے عقائد سے نہیں ٹکراتے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کی تربیت حاصل کرنے کے لئے کوئی مشکل ریاضتیں اور عملیات نہیں کرنے پڑتے۔

ریگی کی پریکٹس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ بہت سے طالب علم اپنی تعلیمی کارکردگی اور اپنے گریڈ میں نمایاں بہتری لائے ہیں۔ اسی طرح سے گھریلو اور کاروباری معاملات اور لوگوں کے ساتھ روابط اور تعلقات غرض یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ریگی کے ذریعے بہتری نہ لائی جاسکتی ہو۔

بدقسمتی سے پاکستان کے حالات ایسی صورت اختیار کر چکے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کی مشکلات روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ صرف ایک بجلی کی کمی نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے دن کو کام ہو سکتا ہے نہ رات کو آرام۔ بدامنی، دہشت گردی، مہنگائی کے مسائل اس کے علاوہ ہیں۔ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان حالات کے نتیجے میں ہماری قوم میں نفسیاتی امراض کا گراف کتنی تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ ریگی اور روحانیت اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک آسان اور موثر ذریعہ ہیں۔ خاص طور پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی قوت شفا یعنی رضوی ریگی حضرت امام رضا علیہ السلام سے توسل کا ایک موثر اور سائنٹیفک طریقہ ہے جس کی بدولت زندگی کی کواٹھی میں حیرت انگیز نمایاں بہتری آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کی حیرت انگیز روحانی تاثیر بھی ہماری زندگی سے ہر قسم کے منفی اثرات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات تجربے اور مشاہدے میں آئی ہے کہ ریگی اور اسمائے حسنیٰ کو سیکھا کر کے بہت تیزی سے مثبت نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بحق محمد وآل محمد تمام مومنین و مومنات کو دنیا و آخرت کی خیر و

برکت عطا فرمائے۔ 0092-42-7415442, Mob: 0333-4394138

URL: www.drhamadani.org.  
email: syedniazm@yahoo.com

# لَوْحِ دَاعِيِ اللّٰهِ

## سیارہ زُحل کے بد اثرات کا خاتمہ

### فیضِ حسینی:

مولانا عادل گفنام علی حسینی (مصنف کائنات، جزو روحِ عملیات)

تکلیف مندرال والد غازی آباد حسینی سٹریٹ نمبر 1 لاہور (پاکستان)

فون موبائیل: 0321 4534910, 0300 4534910

يَقُوْمُ مَنَّا اَحْيُوْا دَاعِيِ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِزْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ (الاحقاف پارہ نمبر ۲۶ آیت نمبر ۳۱)

ترجمہ: اے ہماری قوم! داعی اللہ (اللہ کی طرف بلائے والے) کی بات مانو۔ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور تم کو دردناک عذاب سے بچالے گا۔

اصداق قمری	باطن	ظاہر
1	= ا	= ف
110	= لف	= ا
56	= ون	= ن
1	= ا	= ت
1	= ا	= ظ
1	= ا	= ر
7	= اد	= د
110	= لف	= ا
287		

قارئین امامیہ جنتری! داعی اللہ کے اعداد قمری (۱۵۱) ہیں۔

د + ا + ع + ی + ا + ل + ل + ہ +

۱۵۱ = ۵ + ۳۰ + ۳۰ + ۱۰ + ۷۰ + ۱ + ۳

جو کہ ختمی المرتبت سرکار محمد مصطفیٰ سے امام مہدیؑ تک چودہ معصومین علیہم السلام داعی اللہ ہیں یعنی

اسم محمد کے اعداد قمری

م + ح + م + د

۹۲ = ۳ + ۳۰ + ۸ + ۳۰

اسم امام مہدی کے اعداد قمری

م + ہ + د + ی

۱۵۱ = ۳۰ + ۵ + ۳ + ۱۰ = ۵۹ (۵۹ + ۹۲) = ۱۵۱

داعی اللہ کے حروفوں کی تعداد (۸) ہے۔ خالص حروفوں کی تعداد چھ (۶) ہے۔ دونوں کو جمع کیا تو (۶ + ۸) = ۱۴ جو کہ چودہ معصومین علیہم السلام کی طرف اشارہ ہے۔

داعی (اللہ کی طرف بلائے والے) کے ملفوظی اعداد

دال ۳۵ / الف ۱۱۱ / عین ۱۳۰ / یا ۱۱ / ۲۸۷ =

جو کہ امام اباقاسم (امام زمانہ علیہ السلام) کے اعداد ہیں۔

قُلْ فَانظُرُوْا اَنْتُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِيْنَ (سورۃ یونس آیت نمبر ۱۰۲)

ترجمہ: کہہ دو تم بھی انتظار کرو۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں

فَاَنْتَظِرُوْا کا باطن لیا تو راز عیاں ہوا۔

امام ۸۲/۱، ۲/۱، ۳/۱، ۴/۱، ۵/۱، ۶/۱، ۷/۱، ۸/۱، ۹/۱، ۱۰/۱، ۱۱/۱، ۱۲/۱، ۱۳/۱، ۱۴/۱، ۱۵/۱، ۱۶/۱، ۱۷/۱، ۱۸/۱، ۱۹/۱، ۲۰/۱، ۲۱/۱، ۲۲/۱، ۲۳/۱، ۲۴/۱، ۲۵/۱، ۲۶/۱، ۲۷/۱، ۲۸/۱، ۲۹/۱، ۳۰/۱، ۳۱/۱، ۳۲/۱، ۳۳/۱، ۳۴/۱، ۳۵/۱، ۳۶/۱، ۳۷/۱، ۳۸/۱، ۳۹/۱، ۴۰/۱، ۴۱/۱، ۴۲/۱، ۴۳/۱، ۴۴/۱، ۴۵/۱، ۴۶/۱، ۴۷/۱، ۴۸/۱، ۴۹/۱، ۵۰/۱، ۵۱/۱، ۵۲/۱، ۵۳/۱، ۵۴/۱، ۵۵/۱، ۵۶/۱، ۵۷/۱، ۵۸/۱، ۵۹/۱، ۶۰/۱، ۶۱/۱، ۶۲/۱، ۶۳/۱، ۶۴/۱، ۶۵/۱، ۶۶/۱، ۶۷/۱، ۶۸/۱، ۶۹/۱، ۷۰/۱، ۷۱/۱، ۷۲/۱، ۷۳/۱، ۷۴/۱، ۷۵/۱، ۷۶/۱، ۷۷/۱، ۷۸/۱، ۷۹/۱، ۸۰/۱، ۸۱/۱، ۸۲/۱، ۸۳/۱، ۸۴/۱، ۸۵/۱، ۸۶/۱، ۸۷/۱، ۸۸/۱، ۸۹/۱، ۹۰/۱، ۹۱/۱، ۹۲/۱، ۹۳/۱، ۹۴/۱، ۹۵/۱، ۹۶/۱، ۹۷/۱، ۹۸/۱، ۹۹/۱، ۱۰۰/۱، ۱۰۱/۱، ۱۰۲/۱، ۱۰۳/۱، ۱۰۴/۱، ۱۰۵/۱، ۱۰۶/۱، ۱۰۷/۱، ۱۰۸/۱، ۱۰۹/۱، ۱۱۰/۱، ۱۱۱/۱، ۱۱۲/۱، ۱۱۳/۱، ۱۱۴/۱، ۱۱۵/۱، ۱۱۶/۱، ۱۱۷/۱، ۱۱۸/۱، ۱۱۹/۱، ۱۲۰/۱، ۱۲۱/۱، ۱۲۲/۱، ۱۲۳/۱، ۱۲۴/۱، ۱۲۵/۱، ۱۲۶/۱، ۱۲۷/۱، ۱۲۸/۱، ۱۲۹/۱، ۱۳۰/۱، ۱۳۱/۱، ۱۳۲/۱، ۱۳۳/۱، ۱۳۴/۱، ۱۳۵/۱، ۱۳۶/۱، ۱۳۷/۱، ۱۳۸/۱، ۱۳۹/۱، ۱۴۰/۱، ۱۴۱/۱، ۱۴۲/۱، ۱۴۳/۱، ۱۴۴/۱، ۱۴۵/۱، ۱۴۶/۱، ۱۴۷/۱، ۱۴۸/۱، ۱۴۹/۱، ۱۵۰/۱، ۱۵۱/۱، ۱۵۲/۱، ۱۵۳/۱، ۱۵۴/۱، ۱۵۵/۱، ۱۵۶/۱، ۱۵۷/۱، ۱۵۸/۱، ۱۵۹/۱، ۱۶۰/۱، ۱۶۱/۱، ۱۶۲/۱، ۱۶۳/۱، ۱۶۴/۱، ۱۶۵/۱، ۱۶۶/۱، ۱۶۷/۱، ۱۶۸/۱، ۱۶۹/۱، ۱۷۰/۱، ۱۷۱/۱، ۱۷۲/۱، ۱۷۳/۱، ۱۷۴/۱، ۱۷۵/۱، ۱۷۶/۱، ۱۷۷/۱، ۱۷۸/۱، ۱۷۹/۱، ۱۸۰/۱، ۱۸۱/۱، ۱۸۲/۱، ۱۸۳/۱، ۱۸۴/۱، ۱۸۵/۱، ۱۸۶/۱، ۱۸۷/۱، ۱۸۸/۱، ۱۸۹/۱، ۱۹۰/۱، ۱۹۱/۱، ۱۹۲/۱، ۱۹۳/۱، ۱۹۴/۱، ۱۹۵/۱، ۱۹۶/۱، ۱۹۷/۱، ۱۹۸/۱، ۱۹۹/۱، ۲۰۰/۱، ۲۰۱/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۳/۱، ۲۰۴/۱، ۲۰۵/۱، ۲۰۶/۱، ۲۰۷/۱، ۲۰۸/۱، ۲۰۹/۱، ۲۱۰/۱، ۲۱۱/۱، ۲۱۲/۱، ۲۱۳/۱، ۲۱۴/۱، ۲۱۵/۱، ۲۱۶/۱، ۲۱۷/۱، ۲۱۸/۱، ۲۱۹/۱، ۲۲۰/۱، ۲۲۱/۱، ۲۲۲/۱، ۲۲۳/۱، ۲۲۴/۱، ۲۲۵/۱، ۲۲۶/۱، ۲۲۷/۱، ۲۲۸/۱، ۲۲۹/۱، ۲۳۰/۱، ۲۳۱/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۳/۱، ۲۳۴/۱، ۲۳۵/۱، ۲۳۶/۱، ۲۳۷/۱، ۲۳۸/۱، ۲۳۹/۱، ۲۴۰/۱، ۲۴۱/۱، ۲۴۲/۱، ۲۴۳/۱، ۲۴۴/۱، ۲۴۵/۱، ۲۴۶/۱، ۲۴۷/۱، ۲۴۸/۱، ۲۴۹/۱، ۲۵۰/۱، ۲۵۱/۱، ۲۵۲/۱، ۲۵۳/۱، ۲۵۴/۱، ۲۵۵/۱، ۲۵۶/۱، ۲۵۷/۱، ۲۵۸/۱، ۲۵۹/۱، ۲۶۰/۱، ۲۶۱/۱، ۲۶۲/۱، ۲۶۳/۱، ۲۶۴/۱، ۲۶۵/۱، ۲۶۶/۱، ۲۶۷/۱، ۲۶۸/۱، ۲۶۹/۱، ۲۷۰/۱، ۲۷۱/۱، ۲۷۲/۱، ۲۷۳/۱، ۲۷۴/۱، ۲۷۵/۱، ۲۷۶/۱، ۲۷۷/۱، ۲۷۸/۱، ۲۷۹/۱، ۲۸۰/۱، ۲۸۱/۱، ۲۸۲/۱، ۲۸۳/۱، ۲۸۴/۱، ۲۸۵/۱، ۲۸۶/۱، ۲۸۷/۱، ۲۸۸/۱، ۲۸۹/۱، ۲۹۰/۱، ۲۹۱/۱، ۲۹۲/۱، ۲۹۳/۱، ۲۹۴/۱، ۲۹۵/۱، ۲۹۶/۱، ۲۹۷/۱، ۲۹۸/۱، ۲۹۹/۱، ۳۰۰/۱، ۳۰۱/۱، ۳۰۲/۱، ۳۰۳/۱، ۳۰۴/۱، ۳۰۵/۱، ۳۰۶/۱، ۳۰۷/۱، ۳۰۸/۱، ۳۰۹/۱، ۳۱۰/۱، ۳۱۱/۱، ۳۱۲/۱، ۳۱۳/۱، ۳۱۴/۱، ۳۱۵/۱، ۳۱۶/۱، ۳۱۷/۱، ۳۱۸/۱، ۳۱۹/۱، ۳۲۰/۱، ۳۲۱/۱، ۳۲۲/۱، ۳۲۳/۱، ۳۲۴/۱، ۳۲۵/۱، ۳۲۶/۱، ۳۲۷/۱، ۳۲۸/۱، ۳۲۹/۱، ۳۳۰/۱، ۳۳۱/۱، ۳۳۲/۱، ۳۳۳/۱، ۳۳۴/۱، ۳۳۵/۱، ۳۳۶/۱، ۳۳۷/۱، ۳۳۸/۱، ۳۳۹/۱، ۳۴۰/۱، ۳۴۱/۱، ۳۴۲/۱، ۳۴۳/۱، ۳۴۴/۱، ۳۴۵/۱، ۳۴۶/۱، ۳۴۷/۱، ۳۴۸/۱، ۳۴۹/۱، ۳۵۰/۱، ۳۵۱/۱، ۳۵۲/۱، ۳۵۳/۱، ۳۵۴/۱، ۳۵۵/۱، ۳۵۶/۱، ۳۵۷/۱، ۳۵۸/۱، ۳۵۹/۱، ۳۶۰/۱، ۳۶۱/۱، ۳۶۲/۱، ۳۶۳/۱، ۳۶۴/۱، ۳۶۵/۱، ۳۶۶/۱، ۳۶۷/۱، ۳۶۸/۱، ۳۶۹/۱، ۳۷۰/۱، ۳۷۱/۱، ۳۷۲/۱، ۳۷۳/۱، ۳۷۴/۱، ۳۷۵/۱، ۳۷۶/۱، ۳۷۷/۱، ۳۷۸/۱، ۳۷۹/۱، ۳۸۰/۱، ۳۸۱/۱، ۳۸۲/۱، ۳۸۳/۱، ۳۸۴/۱، ۳۸۵/۱، ۳۸۶/۱، ۳۸۷/۱، ۳۸۸/۱، ۳۸۹/۱، ۳۹۰/۱، ۳۹۱/۱، ۳۹۲/۱، ۳۹۳/۱، ۳۹۴/۱، ۳۹۵/۱، ۳۹۶/۱، ۳۹۷/۱، ۳۹۸/۱، ۳۹۹/۱، ۴۰۰/۱، ۴۰۱/۱، ۴۰۲/۱، ۴۰۳/۱، ۴۰۴/۱، ۴۰۵/۱، ۴۰۶/۱، ۴۰۷/۱، ۴۰۸/۱، ۴۰۹/۱، ۴۱۰/۱، ۴۱۱/۱، ۴۱۲/۱، ۴۱۳/۱، ۴۱۴/۱، ۴۱۵/۱، ۴۱۶/۱، ۴۱۷/۱، ۴۱۸/۱، ۴۱۹/۱، ۴۲۰/۱، ۴۲۱/۱، ۴۲۲/۱، ۴۲۳/۱، ۴۲۴/۱، ۴۲۵/۱، ۴۲۶/۱، ۴۲۷/۱، ۴۲۸/۱، ۴۲۹/۱، ۴۳۰/۱، ۴۳۱/۱، ۴۳۲/۱، ۴۳۳/۱، ۴۳۴/۱، ۴۳۵/۱، ۴۳۶/۱، ۴۳۷/۱، ۴۳۸/۱، ۴۳۹/۱، ۴۴۰/۱، ۴۴۱/۱، ۴۴۲/۱، ۴۴۳/۱، ۴۴۴/۱، ۴۴۵/۱، ۴۴۶/۱، ۴۴۷/۱، ۴۴۸/۱، ۴۴۹/۱، ۴۵۰/۱، ۴۵۱/۱، ۴۵۲/۱، ۴۵۳/۱، ۴۵۴/۱، ۴۵۵/۱، ۴۵۶/۱، ۴۵۷/۱، ۴۵۸/۱، ۴۵۹/۱، ۴۶۰/۱، ۴۶۱/۱، ۴۶۲/۱، ۴۶۳/۱، ۴۶۴/۱، ۴۶۵/۱، ۴۶۶/۱، ۴۶۷/۱، ۴۶۸/۱، ۴۶۹/۱، ۴۷۰/۱، ۴۷۱/۱، ۴۷۲/۱، ۴۷۳/۱، ۴۷۴/۱، ۴۷۵/۱، ۴۷۶/۱، ۴۷۷/۱، ۴۷۸/۱، ۴۷۹/۱، ۴۸۰/۱، ۴۸۱/۱، ۴۸۲/۱، ۴۸۳/۱، ۴۸۴/۱، ۴۸۵/۱، ۴۸۶/۱، ۴۸۷/۱، ۴۸۸/۱، ۴۸۹/۱، ۴۹۰/۱، ۴۹۱/۱، ۴۹۲/۱، ۴۹۳/۱، ۴۹۴/۱، ۴۹۵/۱، ۴۹۶/۱، ۴۹۷/۱، ۴۹۸/۱، ۴۹۹/۱، ۵۰۰/۱، ۵۰۱/۱، ۵۰۲/۱، ۵۰۳/۱، ۵۰۴/۱، ۵۰۵/۱، ۵۰۶/۱، ۵۰۷/۱، ۵۰۸/۱، ۵۰۹/۱، ۵۱۰/۱، ۵۱۱/۱، ۵۱۲/۱، ۵۱۳/۱، ۵۱۴/۱، ۵۱۵/۱، ۵۱۶/۱، ۵۱۷/۱، ۵۱۸/۱، ۵۱۹/۱، ۵۲۰/۱، ۵۲۱/۱، ۵۲۲/۱، ۵۲۳/۱، ۵۲۴/۱، ۵۲۵/۱، ۵۲۶/۱، ۵۲۷/۱، ۵۲۸/۱، ۵۲۹/۱، ۵۳۰/۱، ۵۳۱/۱، ۵۳۲/۱، ۵۳۳/۱، ۵۳۴/۱، ۵۳۵/۱، ۵۳۶/۱، ۵۳۷/۱، ۵۳۸/۱، ۵۳۹/۱، ۵۴۰/۱، ۵۴۱/۱، ۵۴۲/۱، ۵۴۳/۱، ۵۴۴/۱، ۵۴۵/۱، ۵۴۶/۱، ۵۴۷/۱، ۵۴۸/۱، ۵۴۹/۱، ۵۵۰/۱، ۵۵۱/۱، ۵۵۲/۱، ۵۵۳/۱، ۵۵۴/۱، ۵۵۵/۱، ۵۵۶/۱، ۵۵۷/۱، ۵۵۸/۱، ۵۵۹/۱، ۵۶۰/۱، ۵۶۱/۱، ۵۶۲/۱، ۵۶۳/۱، ۵۶۴/۱، ۵۶۵/۱، ۵۶۶/۱، ۵۶۷/۱، ۵۶۸/۱، ۵۶۹/۱، ۵۷۰/۱، ۵۷۱/۱، ۵۷۲/۱، ۵۷۳/۱، ۵۷۴/۱، ۵۷۵/۱، ۵۷۶/۱، ۵۷۷/۱، ۵۷۸/۱، ۵۷۹/۱، ۵۸۰/۱، ۵۸۱/۱، ۵۸۲/۱، ۵۸۳/۱، ۵۸۴/۱، ۵۸۵/۱، ۵۸۶/۱، ۵۸۷/۱، ۵۸۸/۱، ۵۸۹/۱، ۵۹۰/۱، ۵۹۱/۱، ۵۹۲/۱، ۵۹۳/۱، ۵۹۴/۱، ۵۹۵/۱، ۵۹۶/۱، ۵۹۷/۱، ۵۹۸/۱، ۵۹۹/۱، ۶۰۰/۱، ۶۰۱/۱، ۶۰۲/۱، ۶۰۳/۱، ۶۰۴/۱، ۶۰۵/۱، ۶۰۶/۱، ۶۰۷/۱، ۶۰۸/۱، ۶۰۹/۱، ۶۱۰/۱، ۶۱۱/۱، ۶۱۲/۱، ۶۱۳/۱، ۶۱۴/۱، ۶۱۵/۱، ۶۱۶/۱، ۶۱۷/۱، ۶۱۸/۱، ۶۱۹/۱، ۶۲۰/۱، ۶۲۱/۱، ۶۲۲/۱، ۶۲۳/۱، ۶۲۴/۱، ۶۲۵/۱، ۶۲۶/۱، ۶۲۷/۱، ۶۲۸/۱، ۶۲۹/۱، ۶۳۰/۱، ۶۳۱/۱، ۶۳۲/۱، ۶۳۳/۱، ۶۳۴/۱، ۶۳۵/۱، ۶۳۶/۱، ۶۳۷/۱، ۶۳۸/۱، ۶۳۹/۱، ۶۴۰/۱، ۶۴۱/۱، ۶۴۲/۱، ۶۴۳/۱، ۶۴۴/۱، ۶۴۵/۱، ۶۴۶/۱، ۶۴۷/۱، ۶۴۸/۱، ۶۴۹/۱، ۶۵۰/۱، ۶۵۱/۱، ۶۵۲/۱، ۶۵۳/۱، ۶۵۴/۱، ۶۵۵/۱، ۶۵۶/۱، ۶۵۷/۱، ۶۵۸/۱، ۶۵۹/۱، ۶۶۰/۱، ۶۶۱/۱، ۶۶۲/۱، ۶۶۳/۱، ۶۶۴/۱، ۶۶۵/۱، ۶۶۶/۱، ۶۶۷/۱، ۶۶۸/۱، ۶۶۹/۱، ۶۷۰/۱، ۶۷۱/۱، ۶۷۲/۱، ۶۷۳/۱، ۶۷۴/۱، ۶۷۵/۱، ۶۷۶/۱، ۶۷۷/۱، ۶۷۸/۱، ۶۷۹/۱، ۶۸۰/۱، ۶۸۱/۱، ۶۸۲/۱، ۶۸۳/۱، ۶۸۴/۱، ۶۸۵/۱، ۶۸۶/۱، ۶۸۷/۱، ۶۸۸/۱، ۶۸۹/۱، ۶۹۰/۱، ۶۹۱/۱، ۶۹۲/۱، ۶۹۳/۱، ۶۹۴/۱، ۶۹۵/۱، ۶۹۶/۱، ۶۹۷/۱، ۶۹۸/۱، ۶۹۹/۱، ۷۰۰/۱، ۷۰۱/۱، ۷۰۲/۱، ۷۰۳/۱، ۷۰۴/۱، ۷۰۵/۱، ۷۰۶/۱، ۷۰۷/۱، ۷۰۸/۱، ۷۰۹/۱، ۷۱۰/۱، ۷۱۱/۱، ۷۱۲/۱، ۷۱۳/۱، ۷۱۴/۱، ۷۱۵/۱، ۷۱۶/۱، ۷۱۷/۱، ۷۱۸/۱، ۷۱۹/۱، ۷۲۰/۱، ۷۲۱/۱، ۷۲۲/۱، ۷۲۳/۱، ۷۲۴/۱، ۷۲۵/۱، ۷۲۶/۱، ۷۲۷/۱، ۷۲۸/۱، ۷۲۹/۱، ۷۳۰/۱، ۷۳۱/۱، ۷۳۲/۱، ۷۳۳/۱، ۷۳۴/۱، ۷۳۵/۱، ۷۳۶/۱، ۷۳۷/۱، ۷۳۸/۱، ۷۳۹/۱، ۷۴۰/۱، ۷۴۱/۱، ۷۴۲/۱، ۷۴۳/۱، ۷۴۴/۱، ۷۴۵/۱، ۷۴۶/۱، ۷۴۷/۱، ۷۴۸/۱، ۷۴۹/۱، ۷۵۰/۱، ۷۵۱/۱، ۷۵۲/۱، ۷۵۳/۱، ۷۵۴/۱، ۷۵۵/۱، ۷۵۶/۱، ۷۵۷/۱، ۷۵۸/۱، ۷۵۹/۱، ۷۶۰/۱، ۷۶۱/۱، ۷۶۲/۱، ۷۶۳/۱، ۷۶۴/۱، ۷۶۵/۱، ۷۶۶/۱، ۷۶۷/۱، ۷۶۸/۱، ۷۶۹/۱، ۷۷۰/۱، ۷۷۱/۱، ۷۷۲/۱، ۷۷۳/۱، ۷۷۴/۱، ۷۷۵/۱، ۷۷۶/۱، ۷۷۷/۱، ۷۷۸/۱، ۷۷۹/۱، ۷۸۰/۱، ۷۸۱/۱، ۷۸۲/۱، ۷۸۳/۱، ۷۸۴/۱، ۷۸۵/۱، ۷۸۶/۱، ۷۸۷/۱، ۷۸۸/۱، ۷۸۹/۱، ۷۹۰/۱، ۷۹۱/۱، ۷۹۲/۱، ۷۹۳/۱، ۷۹۴/۱، ۷۹۵/۱، ۷۹۶/۱، ۷۹۷/۱، ۷۹۸/۱، ۷۹۹/۱، ۸۰۰/۱، ۸۰۱/۱، ۸۰۲/۱، ۸۰۳/۱، ۸۰۴/۱، ۸۰۵/۱، ۸۰۶/۱، ۸۰۷/۱، ۸۰۸/۱، ۸۰۹/۱، ۸۱۰/۱، ۸۱۱/۱، ۸۱۲/۱، ۸۱۳/۱، ۸۱۴/۱، ۸۱۵/۱، ۸۱۶/۱، ۸۱۷/۱، ۸۱۸/۱، ۸۱۹/۱، ۸۲۰/۱، ۸۲۱/۱، ۸۲۲/۱، ۸۲۳/۱، ۸۲۴/۱، ۸۲۵/۱، ۸۲۶/۱، ۸۲۷/۱، ۸۲۸/۱، ۸۲۹/۱، ۸۳۰/۱، ۸۳۱/۱، ۸۳۲/۱، ۸۳۳/۱، ۸۳۴/۱، ۸۳۵/۱، ۸۳۶/۱، ۸۳۷/۱، ۸۳۸/۱، ۸۳۹/۱، ۸۴۰/۱، ۸۴۱/۱، ۸۴۲/۱، ۸۴۳/۱، ۸۴۴/۱، ۸۴۵/۱، ۸۴۶/۱، ۸۴۷/۱، ۸۴۸/۱، ۸۴۹/۱، ۸۵۰/۱، ۸۵۱/۱، ۸۵۲/۱، ۸۵۳/۱، ۸۵۴/۱، ۸۵۵/۱، ۸۵۶/۱، ۸۵۷/۱، ۸۵۸/۱، ۸۵۹/۱، ۸۶۰/۱، ۸۶۱/۱، ۸۶۲/۱، ۸۶۳/۱، ۸۶۴/۱، ۸۶۵/۱، ۸۶۶/۱، ۸۶۷/۱، ۸۶۸/۱، ۸۶۹/۱، ۸۷۰/۱، ۸۷۱/۱، ۸۷۲/۱، ۸۷۳/۱، ۸۷۴/۱، ۸۷۵/۱، ۸۷۶/۱، ۸۷۷/۱، ۸۷۸/۱، ۸۷۹/۱، ۸۸۰/۱، ۸۸۱/۱، ۸۸۲/۱، ۸۸۳/۱، ۸۸۴/۱، ۸۸۵/۱، ۸۸۶/۱، ۸۸۷/۱، ۸۸۸/۱، ۸۸۹/۱، ۸۹۰/۱، ۸۹۱/۱، ۸۹۲/۱، ۸۹۳/۱، ۸۹۴/۱، ۸۹۵/۱، ۸۹۶/۱، ۸۹۷/۱، ۸۹۸/۱، ۸۹۹/۱، ۹۰۰/۱، ۹۰۱/۱، ۹۰۲/۱، ۹۰۳/۱، ۹۰۴/۱، ۹۰۵/۱، ۹۰۶/۱، ۹۰۷/۱، ۹۰۸/۱، ۹۰۹/۱، ۹۱۰/۱، ۹۱۱/۱، ۹۱۲/۱، ۹۱۳/۱، ۹۱۴/۱، ۹۱۵/۱، ۹۱۶/۱، ۹۱۷/۱، ۹۱۸/۱، ۹۱۹/۱، ۹۲۰/۱، ۹۲۱/۱، ۹۲۲/۱، ۹۲۳/۱، ۹۲۴/۱، ۹۲۵/۱، ۹۲۶/۱، ۹۲۷/۱، ۹۲۸/۱، ۹۲۹/۱، ۹۳۰/۱، ۹۳۱/۱، ۹۳۲/۱، ۹۳۳/۱، ۹۳۴/۱، ۹۳۵/۱، ۹۳۶/۱، ۹۳۷/۱، ۹۳۸/۱، ۹۳۹/۱، ۹۴۰/۱، ۹۴۱/۱، ۹۴۲/۱، ۹۴۳/۱، ۹۴۴/۱، ۹۴۵/۱، ۹۴۶/۱،



مجموعہ کو یاد رکھیں۔ اب نام طالب مع والدہ کے اعداد قمری نکالیں۔ مثلاً  
ثار احمد کے لئے لوح داعی اللہ تیار کرنی ہے۔

آیت کے اعداد قمری = ۳۰۰۳	ثار احمد کے اعداد قمری = ۸۰۰۳
مُحَلّ تعداد حروف = ۵۹	مُحَلّ تعداد حروف = ۸
مُحَلّ تعداد نقاط = ۲۷	مُحَلّ تعداد نقاط = ۴
بغیر نقاط کے حروف کی تعداد = ۳۸	بغیر نقاط کے حروف کی تعداد = ۸
نقاط والے حروف کی تعداد = ۲۱	نقاط والے حروف کی تعداد = ۲
مجموعہ = ۳۱۳۸	مجموعہ = ۸۲۶

اب دونوں مجموعہ کو جمع کیا۔ ۳۱۳۸ + ۸۲۶ = ۳۹۶۴، ان اعداد کو خانہ اول میں تحریر کریں۔ اب ہر خانہ میں اعداد اس لئے چارہ حصوں میں

السلام (۱۷۷۶) کا اضافہ کرتے ہوئے لوح کے تمام خانے پُر کریں۔

مثلاً خانہ اول = ۳۹۶۴، اب خانہ دوم میں ۳۹۶۴ + ۱۷۷۶ =

۶۷۴۰ تحریر کریں۔ اب خانہ سوم میں خانہ دوم کے اعداد میں اعداد

اس لئے چارہ حصوں میں سلام کا اضافہ کرتے ہوئے تمام خانے پُر

کریں۔ مثالی لوح یہ تیار ہوگی ۲۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۷۷۶	۲۲۷۳۳	۲۸۰۶۲	۳۹۷۲
۲۲۲۸۶	۶۷۵۰	۱۵۶۳۰	۲۴۵۱۰
۸۵۲۶	۳۱۲۱۳	۱۹۱۸۲	۱۳۸۵۳
۲۰۹۵۸	۱۲۰۷۸	۱۰۳۰۲	۲۹۸۳۸

سائل کا نام مع والدہ اور ماہیت تحریر کریں۔

لوح مبارک کو شرف زحل یا چاند کی کیم تاریخ کو بعد از نماز فجر سفید کاغذ پر

زعفرانی روشنائی سے تحریر کر کے تہہ کر لیں۔ اور عطر عود لگا کر پاس رکھیں۔

اور نماز رسول خدا پڑھیں۔ اور چاند کی دو تاریخ کو نماز حضرت علیؑ

پڑھیں۔ تین تاریخ کو نماز سیدۃ فاطمہؑ اثر ہر پڑھیں۔ ایسے ہی چودہ تاریخ

تک ہر معصوم کی نماز پڑھیں۔ (نمازوں کے لئے میری کتاب روح

العملیات کی طرف رجوع کریں)۔ رب العزت کے حضور گڑگڑا کر دعا

کریں۔ انشاء اللہ صدقہ معصومین بہت جلد اپنے مقصد کو پاؤ گے۔ میں نے

ہر بات کی وضاحت کی ہے۔ تاہم کوئی بات تشنہ پیمیل رہ گئی ہو تو رابطہ کریں۔

ہے۔ ایکٹا لیس کا عدد کامل (۱ + ۳ = ۵) مطلب چودہ معصومین علیہم

السلام میں سے افضل و اکبر پختن پاک ہیں۔ جو داعی اللہ ہیں۔

داعی کے بنیاتی اعداد ۲۰۲ ہیں۔

اعداد قمری	بنیات	زبر
31	ا-ل =	د
110	ل-ف =	ا
60	ی-ن =	ع
1	ا-خ =	ی
202		

دوسو و اعداد محمدؐ علیؑ (محمدؐ ۹۲ / علیؑ ۱۱۰ / ۲۰۲)

کے اعداد ہیں۔ (۲۰۲) اعداد اسم زینبؑ و اسم عباسؑ (زینبؑ ۶۹ / عباسؑ ۱

۱۳۳ = ۲۰۲) کے ہیں۔ صاحبان عقل سلیم والوں کے لئے کھلی نشانیاں

ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی

دعاؤں کا آغاز اسم رب سے کیا کیونکہ رب کے اعداد (ر ۲۰۰ / ا ۲) =

(۲۰۲) دوسو دو ہیں۔ رب ہی سبب الاسباب ہے۔ اس پُر آشوب

وقت میں صدق قلب سے رب قدوس کو ہی چارہ ساز بناؤ۔ اس عظیم

(سورۃ الاحقاف آیت نمبر ۳۱) لوح داعی اللہ تیار کرنے کا جرب و لاغانی

طریقہ تحریر کر رہا ہوں۔ لوح داعی اللہ جس کے جفری و طلسماتی اثرات

بہت ہی قلیل مدت میں حال لوح پر ظاہر ہوتے ہیں۔

حال لوح سے ہر بد اثرات (سحر و جادو، آسیب جنات، بد نظری، سیارہ

زحل کے بد اثرات اور موذی امراض کا خاتمہ ہوگا۔ انشاء اللہ

طریقہ تیار لوح داعی اللہ۔

لوح تیار کرنے کا تفصیلاً طریقہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تاکہ ہر مومن

اسے تیار کر کے فائدہ عظیم حاصل کر سکے۔ اڈل آیت کے اعداد قمری

نکالیں۔ دوئم مکمل آیت کے حروف کی تعداد تحریر کریں۔ سوئم مُحَلّ تعداد نقاط

تحریر کریں۔ چہارم بغیر نقاط کے حروفوں کی تعداد تحریر کریں۔ پنجم نقاط

والے حروفوں کی تعداد تحریر کریں۔ پانچوں تعدادوں کو جمع کریں۔ اور

# عمل سورۃ یسین

لفظ یسین کے اعداد ۷۰ ہیں۔ اگر ہم ان الفاظ کو تلفظ کریں تو یہ حروف پیدا ہوں گے یسین ی ا۔ س ی ن جن کے اعداد ۱۳۱ بنتے ہیں۔ ان اعداد کو غور سے دیکھیں تو ان اعداد کے مطابق سورۃ مبارک سے ام اعظم سلام "قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ" حاصل ہوتا ہے۔ اب اس آیت پر غور کریں تو لفظ سلام کے اعداد ۱۳۱ بنتے ہیں۔ جو کہ لفظ یسین کے تلفظی اعداد کے برابر ہیں۔ اس میں عمل کا راز پنہاں ہے۔ ایک اور راز ملاحظہ کیجیے۔ حروف یسین اور سلام میں جو حرف ایک ہی قوت کے مالک ہیں اور یکساں ہیں ان کو علیحدہ رکھیں گے اور جو نہیں ہیں ان کو قائم رکھیں گے اس طرح پر کہ لفظ یسین میں "ی" موجود ہے اور سلام میں نہیں ہے۔ اس کو قائم رکھا گیا اس طرح پر یہ کام ہم ختم کریں گے۔ جس کی صورت حال یہ ہے۔

اصل لفظ	اعداد	علیحدہ شدہ	قائم شدہ	اعداد	برابر اعداد یسین
یسین	۱۳۱	ا س	ی ی ن	۷۰	۷۰
سلام	۱۳۱	ا س	ل م	۷۰	۷۰

اب ایک اور امر دیکھیے۔ لفظ سلام اور یسین کو تخلیس کریں۔

اصل حروف یا لفظ	اعداد
یسین سلام	۲۶۲
تخلیس حروف ی ا س ن ل م	۱۰۱
ا ی س	۷۱

اب اصل حروف ی ا س ن ل م کے اعداد سے اگر حروف تخلیس کے جملہ اعداد کاٹے جائیں تو ۷۱ کا ہندسہ حاصل ہوگا۔ یہ عدد کس بات سے تعلق رکھتا ہے وہ فی الحال میں پوشیدہ رکھتا ہوں اور وقت آنے پر انشاء اللہ بتا دوں گا۔ اتنا بتانے سے میں بھی نہیں رہ سکتا کہ یہ اس لفظ کے اعداد ہیں جس سے اللہ جل و علی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ وہ لفظ اسی ہی سورہ میں موجود ہے۔ غور کرنے سے مل جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں۔

**عمل:** اعداد تین قسم کے ہیں۔ کبیر، وسط، صغیر جن کو روح یا قوت بھی کہا جاتا ہے۔

لفظ	عدد کبیر	عدد وسط	عدد صغیر	جملہ اعداد	مقارنہ دن
یسین	۱۳۱	۱۲	۵	۱۵۰	۶

یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ ۱۳۱ اعداد یسین کے بھی ہیں اور سلام کے بھی ہیں۔ وسط اعداد تو ۱۲ ہیں وہ اللہ پاک کے وکھاب نام کے ہیں اور کبیر اعداد ملانے سے محمدؐ کے اعداد کھل آئیں گے۔ جن بزرگ ناموں سے اللہ پاک نے سر دار دو جہاں صلح کو قرآن حکیم میں نوازا ہے۔ اگر آپ صغیر اور وسط کے اعداد آپس میں ملائیں تو اللہ پاک کا واحد نام نکل آئے گا اور جملہ اعداد کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا عظیم نام ظاہر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا بتاؤں۔

**ترکیب عمل:** سات آدمی ایسے جو نمازی، پرہیزگار، ایماندار ہوں ان کو اپنے ہاں لائیں اور ان کو ۱۵۰ مرتبہ سورۃ یسین مبارک پڑھنے کو کہیں اور حل المشکلات کا عرض کریں۔ پڑھنے کی جگہ پاک ہو مسجد شریف ہو تو بہتر ہے۔ پڑھنے میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر سے وضو کر لیا جائے۔ پڑھنے کی جگہ پر کوئی اچھی سی خوشبو چھڑکیں۔ قبلہ کی جانب رخ کریں۔ جب یسین مبارک ۱۵۰ بار ختم ہو جائے تو اس کا ثواب سر دار دو جہاں آقا نے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش اور ان کے طفیل اپنی مصیبت دور کرنے اور قضاء حاجات (حل المشکلات) کے لئے درگاہ ایزدی میں عرض کریں۔ انشاء اللہ زیادہ سے زیادہ ۶ دن میں مقدم حل ہوگا۔

نوٹ: اگر کسی بچی کو سمجھ نہ آئے تو بذریعہ خط جوابی لفظہ یا بذریعہ موبائل فون سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ تحصیل ضلع ٹھیکر آزاد شیر فون: 0343 5137813

# فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی "سورة البقرہ"

سید تنویر حیدر نقوی (مصری)

کی تلاوت کی جائے۔ نیز پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چاروں اطراف میں چھڑکنے کے علاوہ دروازے کے باہر چوکھٹ پر چھڑکنا چاہیے۔ نیز پانی کو پینا چاہیے۔ انشاء اللہ مصائب سے جلد نجات مل جائے گی۔ اس مقصد کے لئے کسی حافظ بچے کی خدمات لی جاسکتی ہیں۔

نیز حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ جو شخص "سورة البقرہ" کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت اس طرح کرے کہ آیات 1-4 کے بعد آیت الکرسی "ھم قیما خالدون" تک پڑھ کر آیات 5-6 تلاوت کرتے ہوئے آخری تین آیات 284-285-286 کی تلاوت کو اپنا معمول بنالے۔ تو وہ خود اور اس کے اہل و عیال مال و اسباب۔ ایسی حالتوں سے محفوظ رہیں گے جن کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ شیطان اس سے دور رہے گا اور وہ قرآن کو نہ بھولے گا۔ (تفسیر ربان جلد اول)

**نوٹ:** اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمدؐ و آل محمدؑ کی سرپرستی اور عنایت کے سبب بچوں کے نام اور اسم اعظم نکالنے کے علاوہ محدود پیمانے پر ہر قسم کی انگشتریاں، کلمہ طیبہ کے چھلے، قاضی الحاجات انگشتری، نقوش، الواح، ستاروں کے طلسمات جامع، نگہبیرات ذاتی، شرف مشتری میں تیار طلسم صحت و دولت بھی موجود ہیں۔ نیز حروف صوامت کی سالہا سال کی ریاضت کے سبب ان سے متعلقہ امور خصوصی تاثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام کام شرائط کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تیار کئے جاتے ہیں۔ شائقین فیض اٹھا سکتے ہیں۔ دعا گو

سید تنویر حیدر نقوی جٹار فون: 0333 5398050

معرفت اولیس ٹریڈرز، H-377 سردار عالم روڈ راولپنڈی پاکستان

## لقوہ کا مجرب نسخہ:

جیسے ہی لقوہ کی شکایت ہو فوراً بلاتا خیر مرلیض کو خالص شہد نیم گرم پانی میں ملا کر دیں اور غذا میں جنگلی کبوتر کا شوربہ صبح و شام پلائیں۔ اس کے سوا کچھ نہ دیں۔ کم از کم پاؤ شہد روزانہ صبح سے شام پلائیں۔ انشاء اللہ ۱۵ دنوں میں آرام آجائے گا۔ (شعب شبتان رضا)

امامیہ جنتی میں صفحات کی کمی کے سبب صرف ہدیۃ چند سطور پیش خدمت ہیں۔ اور ساتھ ساتھ محتاج دعا ہوں۔ یوں تو قارئین کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو ترجمہ سے پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ مضامین قرآنی پر فکر و تدبر نصیب ہونا شروع ہو۔ ویسے بھی ختمی المرتبت کا فرمان ہے کہ "قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کے لئے ہر چیز خیر کی دردیائی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ نیز قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے بعد ہر شے سے افضل ہے۔"

"سورة البقرہ" قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے اول اور طویل ترین سورہ ہے۔ یعنی اس میں 286 آیات مدنی موجود ہیں۔ دنیاوی لغت کی کتابوں میں "بقرہ" کا جو معنی دیا گیا ہے۔ اس کے معنی "گائے یا تیل" کے درج کئے گئے ہیں اور کیونکہ اس سورہ میں "گائے کا تذکرہ بھی موجود ہے" لہذا یہی سبب اس سورہ کی وجہ "تسمیہ" بن گئی۔

مگر جوہری نے اپنی صحاح میں لکھا ہے کہ "توسیع فی العلم" کو "بقرہ" کہتے ہیں۔ یہ معنی نقل و دانش کے زیادہ قریب سمجھ میں آتے ہیں کہ قرآن کریم کی طویل ترین سورہ ہونے کے سبب شریعت اسلامی کے جتنے احکام اور احکام کی تفصیل اس سورہ میں موجود ہے۔ کسی دوسرے سورہ میں نظر نمی آتے۔ اس سبب سے اس سورہ کا یہ معنی موقع و محل کے قریب ترین نظر آتا ہے اور آئمہ معصومینؑ میں سید الساجدینؑ کے ناناکے دین و شریعت کی تدوین، تشریح و تاویلات کا سہرا ان کے بیٹے امام محمد باقرؑ کے سر بندھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اسی "بقرہ" کے معنی کے سبب سے۔ علامہ نور اللہ شومتری کے بیان کے مطابق آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "امام محمد باقرؑ علوم و معارف کو اس طرح شگفتا کر دیں گے جس طرح زراعت کے لئے زمین کو شگفتا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبویؐ میں درگاہ کا قیام بھی آپ کا مرہون منت ہے۔"

"بقرہ" کے لفظ کی اس وضاحت کے بعد قارئین کو یہ بتانا چلوں کہ دنیاوی مصائب والام مثلاً آسیب۔ جادو۔ بندش۔ جن۔ بھوت و پریت کے خاتمے کے لئے 10 دن تک "ہرل" جلا کر ہر روز اس جگہ پر "سورة البقرہ"

نجل حسین پیر محل

0332 6986026

0333 4128131

# استخارہ کی شرعی حیثیت

## گذشتہ راپوستہ

رکعت ثانیہ میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرے۔

### 1- مناجاتِ استخارہ:

مواضع مختلفہ الحمد شریف شیخ عباس قمی صفحہ نمبر 1451-1452 II- تین مرتبہ ناد

علیٰ صغیر مکمل پڑھیں۔ III- تسبیحات اربعہ۔ IV- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ

الرَّحِیْمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ V- آیت الکرسی ہم

فیہا خالدون تک پڑھے پھر سورہ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 7 آیت نمبر

58 و عندہ پڑھے پھر 10 مرتبہ درود پاک تلاوت کرے۔

### 1- بذریعہ قرآن استخارہ یا قال:

V پڑھ کر یہ دعا پڑھیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَیْكَ

وَ تَقَوَّلْتُ بِكِتَابِكَ عَلَیْكَ فَارِنِیْ مَا هُوَ الْمَكْنُونُ

فِیْ عِلْمِ غَیْبِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ O

اَللّٰهُمَّ اَرِنِیْ الْحَقَّ حَقًّا حَتّٰی اَتَّبِعَهُ وَ اَرِنِیْ الْبَاطِلَ

بَاطِلًا حَتّٰی اَجْتَنِبَهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ O

پھر قرآن پاک کو کہیں سے کھول کر سات ورق گنیں، ساتویں

ورق کے بائیں جانب لفظ اللہ جتنی بار ورق پر ہوا نہیں شمار کر کے اتنی ہی

سطریں گن کر تحریر کو پڑھیں۔ اس تحریر کے مطابق عمل کریں۔ آیت رحمت ہو

تو استخارہ درست ہے، آیت غضب ہو تو استخارہ منہج، آیت مشترک ہو تو آپ

کی مرضی ہے کام کریں یا نہ کریں۔ یہ مساوی استخارہ ہے۔ اگر لفظ اللہ ورق پر

نہ ہو تو دو بار یا سہ بار بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ (مجمع الدعوات کبیر صفحہ نمبر 342)

### 2- استخارہ ایک رات:

9 بجے وضو کر کے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ان الفاظ کو لکھ کر سو جانا چاہیے لیکن

فرمان نبویؐ ہے کہ جب کسی کو کسی کام کی ضرورت ہو تو مشاورت

کرے۔ استخارہ کے معنی بھی مشورہ یا مشاورت کے ہیں۔ حدیث نبویؐ ہے

مَا خَابَ مِنْ اسْتِخَارَ وَلَا نَدَمَ مِنْ اسْتِشَارَ ترجمہ: نقصان نہیں اٹھاتا جو

شخص استخارہ کرتا ہے اور پشیمان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ کر لیتا ہے۔ اور بعض

احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اَدَمَ الرِّضَاءُ

بِالْقَضَاءِ یعنی سعادت ابن آدم کی مرضی الہی پر راضی ہونا یعنی استخارہ کے

بعد جو حکم یا مانع ہو اس پر عمل کرنا سعادت اور اس سے زور گردانی یا اعتراض کرنا

باعث شقاوت ہے۔ (جو ہر حصہ صفحہ نمبر 55)

### استخارہ مرکب بہ استخارہ:

ایک کام ہو رائے قائم نہیں ہوتی کہ یہ بہتر ہے یا نہیں دو کام ہوں یہ رائے قائم نہ ہو کہ ان میں سے کونسا

بہتر ہے چونکہ تردد ہے اس لئے طلب خیر اور طلب مشورہ دونوں کی ضرورت

ہے۔ اس کو استخارہ مرکب بہ استخارہ کہتے ہیں۔

### فرمانِ امام جعفر صادقؑ:

يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ

شَفَاءً عَبْدِيْ اَنْ يَّعْمَلَ الْاَعْمَالَ وَلَا يَسْتَحِيْرِيْ

(سفیۃ البحار ج 1 صفحہ 422 لفظ خیر) ترجمہ: اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے

بندے کی بدبختی ہے کہ وہ کام کرے اور مجھ سے استخارہ یعنی طلب خیر و برکت نہ

کرے۔

### استخارہ اور کشف میں فرق:

استخارہ سے سکون قلب ملتا ہے جو کہ جاگنا، سونا یا قرآن سے مطلع کیا جاتا ہے یعنی بتایا جاتا ہے اور حالت

کشف میں دکھایا جاتا ہے۔

### نمازِ استخارہ اور دعا:

کتاب احادیث میں وارد ہے کہ جب

استخارہ کرنا مقصود ہو تو دو رکعت نماز استخارہ یا دو رکعت نفل استخارہ ادا کرتا ہوں

قریۃ الی اللہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الکافرون اور

**6- استخارہ بذریعہ بسم اللہ شریف:** بدھ، جمعرات،

جمعہ کی شب سونے سے پہلے دو گھنٹہ نیت استخارہ پڑھ کر 786 کی بجائے 787 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بغیر ہنگام ہوئے سو جائیں۔ اللہ کی طرف سے راہنمائی ہوگی۔ (بحوالہ کتاب بسم اللہ کی عظمت و افادیت صفحہ 67 مولانا حسن البہاشی دارالعلوم دیوبند انڈیا)

**7- استخارہ عجیب:**

جب سورج گرہن لگے تو دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کسی منگی پر ہیزگار کی قبر پر رکھ کر بلا شمار بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں۔ گرہن ختم ہو تو قبر ہڈا سے کچھ مٹی اٹھالائیں گوشت ہمہ قسم بندگیارہ یوم تک 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ جب استخارہ کی ضرورت ہو تو پھر اس مٹی پر 1100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سر ہانے رکھ کر سو جائیں۔ ہر چیز سے باخبر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ تین یوم۔ سٹا اور ریس سے پرہیز ہی کریں تو بہتر ہے۔

**8- استخارہ شادی منگنی بذریعہ علم الاعداد:**

لڑکامع والدہ + لڑکی مع والدہ + اعداد شادی 528 + یوم سوال فارسی کا مثلاً اتوار (یک شنبہ) کے اعداد اکل مجموعہ کو دو پر تقسیم کریں۔ اگر ایک بچے تو رشتہ غیر مناسب، اگر کچھ نہ بچے تو رشتہ مناسب رہیگا۔

**9- استخارہ و فال بزریعہ اعضاے انسانی (بروج):**

اگر کوئی شخص بھلائی اور خیر سے آیا ہے تو عمدہ فال، اگر برائی کے ساتھ آیا ہے تو منخوس فال اگر نیک فعل دیکھا تو فال سعد اور محمود ہے۔ اگر فعل بڑا دیکھا تو فال منخوس ہے۔ انسانی حالت کسی وقت بھی حرکت سے خالی نہیں ہوتی اور یہ حرکت قلبی ارادہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنا ہاتھ کسی عضو یا دوسرے شخص کے عضو پر رکھا ہے تو اس عضو کو دیکھو اس عضو کا تعلق کس بروج سے ہے۔ اگر بروج سعد فال و استخارہ نیک اور بروج منخوس سے منسوب ہو تو فال و استخارہ بھی منخوس ہوگا۔ تو وہ کام پورا ہونے کی توقع نہ کرو۔

**بروج اور کواکب کی نسبت اعضاء جسمانی سے**

- (i) ستارہ زحل منخوس ترین بائیں کان سے منسوب ہے اس کے دو بروج دلو، جدی۔ دلو منسوب طحال سے جدی منسوب دونوں پاؤں سے۔
- (ii) ستارہ مشتری سعد ترین دائیں آنکھ سے منسوب۔ اس کے دو بروج قوس اور حوت۔ قوس جگر سے منسوب اور حوت دونوں گردوں سے منسوب۔

نمازی منگی باشرع ہو جو حال ہوگا رات کو ظاہر ہو جائیگا۔ الفاظ ہیں: ہب من. ہب من. ہب من. ہب من اور سومرتبہ یہ عبارت پڑھ کر سورہ یَا عَلِيمُ عَلِمْنِي يَا خَبِيرُ أَخْبِرْنِي يَا هَادِيْ اِهْدِنِي يَا مُبِينُ بَيْنَ لِيْ

**3- استخارہ بذریعہ ناولع:**

تسبیح کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے امام کے نچلے حصہ سے پکڑ کر آزاد چھوڑ دیں (بقیہ تسبیح) پہلے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ناولعی صغیر پڑھیں اور یہ: عَلِيُّ يَا عَلِيُّ کی تکرار کرتے رہیں۔ کچھ دیر کے بعد تسبیح حرکت میں آئیگی۔ متقی اور محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر تسبیح دائیں بائیں حرکت کرے، استخارہ منع ہے۔ آگے پیچھے یعنی سامنے کی طرف حرکت کرے تو استخارہ ہاں میں ہے۔

**4- استخارہ خواجہ معین الدین چشتی اجیری:**

دروکرت نماز پڑھ کر ثواب چشتی اجیری اور دیگر بزرگان دین کو کریں۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد یَا شَيْدُ اُرْشِدْنِيْ يَا عَلِيمُ عَلِمْنِيْ مِنَ الْحَالِ الْفَلَانِيْ نام لے کر تین سو مرتبہ پڑھے اور ہاتھ پر دم کر کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر مقصد ذہن میں رکھ کر سورہ۔ الرَّحِيمُ کو با وضو لکھ کر سر کے نیچے رکھ کر خاموشی سے سورہ اور یہ کلمات کہے اَللّٰهُمَّ بِرَكَّةِ هَذَا الْاِسْمِ اَرْنِيْ فِيْ مَنَامِيْ ۝

**5- استخارہ بذریعہ طلسم:**

(i) رات 12 بجے یہ طلسم لکھ کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر باندھ کر سورہ ہے۔ تین سے سات یوم تک طلسم یہ ہے:

۱۵۱	۲۵	۳۵	۴۵	۵۵	۶۵
۷۵	۸۵	۹۵	۱۰۰	عطرہ	

(ii) یہ طلسم لکھ کر سر ہانے کے نیچے با وضو رکھیں خبر حال بتا دیگا:

علی علی لا م ع لو مالہ  
حا مہو لفللا ع ع ع د ہ

بحوالہ شریعت الاسلام صفحہ 883 مجتہد علامہ سید محمد رضی مرحوم

## مجرب دعائوں سے مشکلات کا حل

دو سال سے امامیہ جنتی میں مجرب نسخے دیکر جو لوگوں کا مثبت رجحان دیکھا تو مزید چند نسخے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو کر آغا افتخار حسین اور ان کے اہل خانہ کے لئے دعا گو رہیں۔

### ہر مشکل اور پریشانی کا حل

- 1- جمعرات کے دن سے سورہ یٰسین شروع کریں۔ گیارہ مرتبہ اول و آخر درود پڑھیں۔ سورہ یٰسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یسین پڑھیں پھر دوبارہ شروع کرنا ہے اس طرح سات یسین تک شروع سے پڑھنا ہے اور بدھ کو ختم کرنا ہے۔
- 2- مولا مشکل کشا کی فوری ادائیگی کی نیاز مانیں اور جب مراد پوری ہو جائے تو اسی وقت مولا علی کی نیاز کھڑے ہو کر دلا دیں۔
- 3- فجر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح قل ھو اللہ کی پڑھنی ہے۔ پھر دعا مانگ کر ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے۔ جو دعا خلوص نیت سے محمد و آل محمد کے صدقے میں مانگیں وہ انشاء اللہ مستجاب ہوگی۔

### برائے ایصال ثواب

سید تنویر الاسلام رضوی (مرحوم) ابن ڈاکٹر سید قمر الاسلام رضوی

0321 5760631

مرسلہ: بیگم تنویر الاسلام 051 5513912

(III) ستارہ مریخ: منجوس درجہ دوم انسانی داکٹریں کان سے منسوب۔ اس کے بھی دو بروج ۱- حمل ۲- عقرب حمل منسوب ہے محدہ سے اور عقرب منسوب ہے اخراج بول و براز سے۔

(IV) ستارہ شمس: سعد ہے۔ انسانی ناک کا دایاں نقتنا منسوب ہے۔ انسانی سر قلب اور بدن کی اصلاح و فلاح اسی سے منسوب ہے۔

(V) ستارہ زہرہ: سعد ستارہ انسانی بائیں آنکھ سے منسوب ہے۔ اس کے دو بروج میزان اور ثور۔ میزان منسوب ہے پستان سے اور ثور منسوب ہے ایشیم (مادہ، عورت)

(VI) ستارہ عطارد: انسانی منہ سے منسوب ہے۔ اس کے بھی دو بروج سنبلہ اور جوزا۔ سنبلہ پشت سے منسوب اور جوزا انسانی دونوں ہاتھ سے منسوب۔

(VII) ستارہ قمر: سعد ستارہ، انسانی ناک بائیں نقتنا یا کھسارہ اس کا بروج ایک ہی ہے۔ سرطان پھیپھڑے منسوب انسان کا سر پیٹ اس سے منسوب اور ذنب منجوس ہے۔


تجمل حسین 1- رجائے روڈ پیر محل ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ

0332 6986026, 0333 4128131

email: tajammalhusain@hotmail.com

## بخار کے لئے اسطلم

جس شخص کو بخار آ رہا ہو۔ اس طلم کو پاک و صاف ہو کر لکھیں اور مریض کے سر ہانے بغیر موسم جامہ کیے رکھا جائے۔ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔




ریاض حسین جعفری عامل کینال ریست ہاؤس، تحصیل و ضلع

موبائل: 0300 5036347, 0333 5765851

اسد بک پور ترم گاہ مولانا حیدر آباد

## نقش و صحت رزق

یہ نقش کئی سال سے عوام کو فیض یاب کر رہا ہے اور روز اول کی طرح آج بھی ڈیماٹر ہے۔ اندرون اور بیرون ملک کے لئے یہ نقش فی سبیل اللہ ہے۔ میری صحت کے لئے دعا کریں۔



سیدہ تحسین شیرازی 0333 4051214

K-B-T-32 ہاؤسنگ سوسائٹی نزد ٹینس لاہور

طاہر شمس عزیز بک شال اندرون حرم گٹ ملتان

یاعلیٰ مرد  
 یاصاحب الزمان اورنگی

یاعلیٰ مرد  
 یاصاحب الزمان اورنگی

# حزب الخبز عمل مولائے کائنات

خالق اکبر کے حضور لاکھوں سجدہ شکرانے اور ہزاروں درود و سلام محمد و آل محمد پر یہ فیض در سیدہ ہے کہ 2010ء کے آرٹیکل کو اعلیٰ ترین مقام بخشا ہے۔  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار عمل آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ لیکن اس مرتبہ نہایت آسان ترین عمل خذو قارئین امامیہ جنتی کرتی ہوں اور اس عمل کی ضمانت دیتی ہوں کہ محبت خلوص پاکیزگی اور شرائط سے یہ عمل پڑھنے والا ہرگز ہرگز محروم حاجت نہ ہوگا۔ ہر مقصد کے لئے یہ عمل مجرب و مجرب ہے۔  
 ارشاد موصوم ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے۔ وہ تمام سہت کرسورۃ الحمد میں آیا جو کچھ سورۃ الحمد میں ہے وہ سہت کربم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے ب میں ہے اور ب کا نقطہ یعنی بائے بسم اللہ باب علم ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ مولائے کائنات کے فضائل اور بسم اللہ کے فضائل قلم کھنے سے قاصر ہے۔ ان کے فضائل کا احاطہ کرنا قوت بشری کا کام نہیں۔ یہ پراسرار عمل قضائے حاجات کے لئے تیر بہدف ہے۔ خصوصاً جن بچوں کے رشتے نہیں آتے یا آپر کلٹ جاتے ہیں۔ عمل درج ذیل ہے۔

بعد نماز عشاء وقت، مقررہ پُرود رکعت نماز مولائے کائنات کو ہدیہ کریں بعد نماز درود کی ایک تسبیح پڑھیں پھر 21 دن 786 مرتبہ اجب یا جبرائیل بقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک شفا کی تسبیح پڑھیں۔ درود کی ایک تسبیح آخر میں مولائے کائنات کو ہدیہ کریں۔ بعد عمل کھڑے ہو کر قرآن سر پر رکھیں اور حاجت اس طرح بیان کریں۔

اے پروردگار تجھے واسطہ اس پاک کلام کا اور تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحبت کا واسطہ میری حاجت روانی فرما۔ دوران عمل اس عمل کی لوح جانماز پر رکھیں۔ بعد دعا زیارت امیر المومنین پڑھیں۔ دوران عمل 110 روپے مولانا مشکل کشا کے نام سے خیرات کریں اور ہر سب جمعہ کم از کم 5 موٹین کو کھانا کھلائیں۔ اس عمل کو مسلسل پڑھنے سے کبھی کوئی مشکل قریب نہ آئے گی۔ جس کام کو شروع کریں فتح حاصل ہو۔ ہر بیماری دور ہو۔ زبان میں تاثر پیدا ہو۔ حسب شفا رشتہ طے پائے۔ اولاد مطیع و فرمانبردار ہو۔ جو زبان سے کہے گا وہ پتھر کی کیر ثابت ہوگا۔ دیکھی مومنات فون پر مسئلہ بیان کر کے مشورہ یا عمل لے سکتی ہیں۔ مسائل کے حل کے لئے رات 8 سے 10 بجے تک فون کریں۔ برائے مہربانی جمرات کو فون نہ کریں کیونکہ جمرات کو دسترخوان امام زمانہ اور استقا صاحب العصر والزمان کیا جاتا ہے۔ لہذا دعا کے لئے بلا ہدیہ نام دے سکتے ہیں۔ مضمون کا کوئی بوجھ میں نہ آئے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔

کنیز امام الوقت عالمہ باہل  
**سیدہ منورہ رضوی**  
 0300 4436508, 0321 4786903, 042 35812434

# عمل مولائے کائنات

ابتدا خالق کائنات کے نام سے جس نے ہم پر احسان فرماتے ہوئے ہمیں علیٰ جیسا آقا درود مولا عطا کیا کہ جن کا نام ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ میں ناؤ علی کا ایسا نادر عمل نظر قارئین امامیہ جنتی کرنا چاہ رہا ہوں جو میری سالہا سال کی ناؤ علی کی عبادت کا پھل ہے اور بزبان مولانا ناؤ علی پیش خدمت ہے۔  
 ناؤ علی بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ روزگار، شادی، قید سے رہائی غرضیکہ ہر مشکل کے لئے اکسیر ہے۔ بعد نماز عشاء پڑھیں۔ 21 مرتبہ ناؤ علی صغیر اوّل و آخر درود ایک تسبیح 99 مرتبہ (یا عظیم یا صاحب یا دود و یا شانی یا حبیط یا علی یا علی) ہر جمرات سفید مٹھائی یا دودھ پر رسول خدا اور حضرت علی اور مولانا ناؤ علی کی نذر ضروریں اور دوران عمل 21 روٹی خیرات کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۱۲۱	۱۱۳۵	۱۱۳۲	۱۱۲۸
۱۱۳۳	۱۱۲۷	۱۱۲۲	۱۱۳۳
۱۱۲۶	۱۱۳۰	۱۱۳۷	۱۱۲۳
۱۱۳۶	۱۱۲۴	۱۱۲۵	۱۱۳۱

یاعلیٰ اور کئی بحق محمد مصطفیٰ  
 یا حبیط یا علی یا علی یا ولی

فون پر بلا ہدیہ بزبان مولانا ناؤ علی کا جواب دیا جاتا ہے۔ اوقات فون 2 بجے دوپہر سے رات 10 بجے تک ہیں۔ 10 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو حاضر تکی ہوتے ہیں۔ جس میں مولانا ناؤ علی سے ملاقات اور مقدس مقامات اور خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے۔ عمل کا کوئی بوجھ میں نہ آئے تو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

عامل ناد علیٰ با موکل سید مرتضیٰ حسین 0301 2845261

# برائے محبت زوجین

اگر میاں بیوی میں اکثر جھگڑا رہتا ہو تو میاں بیوی کے لئے اور بیوی میاں کے لئے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ذیل کی آیت پانی پر دم کر کے خود بھی پے اور مطلوب کو بھی پلائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ عَسَى اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَ اللّٰهِ کَمَ سَے جَوڑن در جم ہے کہ تیرا سے اور ان میں سے تمہارا دشمنوں کے درمیان اَلَّذِیْنَ عٰدٰیْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةٌ ۙ وَاللّٰهُ قَلِیْلٌ ۙ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝  
 دوستی پیدا کرے اور اللہ تو قادر ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے (احمد ۷)



۱۴۳۲ ہجری

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ

2011 عیسوی

# نوروز عالم افروز

پوشاک: دو شالہ سفید، بیسی سفید رنگ

تحویل آفتاب در رُج حمل

بادشاہ: قمر

سواری: سفید بکری یا سفید گھوڑا

مورخہ 21 مارچ 2011ء بروز پیر

وزیر: مریخ

عرض بلد 32-16N


4 بجکر 15 منٹ صبح پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم

سپہ سالار: زہرہ

طول بلد 75-10E

زائچہ نوروز

مشیر: مشتری



صدقات: کپڑا سفید، مردارید،

مورخہ 21 مارچ 2011ء بروز پیر صبح 4 بجکر 14 منٹ

خوراک: چاول، دودھ، مٹھائی برنگ سفید،

کافور، آنا، مرغی برنگ سفید، جواہر اسد،  
برنگ سفید29 سیکنڈ پاکستان کے مورخہ وقت غمخس در رُج حمل کے  
صفر درجہ پر تحویل آفتاب ہوگا۔

کیلا، آنا، ساگودانہ، سفید میوے، کاجو وغیرہ

**نوٹ:** تحویل آفتاب کا وقت پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے۔ بیرون ملک مقیم امامیہ جنتی کے قارئین نوروز کے پاکستانی وقت صبح 4:14:29 سے 5 گھنٹے نفی کر لیں۔ تو گرین وچ میں ٹائم نکل آئے گا۔ اس وقت میں اپنے ملک کے سٹینڈرڈ ٹائم کو جمع یا نفی کرنے سے مطلوبہ نوروز کا وقت حاصل ہو جائے گا

# زائچہ نوروز عالم افروز 2011 اور عالمی حالات

محرر: غلام رضا عسکری اصوان

**پاکستان:** نوروز 2011 عیسوی اس سال ایکس مارچ بروز پیر

21.03.2011 صبح 04.15 منٹ پر پاکستان معیاری کے وقت کے مطابق ہوگا سعد ستاروں کی سعد نظرات سے مبراہ زائچہ نوروز اہلبیان پاکستان کے لئے کیا اثرات مرتب کریگا۔ طالع کا حاکم نوبس خارجہ تعلقات میں بہتری اور ایکسپورٹ میں بہتری کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ فوجی اداروں کی پذیرائی کے ساتھ افواج پاکستان کی عالمی سطح پر کامیابیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پری ورتن یوگ یہاں منفی اثرات میں نمایاں کی کا باعث ہے۔ تیسرے ہمسایہ تعلقات کا گھر چار ستاروں کی موجودگی اور زحل کے ساتھ مقابلہ کی کیفیات پڑوسی ملک کی جانب سے سفارتی و سرحدی سطح پر چاکل نقل و حرکت کی خبریں اس سال خاصی سرگرم رہیں گی۔ افغانستان و بھارت دونوں کی جانب سے الزامات اور دہشت گردی کے واقعات کا بہتان لگانا معمول رہیگا جبکہ اطلاعات و نشریات پر نئے قوانین بنا کر ضرب لگائی جاسکتی ہے۔ وزیراعظم کی پوزیشن مضبوط ہوگی جبکہ دسویں بادشاہ کا ستارہ دوسرے گھر کمزور حالت میں ہے۔ کرکٹن کے نئے کیمرہ کھولے جانے کے واقعات سامنے آئیگے۔ ملکی اشاک مارکیٹیں مجموعی طور پر مندے کا شکار رہیں گی۔ سندھ و پنجاب کے جنوبی علاقوں میں خصوصاً جنوب مغربی علاقوں میں بارشیں شدید ہو سکتی ہیں اس سال مجموعی طور پر بارشیں زیادہ ہوگی۔ آبی ذخائر میں اضافے کے لئے اس سال جامع پالیسی سامنے آسکتی ہے۔ قدرتی آفات میں قیمتی جانوں کا زیاں ہو سکتا ہے۔ حکومتی نااہلیوں کے کئی ایک ایکٹیز زہان زد عام ہوں گے اور عدالتی و حکومتی مشینری میں رسہ کشی بدستور برقرار رہیگی۔ خواتین اور خواتین کی بہبود کے ادارے فعال ہو گئے اولاد میں افزائش ہوگی اسکے ساتھ زراعت اور باغات میں بہترین پیداوار ممکن ہوگی۔ جون 2011 بننے والا گرینڈ کراس اور قمری گرہن کے اثرات حکومتی و عوامی دوش سطحوں پر خاصے مشکل اور اچانک فیصلے کئے جانے اور عوامی غم و غصہ کے ساتھ جون جولائی سمندری طوفانوں اور قدرتی آفات کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ وزیر سال زائچہ میں کمزور ہیں۔ اور وزراء کے بجائے فرد واحد کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ جبکہ سپہ سالار سال تیسرا سہ ماہی زائچہ تربیحات و مقابلہ کی نظرات کے ساتھ کوئی خاص اچھا شگون نہیں دیتا جولائی تا دسمبر حکومتی اہلکاروں اور مشینری کیلئے خاصے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں۔ بڈجٹ ایکشن کی جانب اس سال زائچہ نوروز کی کئی ایک نظرات اشارہ کرتی ہیں۔ بیرون ملک افرادی قوت اس سال کثیر تعداد میں رخصت سفر باندھے۔ چوتھے پوزیشن اس سال بھی کوئی خاص کردار ادا کرتی نظر نہیں آتی۔ کیلیوں اور فون لطیفہ سے منسلک افرادی پذیرائی کی

جاسکتی ہے۔ چھٹے کا حاکم نوبس افسر شاہی اس سال مزید طاقتور ہوگی جبکہ ہائیں بازو کی جماعتیں اس سال بھی بیرونی دباؤ میں خاموش نظر آئیں گی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان اس سال کئی ایک جنگی معاہدے کرتا نظر آتا ہے جبکہ جبکہ بیرون ملک منڈیوں تک رہائی کے لئے پاکستانی کمپنیوں کو اپنی معیاری استعداد میں اضافہ کرنا ہوگا۔ قرض کی شرح اور شرح سود میں اضافہ متوقع ہے اسکے ساتھ افراط زر کرنسی میں مزید کمی کا باعث بنے گا۔ بیرون ملک ممالک کا دباؤ اس سال بھی پاکستانیوں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیگا۔

**ایران زائچہ نوروز میں:** اسلامی جمہوریہ ایران خدا

سلامت رکھے ایران کو۔ ایران کی عالمی ساکھ میں کوئی کمی نہ آئیگی بلکہ ممکن ہے کہ زحل نیمچون ٹھٹھ اس سال 2012 تک ایران کو دوسری اٹلی طاقت کے طور پر دنیا دیکھے۔ عالمی پابندیوں سے بالاتر ہو کر ایمان کی قوت سے سرشار ایرانی قیادت عالمی پابندیوں سے نمودار ہو کر سرخرو ہوگی۔ تیل کی پیداوار میں اضافہ کے ساتھ عالمی سطح پر اتحادی ممالک پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل اور حامی ممالک کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہیگا۔ خفیہ ایجنسیاں ایک بار پھر ایرانی عوام کو تقسیم کرنے کی سازش کریں گی۔ زلزلہ اور قدرتی آفات میں کثیر جانوں کا زیاں ہو سکتا ہے۔ کئی ایک ممالک میں سفیروں کی تبدیلی و تعیناتی کا عمل دکھائی دیتا ہے۔

**افغانستان نوروز کے آئینہ میں:** افغانی

معیشت بد حالی کا شکار اور غربت عروج پر ہو سکتی ہے۔ خانہ جنگی میں افغان عوام اس سال بھی کثیر جانوں کا زیاں کریں گے۔ اتحادی فوجوں کی جانب سے مزید پیش قدمی ہوگی۔ کرنزی حکومت کو بدستور امریکی اشیر با د حاصل رہے گی لیکن اگست ستمبر میں کرنزی صاحب کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اسمگلنگ کا رجحان شدت اختیار کریگا اسکے ساتھ علاقائی سرداروں کی جانب سے کرنزی پر دباؤ بڑھے گا۔ جہادی تنظیموں کی جانب سے کوئی بڑا حملہ کرنزی انتظامیہ کو مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔ نشیات کی پیداوار میں اضافہ اور پیر و زنگاری و بے راہروی کی نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔

**چین نوروز کے آئینہ میں:** ساتویں زحل کا

شرف بین الاقوامی سطح پر جنگی و کاروباری سطح کے معاہدے چین کی حکومت کر سکتی ہے۔ فارن انکچینج میں چین کو نمایاں کامیابی ہوگی۔ پلٹو دسویں گھر چین کے عالمی وقار میں دھجے سے اضافہ کرتا رہے گا۔ وہ دن دور نہیں کہ جب عالمی معیشت چینی معیشت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلے۔ فارن ریزرو میں اضافہ کے ساتھ چین

بیروزگاری پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیگا۔ چینی عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوششیں سپر پاورز کی جانب ہو سکتی ہیں جبکہ عالمی سطح پر امریکہ اور اسرائیل کی دراندازیاں چینی عوام میں خلفشار پیدا کر سکتی ہیں۔ ہمسایہ ممالک خصوصاً پاکستان انڈیا کے ساتھ متوازن تعلقات بنانے میں چین کامیاب ہو جائیگا۔ چین اس سال افواج کو مزید ہتھیاروں سے لیس کرنا نظر آتا ہے جبکہ وسط سال میں چین کی جانب سے نئے ہتھیاروں کے تجربات بھی سامنے آسکتے ہیں۔ خلائی مشن کے ساتھ چین اس سال اچانک کسی نئے ہتھیار کو منظر عام پر لا سکتا ہے۔

بہی عالمی پابندیوں کے خلاف عراقی عوام اجتماع کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عراق ایک انقلاب کی جانب بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اتحادی افواج بدستور عراقی محاصل پر قابو نظر آتی ہے اسکے ساتھ ہی پڑوسی ملک ترکی یا اسرائیل کی جانب سے سرحدوں پر کشیدگی اور خونریزی کے واقعات سامنے آسکتے ہیں۔ کرد اور عراقی حکومت غیر آواز ما ہو سکتی ہے۔

**امریکہ نوروز کے آئینہ میں:** امریکی معیشت

دباؤ میں رہے گی جبکہ امریکہ میں جاری کساد بازاری اور بیروزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکہ قرضوں کی اونچی سطح پر نظر آتا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی سے بچنے کی خاطر امریکہ کثیر قرضہ لے گا جبکہ مقامی بیروزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہوائی حادثات میں کثیر جانوں کا زیاں ممکن ہو سکتا ہے 2011 تا 2013 تک لگاتار بننے والے گریڈ کر اس امریکی عوام معیشت و حکومت کا برا حال کرنے میں معاون ثابت ہوئے۔ اوقیانوس میں سمندری طوفانوں کی وجہ سے امریکہ کی مرکزی ریاستیں خاصی تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ یورپ میں مرغ اجتماع اور زل کے مقابلہ اور دہشت گردی کی کاروائی مئی یا جون کے اوائل میں امریکی عوام میں نیا خوف دہراں پیدا کر سکتی ہے۔ اس سال کئی دہشت گردی کی لپیٹ میں امریکہ رہ سکتا ہے۔ اگست میں حوت میں نیچھون کی آمد امریکہ اور اسکے اتحادیوں میں پھوٹ ڈال سکتی ہے۔ جبکہ امریکی عوام کی جانب سے جنگ برائے دہشت گردی کو کوئی سطح تک محدود کرنے کے مطالبات زور پکڑیں گے۔ عالمی معاہدوں کی جھجیاں اڑانے کے واقعات امریکی عوام کے سامنے بار بار اس سال دیکھنے کو آئیگی۔

**غلام رضا عسکری اعوان**

**انڈیا نوروز کے آئینہ میں:** روایتی حریف منفی

ہتھیار استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہرا لگنے میں پیش پیش رہیگا۔ سرحدوں پر فوجی اجتماع اور خلاف ورزیاں کثیر تعداد میں انڈیا کر سکتا ہے۔ نئے ٹیکس اور دیگائی سے عوام پریشان حال ہوں گے۔ فلم انڈسٹری کے بڑے ہیروز میں اموات کے واقعات سامنے آئیں گے۔ بین البراعظمی دور مار میزائل کے تجربات خطے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع کرنے میں انڈیا کی پالیسی کا حصہ ہوئے۔ حزب اختلاف کا دباؤ موجودہ حکومت کو پریشان کر سکتا ہے جبکہ انڈیا کو بھی اس سال کرنسی میں کمی کے دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بدستور جاری رہیگا جبکہ مسلم ہندو فسادات کے خدشات جولائی تا ستمبر پائے جاتے ہیں۔ تاہم انڈیا سے پاکستان کے کئی ایک تجارتی معاہدے منظر عام پر آسکتے ہیں۔ علاقائی تنظیم سارک میں پھوٹ پڑ سکتی ہے۔

**عراق نوروز کے آئینہ میں:** عراقی عوام بدستور آزاد

ملک میں رہتے ہوئے قیدی نظر آتی ہے عراقی حکومت و عوام میں ہم آہنگی کی کمی دیکھنے میں آئیگی۔ موجودہ عبوری حکومت کے خلاف احتجاج زور پکڑ سکتا ہے اور اسکے ساتھ

**صدقات نحوست سیارگان**

نمبر شمار	نام ستارہ	متعلقہ عدد	متعلقہ رنگ	متعلقہ دن	متعلقہ حرف	متعلقہ اشیاء
1	شمس	4-1	زرد	اتوار	م-ٹ	گندم، دال چنا، دال مونگی، دلی ہوئی، زرد یا سنہری کپڑا، زر دکئی
2	قمر	7-2	سفید	پیر	ح-ه	چاول، آنا، دودھ، دہی، نان، کچھ، سفید کپڑا
3	مشتری	3	زرد	جمعرات	ج-د	دال چنا، دال مونگی، دلی ہوئی، زر دکئی، شکر (زر دکئی)، زر دکئی کپڑا
4	عطارد	5	سبز	بدھ	پ-ق-ک-غ	ثابت مونگی، دال مونگی سبز پھلکے والی، باجرہ، ڈالڑا، گھی، بہر کپڑا
5	زہرہ	6	سفید	جمعہ	ب-ت-ر-ط-و	چاول، آنا، دودھ، دہی، نان، کچھ، سفید کپڑا
6	زحل ایورانس	4-8	سیاہ، سرخی، سلیبی	ہفتہ	ث-ج-خ-س-ش-ص-گ	ثابت کالے ماش، دال ماش، کالے چھلکے والی، کالے قیل، سورج مکھی کے بیج، کالا کپڑا، لوہا، کالا تیل
7	مرخ	9	سرخ، گلابی	منگل	ذ-ز-ض-ظ-ع-ل-ن-ی	سرخ گندم، دال مسور، سرخ مکئی، سرخ چنے، سرخ کپڑا، سرخ گلاب کے پھول، تانبہ

**لعل بخش قلندری P-505 قلندری چوک گلی نمبر 7 محلہ میر آباد فیصل آباد 0333 8147274 / 0301-4243709**



# آداب و اعمالِ نوروز



تحویل آفتاب کا وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ یہ استجابِ دُعا کا وقت ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ مقررہ وقت سے پہلے پاک صاف ہو کر لباسِ مطہرہ زیب تن کریں اور کسی پاک جگہ پر پاک فرش کا اہتمام کریں۔ خوشبو یا تیل مثل لوبان، اگر بتی و صندل وغیرہ سلگائیں۔ دسترخوان پر مٹھائی پھل میوے وغیرہ رکھیں اور نذر حضرت امیر المومنین علیہ السلام دیں۔ بعد ازاں ایک کٹورے یا پیالے میں پانی بھر کر اس میں گلاب کا سُرخ پھول ڈال دیں اور بوقتِ تحویل آفتاب اس پر نظر رکھیں جو وقتِ تحویل کا ہوگا اس وقت خود بخود ساکن پھول میں حرکت پیدا ہوگی۔ بس یہ وقت دُعاؤں کے مستجاب ہونے کا ہے۔ اس وقت ۳۶۹ مرتبہ " يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ " اور کم از کم ۳۶ مرتبہ یہ دُعا پڑھیں۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصَارِ يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ

وَالْاَحْوَالِ حَوْلٌ حَالَنَا اِلَى اَحْسَنِ الْحَالِ ۝

مومنین کو چاہیے کہ نوروز کے دن بعد نمازِ ظہرین چار رکعت نماز اس طرح ادا کریں۔ اول یہ نیت کریں کہ دو رکعت نماز نوروز پڑھتا ہوں۔ "قُرْبَةً اِلَى اللّٰهِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ" اور اول رکعت میں بعد سورۃ حمد دس مرتبہ سورۃ " اِنَّا نَزَّلْنَاهَا " اور دوسری رکعت میں بعد سورۃ حمد دس مرتبہ " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " اور بعد سلام ختم کرے اور پھر دو رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کریں۔ اول رکعت میں بعد سورۃ حمد دس مرتبہ " قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ " اور دوسری رکعت میں بعد سورۃ حمد دس مرتبہ " قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ " اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " پڑھے اور بعد سلام ختم کرے اور سجدے میں جائے اور یہ دُعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ الْاَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ وَعَلٰى  
جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ بِاَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ  
بِاَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَصَلِّ عَلٰى اَرْوَاحِهِمْ وَاَجْسَادِهِمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ  
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ يَوْمِنَا هَذَا الَّذِيْ فَضَلْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ  
وَشَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتْ خَطَرَهُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَنْعَمْتَ بِهِ عَلٰى  
حَتّٰى لَا اَشْكُرُ اَحَدًا غَيْرَكَ وَوَسَّعْ عَلٰى فِيْ رِزْقِيْ يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْاَكْرَامِ اَللّٰهُمَّ مَا غَابَ عَنِّيْ فَلَا يَغِيْبُنِيْ عَنِّيْ عَوْنُكَ وَ حِفْظُكَ  
 وَمَا فَقَدْتُ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تُفْقِدُنِيْ عَوْنُكَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا اَتَكَلَّفَ مَا لَا  
 اَحْتَاٰجُ اِلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ بعدہ دُعا کرے بعض نے لکھا ہے کہ نوروز کے دن موافق اعداد  
 ایام سال نکال کر اس دُعا کو پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ وَاَنْتَ مَلِكٌ قَدِيْمٌ  
 اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا  
 وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ مَّوْنِهَا وَشَغْلِهَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (زاد المعاد)

**تقش نوروز** اعداد ۵۰۳۶  
 تحویل آفتاب کے وقت کسی پاک جگہ با وضو ہو کر گلاب وزعفران سے  
 اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو تمام سال جملہ امراض و بلیات غم و  
 صدمات سے محفوظ رہیں گے دشمن مقہور ہوگا مقاصد پورے ہوں  
 گے۔ نہایت مجرب اور راز مرستہ ہے۔  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱۲۶۱	۱۲۶۴	۱۲۶۷	۱۲۷۰
۱۲۶۲	۱۲۶۵	۱۲۶۸	۱۲۷۱
۱۲۶۳	۱۲۶۶	۱۲۶۹	۱۲۷۲
۱۲۶۴	۱۲۶۷	۱۲۷۰	۱۲۷۳

**سات سلام** مشہور ہے کہ جو شخص یہ سات سلام نوروز کے دن  
 منگ وزعفران سے کسی چینی کے برتن پر لکھ کر  
 گلاب کے عرق سے دھوئے اور اس میں سے پیئے تو آئندہ سال تک کوئی رنج و درد  
 اُس کو نہ ستائے گا۔ اگر زہر بیلا جانور کالے تو اس پر اثر نہ ہوگا۔

- (1) - سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ ،
- (2) - سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ ،
- (3) - سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ،
- (4) - سَلَامٌ عَلٰى مُوسٰى وَهَارُوْنَ ،
- (5) - سَلَامٌ عَلٰى اِلِ يٰسِيْنَ ،
- (6) - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ،
- (7) - سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْعِ الْفَجْرِ ط (از حاشیہ زاد المعاد)

**نذر مولا مشکل کشاء علیہ السلام**  
 نوروز کے دن جس وقت آفتاب نکلنے میں داخل ہوتا  
 ہے۔ مولا مشکل کشاء سے رجوع کیجئے۔ کسی ہی مشکل ہو۔ وقت تحویل  
 مولا کی نذر دے کر ان کے وسیلے سے دُعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ حاجت پوری  
 کرے گا۔ کتنے ہی بے اولاد مرد اور بامعہ عورتوں کو اس عمل سے اللہ تعالیٰ  
 نے اولاد عطا فرمائی۔

مندرجہ ذیل سورہ کو منگ وزعفران سے لکھ کر گلاب میں دھو کر پئے وہاں امراض  
 جسمانی سے محفوظ رہے گا۔ اس نقش کی انگوٹھی چاندی پر کندہ کر کے پہنے گی تاج نہ ہوگا۔  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَبْنائِنا وَبَنَاتِنَا



# عالمی پیشگوئیاں 2011ء

عجم و جعفرار  
سید حسن حیدر زیدی  
کراچی

23 مارچ 1940ء قرار داد پاکستان 14 اگست 1947ء جب پاکستان وجود میں آیا مگر عجیب بات یہ ہے کہ 23 مارچ اور 14 اگست دونوں تاریخوں میں قمرود عقرب تھا اور مرنج مد مقابل تھا۔ لہذا مرنج کا مد مقابل آنا اور قمر جب بحالت وبال ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مشکل میں رہے اور فوج کا عمل دخل بہت زیادہ رہے۔

## پاکستان:

ملک میں لاقانونیت حد درجہ بڑھ جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کے زیر اثر تمام ادارے پیٹھ جائیں گے۔ حکومت کمزور سے کمزور تر اور کمزور ترین ہوتی جائے گی۔ پاکستان کے عوام حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے لیڈروں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے اور ان کو ناپسندیدہ قرار دیں گے۔ یہی حال بیرون ممالک کا ہوگا کہ وہ پاکستانی لیڈروں پر ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ حکومت عوام سے کئے ہوئے وعدے پورے نہ کر سکے گی۔ عوام میں مہنگائی کی وجہ سے غصہ بڑھے گا جس کا آغاز 14 اگست 2010ء سے شروع ہو گیا ہے۔ حکومت بے بس رہے گی۔ مہنگائی کا سونامی عوام کو خود کشیوں پر مجبور کر دے گا۔ عوام کو ہر طریقہ سے پریشان کیا جائے گا اور ہماری ٹیکس عائد کئے جائیں گے۔ جس کی وجہ سے عوام لوٹ مار پر آمادہ ہوں گے۔ موجودہ حکومت کی کاہنہ اور اسمبلیوں کو ماہ اگست 2010ء سے لے کر مارچ 2011ء تک شدید نقصان کا خطرہ ہے۔ عوام کے ذہن حکومت کے خلاف بن چکے ہیں۔ اب عملی طور پر ہر آنے والا دن حکومت وقت کے خلاف ہوتا جائے گا۔ لوٹ مار بڑھ جائے گی۔ عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ عورتوں کی توہین کی جائے گی۔ ڈاکے چوریاں عام سی بات ہوں گی۔ قصہ مختصر اہر طوع ہونے والا آفتاب حکمرانوں کی جانی اور عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کرے گا۔ بڑی خوبصورتی سے امریکہ موجودہ حکومت کے خلاف ہوجائے گا اور حکومتی لوگ ذہنی کشش میں مبتلا رہیں گے جو ان کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پاکستان کی معیشت اور اقتصادی حالت ابتر رہے گی۔

## امریکہ:

امریکہ پوری طرح سے پاکستان پر چھاتا چلا جائے گا۔ جبکہ امریکہ کی اقتصادی حالت خراب رہے گی۔ امریکی صدر کے خلاف امریکی عوام عدم اعتماد کا اظہار کریں گے۔ امریکی عوام میں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ امریکی حکومت دوسرے ممالک میں بے جا مداخلت بند کرے۔ مستقبل میں

امریکہ میں نسلی فسادات بڑھ جائیں گے۔ امریکی عوام اپنے صدر کے متعلق چہ گوئیائیاں کریں گے۔ 2011ء میں امریکہ کے کسی صوبے کو آفٹ ناگہانی سے واسطہ پڑے گا۔ جس میں انسانی زندگیاں تلف ہوں گی۔ امریکی سٹاک مارکیٹ کریش ہوگی۔ امریکہ کی معیشت اس قدر متاثر ہوگی کہ امریکہ دوسرے ممالک کو امداد دینا بند کر دے گا اور اپنے عوام کا خیال رکھے گا۔

## چین:

چین بہت جلد امریکہ کا سہر پاور ہونے کا غرور ختم کر دے گا اور دنیا کا زمین پر سہر پاور ہونے کا اعلان کر دے گا۔ مگر موجودہ وقت میں چین پاکستان کے لئے مددگار ثابت اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری دی ہوئی امداد پاکستان کے غریب عوام کو نہیں ملے گی بلکہ یہ امداد حکمرانوں کے محلات پر خرچ ہوگی۔ ویسے چین بہت مستحکم اور مضبوط رہے گا۔

## انڈیا:

اندر دنی خلفشار کا شکار رہے گا اور مکمل طور پر امریکی پالیسی پر عمل کرے گا۔ امریکن اور انڈین پالیسی ایک رہے گی۔ البتہ انڈیا کے کسی صوبے میں آفٹ ناگہانی نازل ہوگی جس کی وجہ سے بے شمار اموات کا راسخ اندیشہ موجود ہے۔

## ایران:

ایران بہت جلد ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو حیران کر دے گا مگر امریکہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ بلکہ ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا۔ امریکہ ایران سے اس لئے ڈرتا ہے کہ ایران کے نشانہ پر اسرائیل ہے اور چند منٹوں میں ایران اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے۔ لہذا اسرائیل کو بچانے کے لئے امریکہ کسی بھی اقدام سے گریز کرتا نظر آتا ہے۔ بہر صورت ایران ایک مضبوط مملکت کی طرح زندگی گزارنے کا ڈھنگ جانتا ہے۔

## افغانستان:

نیٹو افواج میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگرچہ امریکی فوجیں واپس چلی جائیں گی مگر نیٹو افواج کے تازہ دم دستے فی الحال افغانستان میں



# پاکستان کا مستقبل ایک خصوصی امکانی تجزیہ

غلام اکبر گنگو  
0308 2074027

سال بھاری ہوتا رہے گا۔ 2011ء بہر اقتدار اور اپوزیشن کی سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات اداکار اور اداکارائیں، گلوکار اور گلوکارائیں چند نامور برسر اقتدار شخصیات پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لئے 2011ء سازگار ہے۔ 2012ء میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔

**نوٹ:** وزیر اطلاعات خیر بختون خواہ اور بلور خاندان، اے این پی، مسلم لیگ ن کے لئے درج بالا تینوں بھاری نظر آتے ہیں۔

**ایک پُر خلوص رُو حانی مشورہ:** یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ متواتر قانون قدرت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سنت نبویؐ کو نظر انداز کریں اور پھر یہ تمنا کریں کہ پرسکون زندگی گزرے۔ نہیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔

دوستوں: میرے پیارے رب نے میری محنت اور نیک نیتی کے صلے میں اعداد کی جو اب مجھے عطا فرمائی ہے اور (دم امراض کا مستند قرآنی راز) اس پر ہرگز ہرگز مجھے دعوائے تقاضا نہیں۔ دوستو: آج کا نظر آنے والا ہر انسان ہر لحاظ سے انتہائی پریشان ہے۔ یہ انسان ہی کے ہاتھوں دکھا اٹھا ہے اور انسان ہی اس کی کامیابی کا زینہ یا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے دکھوں کو سننے اور ممکنہ دائمی حل کے لئے سینے کے راز لوٹانا چاہتا ہوں۔ اپنی تمام جائز عمل مشکل کشائی اور پرسکون زندگی کو اپنے رب کی جانب منسوب کریں کیونکہ منجانب اللہ ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ بس اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں تاکہ آپ کا پالہ تبار آپ سے راضی ہو جائے۔

**سہ حرف "ک" کے راز:** زیست کے سفر میں مسافر حیات کو ہر قدم مشکلات اور مصائب سے واسطہ پڑتا ہے اور کوئی انسان ان حالات سے بچ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کاروبار حیات میں نشیب و فراز کی وجہ سے ضبط و جبر کی متاع گراں مایہ کام آتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے جو لوگ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور عبادت میں محو رہتے ہیں اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں انجام کار وہ کامیاب ٹہرتے ہیں۔ دوستو! طویل ریسرچ کے بعد ایک بے خطا قرآنی عمل قارئین کرام کی نظر کرتا ہوں جو سہ حرف ک گ (کرار حیدر، عبدالکریم، کلثوم، کشور، گل محمد، گلناز) سے متعلقہ جو عورتوں کے لئے ایک روحانی، نورانی نعمت کا دائمی پیام ہے۔

2011ء وطن عزیز کی تعمیر و ترقی اور اہم فیصلوں کا سال ہوگا۔ 20 اکتوبر سے شروع ہونے والا نیا عدوی وقت حکومت اور اپوزیشن کے لئے ایک بہترین مہلت ہوگی کہ اب وہ اپنی اپنی سیاسی اتا پستی کی میزبانی سے اتر کر ملک و عوام کے لئے کچھ کر سکیں۔ اس حوالے سے فروری، اپریل، جون، اگست، نومبر 2011ء اور اگست، نومبر 2010ء مؤثر وقت ہوگا۔

منی پاکستان یعنی کراچی کی موجودہ حالت زار کے حوالے سے بھی 2011ء کا یہ وقت اہم اقدامات کے لئے سازگار رہے گا۔ پیارے قارئین! تمام حلق عدوی مہینے ستمبر، اکتوبر (ابتدا 17 اگست 2010ء تا 19 اکتوبر 2010ء)۔ ابتدا 17 نومبر تا 19 دسمبر 2010ء) جنوری، مارچ، مئی، جولائی، ستمبر، اکتوبر اور دسمبر 2011ء تک یہ وقت کراچی، ملک اور حکومت کے لئے بھاری ہوگا۔

ٹرائیکا (صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف) اپوزیشن، جج صاحبان، وکلاء صاحبان اور میڈیا کے امتحان درگزر اور انتہائی دور اندیشی پر مبنی فیصلوں اور اقدامات پر ہوگا۔ واضح رہے کہ ہر مہینہ 20 تاریخ سے شروع ہو کر 20 تاریخ کو ختم ہوتا ہے۔ ہر تاریخ رات 12 بجے سے نہیں بلکہ دوپہر 12 بجے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کا اہم ترین عدوی وقت ہر حوالے سے نازک ثابت ہوتا ہے۔ تاریخیں درج ہیں:۔ 10 - 17 - 18 - 19 - 26 - 27 - 8 - 9 اور 28 ہیں نوٹ فرمائیں۔

**پیارے رفیقان سفر:** 28 جولائی 2010ء مارگلہ میں طیارہ حادثہ میں اس وقت میں ہی کیوں ہوا۔ میرا رب میرے ان عدوی تجزیوں کا پابند تو نہیں ہے پھر کیوں؟ بس اسے مشیت ایزدی دل سے سمجھتے ہوئے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے غور و تدبیر فرمائیں کہ آج کل کا مسلمان کہاں کھویا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مندرجہ بالا تاریخوں میں 28 تاریخ ہے جو مارگلہ میں طیارے کا حادثہ ہے۔

اس عدوی وقت میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندگی میں زبردست جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ 2011ء اور بیان کردہ تمام محنت عدوی وقت، محنت عدوی صوبوں، شہروں، عوام الناس شخصیات اور ملکوں کے لئے ہر



## مجرب عمل سورة الرحمن برائے تسخیر خلائق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ بَخَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۚ وَ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۚ  
خدا نے رحمان نے قرآن سکھایا۔ اسی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور اُس نے اسے بیان سکھایا۔ سورج اور چاند مقرر حساب کے مطابق گردش کرتے ہیں اور تیل بوٹیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ (القرآن پارہ ۲۷، سورہ ۵۵ الرحمن)

میں اپنے والد بزرگوار روحانی محقق آغا حسین احمد صاحب عامل کی زیر نگرانی 1999ء سے شجرہ روحانیت میں زیر تربیت ہوں۔ ان کے پاس خلقِ خدا کا ہتھکھار ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں فون اور مخلوط آتے ہیں۔ حکام سے عوام تک سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ 7 جون 2010ء سے 29 جون 2010ء (22 دن) والد محترم سوڑھے کے السر سے بیمار تھے اور علیل ہو گئے۔ میں اُس وقت ان کی خدمت میں حاضر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو شفا بخشی رو بہ صحت ہیں۔ 28-06-2010 کو مجھے از خود حکم فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ تم کو وہ عمل تسخیر لکھوادوں جس کی بدولت میں نے دنیا میں نام پایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نکل نہ کرنا اور امیہ چنتزی 2011 میں یہ عمل شروع کرنا تاکہ پریشان حال موٹیں ابھیر کر سچے کے استفادہ کر سکیں۔

**عمل کی تفصیل:** قرآن کی مشہور و معروف اور خوبصورت ترین سورہ الرحمن کو زبانی یاد کر لو۔ ۳۔ اچھی طرح یاد ہو جانے پر صبح کو نکلنے سے سورج کی طرف منہ کر کے باوضو سورہ الرحمن پڑھنا شروع کرو۔ جب اس سورہ کی آیت **فِيَا أَيُّهَا آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ** پر پہنچو تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کریں۔

یہ عمل روزانہ 5 یا 7 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل چالیس یوم تک صبح کا ہے۔ تسلسل سے چار چلے 160 یوم تک عمل کریں۔ فرائضی رزق اور تسخیر خلق کا تجربہ شدہ عمل ہے۔ صحافی۔ وکلاء۔ بیرسٹر۔ ڈاکٹر۔ طبیب۔ عامل۔ تاجر۔ دکاندار۔ چاہے جس شعبہ کا فرد کرے تسخیر خلق ہے بہا یا بیگا۔ والد محترم نے بھی مجھے اس کی اجازت بخشی ہے اور ہر مومن مولائی کو بھی اجازت عام دی ہے۔ مطلوب محبوب۔ افسران کو سخر کرنے کا آسان عمل ہے۔ ناجائز مقصد کے لئے نہ کریں۔ پرہیز جمالی اختیار کریں۔ جولائی سے اگست۔ ستمبر۔ اکتوبر نومبر 2010 تک میرے چار چلے مکمل ہو جائیں گے۔ جو لوگ سورہ الرحمن کو حفظ نہ کر سکیں وہ دیکھ کر پڑھیں مکمل سورہ الرحمن طبع شدہ مع ترجمہ تفسیر اور پرہیز جمالی کا پرچہ جو ابی لفافہ بھیج کر مفت طلب کریں۔

آغا جعفر حسین فون: 0300 7807248

آغا ہاؤس (پوسٹ کوڈ 63350) احمد پور شرقیہ نمبر 5 ضلع بہاولپور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ

نَصِيرًا ۝ وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝

رات کے کسی حصے میں اٹھ کر تازہ غسل کریں یا با وضو ہو کر چودہ معصومین کے نام چودہ نوافل ادا کریں اور آخر میں دو نفل پڑھ کر درج بالا اسم اعظم چودہ بار پڑھیں اور آخر میں چودہ بار درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کریں۔ انشاء اللہ چودہ معصومین علیہم السلام کے صدمے میں اللہ پاک چودہ دن کے اندر آپ کی مراد پوری کرے گا۔ اس عمل کے ساتھ تعویذ بھی ضرور حاصل کریں۔ ہدیہ مناسب ہے۔ بس یقین با مراد اللہ عالم بالصواب۔ باقی رہے نام اللہ کا۔

سرخرف ص کی عورتیں بھی خاص اسم اعظم مع تعویذ کے لئے رُجوع کر سکتی ہیں۔ ایران۔ یمن۔ صومالیہ۔ فرانس ممالک کے علاوہ مندرجہ نامور شخصیات۔ سوینا گاندھی۔ خالدہ ضیاء۔ جنید جمشید کے لئے 2010-2011-2012 زیادہ مصائب اور سختی کی نشاندہی ثابت ہوتی ہے۔ 2011 انڈیا کے اٹل بہاری واجپائی اور راجیو گاندھی صحت اور زندگی کے لئے اہم ہے محتاط رہیں۔

**نوٹ:** نومولود بچوں کے مبارک نام معدود عاصیہ تعویذ فی سبیل اللہ منگوائیں۔

دعا گو: غلام اکبر زنگیجو (کراچی)

فون: 0308 2074027, 0307 3724672

## عمل برائے قضائے حاجات

کتاب مشکوٰۃ از علامتہ بہاؤ الدین عالی میں ہے کہ ہزار مرتبہ ہر روز ہر کلمہ کو ایک ہفتہ تک حسب ذیل ترتیب سے پڑھا جائے تو حضرت جنت خود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک ہی نشست اور ایک ہی مقام پر ادا کرنا ہی وقت اس عمل کو بجالائیں۔ عمل کے اول و آخر میں زیادہ درود پڑھیں۔

**ہفتہ:** (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) **اتوار:** (يَا حَسْبِيَ يَا قَيُّوْمُ)

**سوموار:** (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ)

**منگل:** (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)

**بدھ:** (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ)

**جمعرات:** (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ)

**جمعہ:** (يَا اللَّهُ مُحَمَّدٌ كُلُّ لِعَالِيهِ)

امامیہ تقویم		استخراج و کوائف سیارگان			اسلامی تقویم		
ایام	عیسوی	شمسی	مطابق اہل بصرہ			ہجری	ولادت و شہادت مصوفین علیہم السلام
			تہجر	تہجر	سیارگان		
2011	2067	1932	تہجر	تہجر	سیارگان	۱۴۳۲	یادداشت
31	جنوری	پونہ	فی البروج	فی المنازل	فی البروج	محرم	اسلامی معلومات
ہفتہ	1	11 18	توس	06.21	نعام	۲۵	شہادت امام زین العابدین ۹۵ھ
اتوار	2	12 19			بلدہ	۲۶	کناخ و سفر کے لئے بد
پیر	3	13 20			ذائح	۲۷	شہادت بیٹم تمار (صحابی رسول)
منگل	4	14 21			بلدہ	۲۸	کناخ کے لئے بد
بدھ	5	15 22	دلو	21/07	سعود	۲۹	کناخ کے لئے بد
جمعرات	6	16 23			انفیسہ	صفر	داخلہ اہل حرم دربار یزید ملعون
جمعہ	7	17 24			مقدم	۲	شہادت حضرت زید شہید
ہفتہ	8	18 25	حوت	07/56	موز	۳	عرس پیرجان اللہ پستان
اتوار	9	19 26			رشا	۴	سفر کے لئے بد
پیر	10	20 27	حمل	20/23	شرطین	۵	
منگل	11	21 28			بطین	۶	عرس محمد نظام الدین D.G.K.
بدھ	12	22 29				۷	ظہور امام موسیٰ کاظم ۱۲۸ھ
جمعرات	13	23	ثور	08/36	شریا	۸	سفر کے لئے بد۔ وفات حضرت سلمان فارسی 35ھ
جمعہ	14	24 2			دبران	۹	شہادت حضرت غمار بن یاسر ۳۸ھ
ہفتہ	15	25 3	جوزا	18/23	حقوق	۱۰	عرس اکبر
اتوار	16	26 4			ہنہ	۱۱	وفات حضرت اویس قرنی ۲۷ھ
پیر	17	27 5			ذراعہ	۱۲	
منگل	18	28 6	سرطان	00/28	نیزہ	۱۳	شہادت بی بی سکینہ ۱۱ھ
بدھ	19	29 7			چہرہ	۱۴	
جمعرات	20	30 8	اسد	03/16	زہرہ	۱۵	قرض لینے دینے کے لئے بد
جمعہ	21	2 9			صرفہ	۱۶	
ہفتہ	22	3 10	سنبلہ	04/10	عوا	۱۷	شہادت امام علی رضا ۲۰۳ھ
اتوار	23	4 11			سماک	۱۸	
پیر	24	5 12	میزان	04/58	غفرہ	۱۹	
منگل	25	6 13				۲۰	چھلم امام حسین علیہ السلام عرس داتا گنج بخش
بدھ	26	7 14	عقرب	07/15	قابلیں	۲۱	
جمعرات	27	8 15			شولہ	۲۲	
جمعہ	28	9 16	توس	11/56	نعام	۲۳	آغا حکومت بنی عباس
ہفتہ	29	10 17			بلدہ	۲۴	بروایت شہادت حضرت زینب
اتوار	30	11 18	جدی	19/03	ذائح	۲۵	عرس سائیں فضل الہی قصور
پیر	31	12 19			بلدہ	۲۶	کناخ و سفر کے لئے بد

ابتداء قمر در عقرب 26 جنوری (بدھ) صبح 7 بجکر 15 منٹ۔ اختتام 28 جنوری (جمعہ) 11 بجکر 56 منٹ دن

۲۸ محرم الحرام تاریخی مجلس بوقت رات دس بجے بمقام قلعہ نوروز انصاری روڈ اسلام پورہ لاہور۔ زیر نگرانی الحاج علی محمد خواجہ۔ پیران نوروز علی خواجہ 04237155253

تاریخی مجلس شبہ تابت امام رضا 17 صفر 11 بجے شب امام بارگاہ بلتستان اسلام پورہ لاہور۔ اختتام مجلس منقہ سید امام رضا حاصل کریں۔ انجمن حبان آل محمد اسلام پورہ لاہور

28 محرم الحرام تاریخی مجلس بوقت رات دس بجے بمقام قلعہ نوروز انصاری روڈ اسلام پورہ لاہور۔ زیر نگرانی الحاج علی محمد خواجہ۔ پیران نوروز علی خواجہ 04237155253

# شمسی گزری گریہن 2011ء

۱۔ **شمسی گرہن:** 4 جنوری سن 2011ء دن کے 14.03.01 پر شروع ہوگا جزوی شمسی گرہن ہوگا۔ اور اس کا عروج 14.57 منٹ تک ہوگا۔ جبکہ اس کا اختتام 15.47.53 پر ہو جائیگا۔ برج جدی کے 13.39.00 پر لگے گا۔

۲۔ **شمسی گرہن:** 2 جون کی رات 00.25.43 پر آغاز ہوگا۔ نقطہ عروج 02.16.02 اور اختتام گرہن 04.06.32 پر ہوگا۔ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ برج جوزا کے 10.58.00 درجہ پر لگے گا۔

۳۔ **قمری گرہن:** 16 جون 2011ء کو رات 23.22.25 کا آغاز ہوگا۔ نقطہ عروج 01.12.36 اور اختتام 03.02.46 پر ہوگا۔ مکمل چاند گرہن ہوگا۔ پاکستان میں دیکھا جاسکے گا۔ برج اسد کے 15.29.00 درجہ پر لگے گا۔

۴۔ **شمسی گرہن:** یکم جولائی دن 12.54.44 پر آغاز ہوگا۔ نقطہ عروج گرہن کا 13.38.14 ہوگا اور اختتام گرہن 14.21.51 پر ہوگا۔ برج سرطان کے 09.10.00 درجہ پر لگے گا۔

۵۔ **شمسی گرہن:** 25 نومبر 2011ء صبح 09.23.30 پر آغاز ہوگا اور اس کا نقطہ عروج 11.20.59 تک ہوگا جبکہ اختتام گرہن 13.16.59 تک ہوگا۔ برج قوس کے 02.32.00 درجہ پر لگے گا۔

۶۔ **قمری گرہن:** مکمل چاند گرہن ہوگا۔ 10 دسمبر 2011ء کو شام 05.45.00 پر آغاز ہوگا۔ نقطہ عروج اس کا 19.31.51 تک ہوگا اور اختتام گرہن 21.18.31 پر ہوگا۔ برج جوزا کے 17.13.00 درجہ پر لگے گا۔

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ	ایضاً، جنوری - لاہور						کراچی
	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	
1	5-39	7-00	12-09	5-12	5-24	7-16	5-55
2	5-40	7-00	12-10	5-13	5-25	7-16	5-55
3	5-40	7-01	12-10	5-14	5-25	7-17	5-56
4	5-40	7-01	12-11	5-14	5-26	7-17	5-56
5	5-41	7-01	12-11	5-15	5-27	7-17	5-57
6	5-41	7-01	12-12	5-16	5-28	7-17	5-58
7	5-41	7-01	12-12	5-17	5-28	7-18	5-59
8	5-41	7-01	12-13	5-17	5-29	7-18	5-59
9	5-41	7-01	12-13	5-18	5-30	7-18	6-00
10	5-41	7-01	12-13	5-19	5-31	7-18	6-01
11	5-41	7-01	12-14	5-20	5-32	7-18	6-02
12	5-41	7-01	12-14	5-21	5-32	7-18	6-02
13	5-41	7-01	12-14	5-22	5-33	7-18	6-03
14	5-41	7-01	12-15	5-22	5-34	7-18	6-04
15	5-40	7-01	12-15	5-23	5-35	7-18	6-05
16	5-40	7-00	12-16	5-24	5-36	7-18	6-05
17	5-40	7-00	12-16	5-25	5-37	7-18	6-06
18	5-40	7-00	12-16	5-26	5-38	7-18	6-07
19	5-40	7-00	12-16	5-27	5-39	7-18	6-08
20	5-40	7-00	12-17	5-28	5-39	7-18	6-08
21	5-40	6-59	12-17	5-29	5-40	7-18	6-09
22	5-39	6-59	12-17	5-30	5-41	7-18	6-10
23	5-39	6-59	12-18	5-31	5-42	7-17	6-11
24	5-39	6-58	12-18	5-32	5-43	7-17	6-11
25	5-39	6-58	12-18	5-33	5-44	7-17	6-12
26	5-38	6-57	12-18	5-34	5-45	7-17	6-13
27	5-38	6-57	12-18	5-35	5-46	7-16	6-14
28	5-37	6-56	12-19	5-35	5-47	7-16	6-14
29	5-37	6-55	12-19	5-36	5-48	7-15	6-15
30	5-36	6-55	12-19	5-37	5-49	7-15	6-15
31	5-36	6-54	12-19	5-38	5-50	7-14	6-16

## ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ گرم پانی کے چند گھونٹ پینا مفید ہے۔ دن کے اوّلین حصہ میں ماش مفید ہے۔ گرم سبزیاں اور پودینا استعمال کریں۔

## امامیہ جنتری (رجسٹرڈ) کا خصوصی مرکز فروخت

صابری دارالکتب (نئی برانچ) انکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

فون: 042-37320770, 37320310

## تنبیہ برائے حاملہ خواتین

حاملہ خواتین کے لئے ان اوقات میں بہت احتیاطی ضرورت ہے۔ گرہن کے اوقات میں خواتین گھر کے اندر رہیں اور چھت لیلیں رہیں۔ اور پیٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ اور چاقو، چھری، قینچی بالکل استعمال نہ کریں۔ خصوصی نوٹ: تمام گرہن چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور نظر آئے یا نہ آئے اثرات رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات اہم نہیں کہ پاکستان میں نظر آئے گا یا نہیں بلکہ گرہن کو اوقات میں صدقہ اور نماز آیات کا ادا کرنا ضروری ہے۔

**صدقہ گرہن:** 2 کلو ٹو پچاس روپے اور ایک گلو باجرہ قبرستان میں ڈالیں۔

غلام رضا عسکری اعوان نواب شاہ 0333-7014915, 0333-2312323

امامیہ تقویم		اسخراج و کوائف ستارگان		اسلامی تقویم		عام تقویم	
امامیہ	شمسی	شمسی	مطابق اہل برصغیر	ہجری	ہجری	شمسی	شمسی
2011	2067	1932	قمر	قمر	قمر	2011	2067
روز	ماہ	دن	قمر فی المنازل	قمر فی البروج	قمر فی البروج	روز	ماہ
منگل	1	20	13	20.36	سعود	13	20
بدھ	2	21	14	21.53	اخیرہ	14	21
جمعرات	3	22	15	23.30	مقدم	15	22
جمعہ	4	23	16	23.30	زہر در جدی	16	23
ہفتہ	5	24	17	01.23	موز	17	24
اتوار	6	25	18	03.30	رشا	18	25
پنجشنبہ	7	26	19	03.45	شرطین	19	26
منگل	8	27	20	06.05	بطین	20	27
بدھ	9	28	21	09.20	ثریا	21	28
جمعرات	10	29	22	10.20	درمان	22	29
جمعہ	11	30	23	11.53	ہقہ	23	30
ہفتہ	12	31	24	12.51	ہنہ	24	31
اتوار	13	1	25	13.06	ذراعہ	25	1
پنجشنبہ	14	2	26	10.48	نثرہ	26	2
منگل	15	3	27	09.33	طرزہ	27	3
بدھ	16	4	28	07.35	چہرہ	28	4
جمعرات	17	5	29	05.00	زہرہ	29	5
جمعہ	18	6	30	01.55	مرنہ	30	6
ہفتہ	19	7	31	22.33	عوا	31	7
اتوار	20	8	2	19.03	ساک	2	8
پنجشنبہ	21	9	3	14.00	غفرہ	3	9
منگل	22	10	4	10.45	زبانہ	4	10
بدھ	23	11	5	07.52	اکلیل	5	11
جمعرات	24	12	6	05.30	قلب	6	12
جمعہ	25	13	7	03.45	شولہ	7	13
ہفتہ	26	14	8	02.38	نعام	8	14
اتوار	27	15	9	02.12	بلدہ	9	15
پنجشنبہ	28	16	10	00.31	ذائقہ	10	16
منگل	29	17	11	01.14	بلعہ	11	17

**نوٹ:** نیک و بد تارخوں کا تین ہجری ماہ کے مطابق ہوتا ہے اگر چاند کی وجہ سے کسی ہجری ماہ میں فرق آجائے تو چاند کے مطابق نیک و بد پر عمل کریں۔  
 قمری تاریخوں کی سعادت و خوش متبر روایات سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا انکی اہمیت اس درجہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ضروریات دینی و دنیاوی کو محض اس وجہ سے معطل کیا جائے۔ کام اہم ہو، تاریخ محض ہو تو اس کام کو صدقہ دیکر کر لیا جائے۔ قمری تقویم کے ایام محض ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی نیا کام، شادی، نکاح، یا کسی قسم کا معاہدہ ہرگز نہ کریں۔ (عائتہ علیٰ نبی جنتہ علی اللہ تعالیٰ)  
 ابتداء قمر در عقرب 22 فروری منگل 2 بجکر 28 منٹ دوپہر۔ اختتام 24 فروری جمعرات 5 بجکر 45 منٹ

تاریخی مجلس 25 صفر بوعقرب شہید تابوت امام حسن ۳۰ صفر بمقام عزادارانہ مسجد چوہان روڈ اسلام پورہ لاہور۔ منجانب: آغا مجاہد عباس زیدی

دوروزہ سالانہ 13، 12 ربیع الاول بمقام نورانی مسجد ذوالوفاء چوہدری انیس شاہ

مرکز بلاک 19، 17 ربیع الاول انجمن حیدر شاہ علی مراد خیر پور۔ صبح تا شام منتم: سید عقیل حیدر شاہ و برادران

## نقشہ اوقات قمر در عقرب بحساب یونانی

تاریخ	ابتدا	تاریخ	اختتام
26 جنوری	07.15 صبح	28 جنوری	11.56 دن
22 فروری	02.28 دوپہر	24 فروری	05.45 شام
22 مارچ	12.16 نصف شب	24 مارچ	01.45 بعد نصف شب
18 اپریل	11.18 دن	20 اپریل	11.39 دن
15 مئی	09.31 رات	17 مئی	10.22 رات
12 جون	05.33 صبح	14 مئی	07.38 صبح
9 جولائی	11.31 دن	11 جولائی	02.46 دوپہر
5 اگست	04.57 شام	7 اگست	08.21 رات
یکم ستمبر	11.48 رات	3 ستمبر	02.03 بعد نصف شب
29 ستمبر	09.05 صبح	یکم اکتوبر	09.41 صبح
26 اکتوبر	08.08 رات	28 اکتوبر	07.45 رات
23 نومبر	06.57 صبح	25 نومبر	06.57 صبح
20 دسمبر	03.32 شام	22 دسمبر	05.02 شام

**نوٹ:** قارئین سے گزارش ہے کہ قمر در عقرب کے اوقات میں معمولات کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ مثلاً سفر کا آغاز، نیا کاروبار، حقیقہ، منگنی، نکاح، شادی، ولیمہ، تعمیرات وغیرہ اور کسی قسم کا معاہدہ بھی ان ایام میں نہ کریں۔ قمر در عقرب شروع اور ختم ہونے والے پورے دن احتیاط کرنا بہتر ہے ان اوقات میں کسی معصوم کی ولادت یا اسلامی عید آجائے تو صدقہ دیکر کام شروع کیا جاسکتا ہے۔ معصومین کا فرمان ہے کہ صدقہ روڈ بلا ہے۔ (ادارہ)

## لوح حروف مقطعات قرآنی برائے حصول مال و دولت عزت، دفع، سحر و بندش وغیرہ

تیار کردہ پروفیسر علامہ حافظ تصدق حسین ماہر علوم روحانی  
مکان 33-F عقب جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور۔  
فون: 042-37159314، موبائل: 0321-4491346  
0312 5149110 0300 2603322  
رابطہ برائے انگلینڈ (U.K) 0044-7930956828  
حکیم علامہ مرتضیٰ مہدی ابن علامہ حافظ تصدق حسین (ماہر علم جعفر)

For Online shopping of Islamic Books  
Please visit [www.lbdtrade.com](http://www.lbdtrade.com)

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ	نماز فجر	ماہ فروری - لاہور					کراچی
		طلوع آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	
1	5-36	6-54	12-19	5-39	5-50	7-14	6-17
2	5-35	6-53	12-19	5-40	5-51	7-14	6-18
3	5-35	6-53	12-19	5-41	5-52	7-13	6-19
4	5-35	6-52	12-19	5-41	5-53	7-13	6-19
5	5-34	6-51	12-20	5-42	5-54	7-12	6-20
6	5-33	6-50	12-20	5-43	5-55	7-12	6-20
7	5-32	6-50	12-20	5-44	5-56	7-11	6-21
8	5-32	6-49	12-20	5-45	5-57	7-11	6-22
9	5-31	6-48	12-20	5-46	5-58	7-10	6-23
10	5-31	6-48	12-20	5-47	5-59	7-10	6-23
11	5-30	6-47	12-20	5-48	6-00	7-09	6-24
12	5-29	6-46	12-20	5-49	6-01	7-08	6-24
13	5-28	6-45	12-20	5-50	6-02	7-07	6-25
14	5-27	6-44	12-20	5-50	6-02	7-07	6-26
15	5-26	6-43	12-20	5-51	6-03	7-06	6-27
16	5-26	6-42	12-20	5-52	6-03	7-05	6-27
17	5-25	6-41	12-20	5-53	6-04	7-04	6-28
18	5-24	6-40	12-19	5-54	6-05	7-04	6-28
19	5-23	6-39	12-19	5-54	6-06	7-03	6-29
20	5-22	6-38	12-19	5-55	6-07	7-02	6-29
21	5-21	6-37	12-19	5-56	6-08	7-01	6-30
22	5-20	6-36	12-19	5-57	6-08	7-01	6-30
23	5-19	6-35	12-19	5-58	6-09	7-00	6-31
24	5-18	6-34	12-19	5-59	6-10	6-59	6-31
25	5-17	6-33	12-19	6-00	6-11	6-58	6-32
26	5-16	6-32	12-18	6-00	6-12	6-57	6-32
27	5-15	6-31	12-18	6-01	6-12	6-56	6-33
28	5-14	6-29	12-18	6-02	6-13	6-55	6-33
29	5-13	6-28	12-18	6-02	6-14	6-54	6-34

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام** ماہ فروری میں ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوزینہ، اورک اور بسن کا استعمال مفید ہے۔

- اللہ تعالیٰ کے نام:** اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نام خود بھی پڑھیں اور کسی بھی 11 موشین کو پڑھنے کے لئے دیں۔ انشاء اللہ آپ کی سب سے بڑی مشکل جلد حل ہو جائے گی۔
- 1 **یا اللہ (اے اللہ)** 2 **یا کورینم** (اے کرم کرنے والے)
  - 3 **یا اول** (جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا)
  - 4 **یا آخِر** (جس کی کوئی انتہا نہیں) 5 **یا مُجِيب** (دعاؤں کو قبول کرنے والا)
- اسے آزمائے۔ چاہے آپ یقین نہ بھی رکھتے ہوں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

ڈاکٹر سید سرور حسین رضوی کراچی۔ فون: 0345 2372669

دوروزہ قدری مجلس عزاء 2۸، ۲۷ صفر بمقام مرکزی امام بارگاہ قمر شاہ خراسان بے سادات کبر و ڈاکا۔ سانی سید محمد اعظمی رضوی

ربیع الاول کا پہلا جمعہ سالانہ مجلس عزاء بمقام مرکزی امام بارگاہ، بلاک 11 خانجوال جارو کش در بتول زوڑا اللہ تہ سال 0300 6889112





## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	غروب مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	5-13	6-27	12-18	6-03	6-14	6-54	6-34
2	5-11	6-26	12-18	6-04	6-14	6-54	6-34
3	5-10	6-25	12-18	6-05	6-15	6-53	6-35
4	5-09	6-24	12-18	6-05	6-16	6-52	6-35
5	5-08	6-22	12-17	6-06	6-17	6-51	6-36
6	5-07	6-21	12-17	6-07	6-17	6-50	6-36
7	5-05	6-20	12-17	6-08	6-18	6-49	6-37
8	5-04	6-19	12-17	6-08	6-19	6-48	6-37
9	5-03	6-18	12-16	6-09	6-20	6-47	6-38
10	5-02	6-16	12-16	6-10	6-20	6-46	6-38
11	5-01	6-15	12-16	6-11	6-21	6-45	6-39
12	5-00	6-14	12-16	6-11	6-22	6-44	6-39
13	4-58	6-13	12-15	6-12	6-23	6-43	6-40
14	4-56	6-12	12-15	6-13	6-23	6-42	6-40
15	4-56	6-10	12-15	6-13	6-24	6-41	6-41
16	4-55	6-09	12-15	6-14	6-25	6-40	6-41
17	4-53	6-07	12-14	6-15	6-25	6-39	6-42
18	4-52	6-06	12-14	6-16	6-26	6-38	6-42
19	4-50	6-05	12-13	6-16	6-27	6-37	6-43
20	4-49	6-03	12-13	6-17	6-28	6-36	6-43
21	4-48	6-02	12-13	6-18	6-28	6-35	6-44
22	4-47	6-01	12-13	6-18	6-28	6-34	6-44
23	4-45	6-00	12-12	6-19	6-29	6-33	6-45
24	4-43	5-59	12-12	6-19	6-30	6-32	6-45
25	4-42	5-58	12-12	6-20	6-31	6-31	6-46
26	4-41	5-56	12-12	6-20	6-31	6-30	6-46
27	4-40	5-55	12-11	6-21	6-32	6-29	6-46
28	4-38	5-54	12-10	6-22	6-33	6-27	6-46
29	4-37	5-53	12-10	6-22	6-33	6-26	6-47
30	4-36	5-51	12-10	6-23	6-34	6-25	6-47
31	4-34	5-50	12-10	6-24	6-35	6-24	6-48

## فلکی مراتب سیارگان (حالات قمر) 2011ء

شرف قمر			ادب قمر		
تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ	تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ
13 جنوری	12/33	13 جنوری	14/30	04 جنوری	04/58
09 فروری	20/23	09 فروری	22/23	20 فروری	14/00
09 مارچ	02/52	09 مارچ	04/54	20 مارچ	01/03
05 اپریل	08/46	05 اپریل	10/47	16 اپریل	11/58
02 مئی	14/58	02 مئی	16/58	13 مئی	20/56
29 مئی	22/01	30 مئی	00/01	10 جون	03/30
26 جون	05/52	26 جون	07/53	07 جولائی	08/53
23 جولائی	14/00	23 جولائی	16/01	03 اگست	15/04
19 اگست	21/38	19 اگست	23/40	30 اگست	23/25
16 ستمبر	04/30	16 ستمبر	06/30	27 ستمبر	09/50
13 اکتوبر	10/38	13 اکتوبر	12/40	24 اکتوبر	20/49
09 نومبر	16/48	09 نومبر	18/49	21 نومبر	06/16
06 دسمبر	23/37	07 دسمبر	01/39	18 دسمبر	13/06

ہبوط قمر			حقیض قمر		
تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ	تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ
26 جنوری	10/41	26 جنوری	12/24	10 جنوری	20/23
22 فروری	17/47	22 فروری	19/28	07 فروری	03/45
22 مارچ	03/29	22 مارچ	05/05	06 مارچ	10/13
18 اپریل	14/30	18 اپریل	16/04	02 اپریل	16/15
16 مئی	00/45	16 مئی	02/21	29 اپریل	22/33
12 جون	08/52	12 جون	10/33	27 مئی	15/36
09 جولائی	14/54	09 جولائی	16/37	23 جون	13/23
05 اگست	20/18	05 اگست	22/00	20 جولائی	21/25
02 ستمبر	03/04	02 ستمبر	04/43	17 اگست	05/01
29 ستمبر	12/16	29 ستمبر	13/52	13 ستمبر	11/49
26 اکتوبر	23/17	27 اکتوبر	00/52	10 اکتوبر	17/57
23 نومبر	10/09	23 نومبر	11/46	07 نومبر	00/02
20 دسمبر	18/52	20 دسمبر	20/33	04 دسمبر	06/51
				31 دسمبر	14/48

### عمل برائے حاجات

شب جمعہ میں بعد نماز عشاء 1200 مرتبہ پڑھے "یا اللہ، یا ربنا، یا سیدنا"

**ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام**  
اس ماہ میں چند پرند کا گوشت کم استعمال کریں۔ خشک میوہ جات، لہسن پیاز کا استعمال زیادہ کریں۔ سیر اور ورزش بہت مفید ہے۔

### استحان میں کامیابی کے لئے دعا

عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ تین سو مرتبہ "اَلْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ" پڑھ کر شروع و ختم ہونے کے ساتھ دعا مانگیں یہ عمل استحان کا نتیجہ آنے تک جاری رکھیں۔  
(از روحانی علاج خواجہ شمس الدین عظیمی)

سالانہ مجلس عزائم 12 ربیع الاول بھوانہ ضلع چیونٹ۔ سالانہ مجلس عزائم 26 محرم 7 بجے شام امام بارگاہ گاسے شاہ لاہور۔ اسلام آباد۔ 0333 5156364

عامیہ تقویم		اسٹارگان و عتبات مبارک			عمومی تقویم		
ایام	2011	شمسی	مطابق اہل بصرہ			یادداشت	
			نمبر	نمبر	نمبر		
30	اپریل	حجرت	فی البروج	فی الممتاز	ستارگان	۱۴۳۲ھ	
۱	۱	۱۹	۱۵.58	۱۵.58	۲۶	۲۶	
۲	۲	۲۰	۱۶/۱۵	۱۶.۱۵	۲۷	۲۷	
۳	۳	۲۱	۱۸.۳۲	۱۸.۳۲	۲۸	۲۸	
۴	۴	۲۲	۰۴/۴۵	۰۴/۴۵	۲۹	۲۹	
۵	۵	۲۳	۲۲.۴۶	۲۲.۴۶	۳۰	۳۰	
۶	۶	۲۴			۱	۱	
۷	۷	۲۵	۱۸/۲۱	۱۸/۲۱	۲	۲	
۸	۸	۲۶	۰۲/۰۸	۰۲/۰۸	۳	۳	
۹	۹	۲۷	۰۳/۱۶	۰۳/۱۶	۴	۴	
۱۰	۱۰	۲۸	۰۲/۰۱	۰۲/۰۱	۵	۵	
۱۱	۱۱	۲۹	۰۲/۰۶	۰۲/۰۶	۶	۶	
۱۲	۱۲	۳۰	۰۸/۳۷	۰۸/۳۷	۷	۷	
۱۳	۱۳	۳۱	۰۰/۱۷	۰۰/۱۷	۸	۸	
۱۴	۱۴	۱	۲۲/۲۲	۲۲/۲۲	۹	۹	
۱۵	۱۵	۲	۱۹/۵۲	۱۹/۵۲	۱۰	۱۰	
۱۶	۱۶	۳	۱۶/۵۳	۱۶/۵۳	۱۱	۱۱	
۱۷	۱۷	۴	۱۱/۵۸	۱۱/۵۸	۱۲	۱۲	
۱۸	۱۸	۵	۰۸/۲۹	۰۸/۲۹	۱۳	۱۳	
۱۹	۱۹	۶	۰۴/۵۹	۰۴/۵۹	۱۴	۱۴	
۲۰	۲۰	۷	۰۱/۳۸	۰۱/۳۸	۱۵	۱۵	
۲۱	۲۱	۸	۲۲/۳۹	۲۲/۳۹	۱۶	۱۶	
۲۲	۲۲	۹	۱۸/۱۸	۱۸/۱۸	۱۷	۱۷	
۲۳	۲۳	۱۰	۱۵/۲۴	۱۵/۲۴	۱۸	۱۸	
۲۴	۲۴	۱۱	۱۴/۵۹	۱۴/۵۹	۱۹	۱۹	
۲۵	۲۵	۱۲	۱۵/۲۰	۱۵/۲۰	۲۰	۲۰	
۲۶	۲۶	۱۳	۱۶/۲۳	۱۶/۲۳	۲۱	۲۱	
۲۷	۲۷	۱۴	۱۷/۵۹	۱۷/۵۹	۲۲	۲۲	
۲۸	۲۸	۱۵	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۳	۲۳	
۲۹	۲۹	۱۶	۲۲/۱۵	۲۲/۱۵	۲۴	۲۴	
۳۰	۳۰	۱۷	۲۲/۳۳	۲۲/۳۳	۲۵	۲۵	
جمعہ	۱	۱۹	۱۵.58	۱۵.58	۲۶	۲۶	نکاح و سفر کے لئے بد
ہفتہ	۲	۲۰	۱۶/۱۵	۱۶.۱۵	۲۷	۲۷	
اتوار	۳	۲۱	۱۸.۳۲	۱۸.۳۲	۲۸	۲۸	
پیر	۴	۲۲	۰۴/۴۵	۰۴/۴۵	۲۹	۲۹	نکاح کے لئے بد
منگل	۵	۲۳	۲۲.۴۶	۲۲.۴۶	۳۰	۳۰	
بدھ	۶	۲۴			۱	۱	
جمعرات	۷	۲۵	۱۸/۲۱	۱۸/۲۱	۲	۲	عرس رکن دین عالم ہستان
جمعہ	۸	۲۶	۰۲/۰۸	۰۲/۰۸	۳	۳	
ہفتہ	۹	۲۷	۰۳/۱۶	۰۳/۱۶	۴	۴	سفر کے لئے بد
اتوار	۱۰	۲۸	۰۲/۰۱	۰۲/۰۱	۵	۵	
پیر	۱۱	۲۹	۰۲/۰۶	۰۲/۰۶	۶	۶	
منگل	۱۲	۳۰	۰۸/۳۷	۰۸/۳۷	۷	۷	جنگ موتہ ۸ھ
بدھ	۱۳	۳۱	۰۰/۱۷	۰۰/۱۷	۸	۸	
جمعرات	۱۴	۱	۲۲/۲۲	۲۲/۲۲	۹	۹	
جمعہ	۱۵	۲	۱۹/۵۲	۱۹/۵۲	۱۰	۱۰	عرس صوفی بابا کوئٹہ
ہفتہ	۱۶	۳	۱۶/۵۳	۱۶/۵۳	۱۱	۱۱	
اتوار	۱۷	۴	۱۱/۵۸	۱۱/۵۸	۱۲	۱۲	
پیر	۱۸	۵	۰۸/۲۹	۰۸/۲۹	۱۳	۱۳	عرس پیر سواک کڑوڑ
منگل	۱۹	۶	۰۴/۵۹	۰۴/۵۹	۱۴	۱۴	عرس پیر یعقوب نامہرہ
بدھ	۲۰	۷	۰۱/۳۸	۰۱/۳۸	۱۵	۱۵	عرس طہور امام زین العابدین علیہ السلام ۳۸ھ
جمعرات	۲۱	۸	۲۲/۳۹	۲۲/۳۹	۱۶	۱۶	تعمیر مکان کے لئے نیک
جمعہ	۲۲	۹	۱۸/۱۸	۱۸/۱۸	۱۷	۱۷	وفات علامہ اقبال
ہفتہ	۲۳	۱۰	۱۵/۲۴	۱۵/۲۴	۱۸	۱۸	قرض لینے دینے کے لئے بد
اتوار	۲۴	۱۱	۱۴/۵۹	۱۴/۵۹	۱۹	۱۹	سفر کے لئے بد
پیر	۲۵	۱۲	۱۵/۲۰	۱۵/۲۰	۲۰	۲۰	جنگ جمل
منگل	۲۶	۱۳	۱۶/۲۳	۱۶/۲۳	۲۱	۲۱	تعمیر مکان کے لئے نیک
بدھ	۲۷	۱۴	۱۷/۵۹	۱۷/۵۹	۲۲	۲۲	
جمعرات	۲۸	۱۵	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	۲۳	۲۳	
جمعہ	۲۹	۱۶	۲۲/۱۵	۲۲/۱۵	۲۴	۲۴	
ہفتہ	۳۰	۱۷	۲۲/۳۳	۲۲/۳۳	۲۵	۲۵	عرس پیر عبدالقادر گیلانی جانی جنگ
		۱۸			۲۶	۲۶	نکاح و سفر کے لئے بد

سلاسل مجلس عزہ سالانہ ۲۱ اپریل ہرسال بمقام موضع کھٹا نوالی ضلع منڈی بہاؤ الدین۔ پنجاب جسٹس رضوی برادران

نوٹ: نیک و بد آثار جو کاتبین ہجری ماہ کے مطابق ہوتا ہے اگر چاند کی وجہ سے کسی ہجری ماہ میں فرق آجائے تو چاند کے مطابق نیک و بد پر عمل کریں۔  
ابتداءً در عقب 18 اپریل (پیر) 11 بجکر 18 منٹ دن اختتام 20 اپریل (بدھ) 11 بجکر 39 منٹ دن



## ترغ قمر

تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ	وقت اختتام
03/15	20 جنوری	00/28	18 جنوری
14/14	16 فروری	10/48	14 فروری
00/32	16 مارچ	19/29	13 مارچ
08/37	12 اپریل	02/01	10 اپریل
14/35	09 مئی	07/31	07 مئی
20/03	05 جون	13/36	03 جون
02/42	03 جولائی	21/12	30 جون
11/15	30 جولائی	06/11	28 جولائی
21/08	26 اگست	15/30	24 اگست
06/55	23 ستمبر	23/53	20 ستمبر
15/05	20 اکتوبر	06/37	18 اکتوبر
21/17	16 نومبر	12/18	14 نومبر
02/48	14 دسمبر	18/25	11 دسمبر

## فرح قمر

تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ	وقت اختتام
00/28	18 جنوری	18/22	15 جنوری
10/48	14 فروری	03/20	12 فروری
19/29	13 مارچ	10/31	11 مارچ
02/01	16 اپریل	16/21	07 اپریل
07/31	07 مئی	22/09	04 مئی
13/36	03 جون	04/56	01 جون
21/12	30 جون	12/55	28 جون
06/11	28 جولائی	21/34	25 جولائی
15/30	24 اگست	05/52	22 اگست
23/53	20 ستمبر	13/06	18 ستمبر
06/37	18 اکتوبر	19/14	15 اکتوبر
12/18	14 نومبر	01/09	12 نومبر
18/25	11 دسمبر	07/52	09 دسمبر

## طرح قمر

تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ	وقت اختتام
12/38	03 جنوری	06/20	01 جنوری
19/03	30 جنوری	11/54	28 جنوری
00/31	27 فروری	17/45	24 فروری
06/57	26 مارچ	01/45	24 مارچ
15/24	22 اپریل	11/49	20 اپریل
01/15	20 مئی	22/22	17 مئی
10/58	16 جون	07/38	14 جون
19/13	13 جولائی	14/46	11 جولائی
01/37	10 اگست	20/20	07 اگست
07/03	06 ستمبر	02/03	04 ستمبر
13/15	03 اکتوبر	09/41	01 اکتوبر
21/38	30 اکتوبر	19/45	28 اکتوبر
08/04	27 نومبر	06/57	25 نومبر
18/46	24 دسمبر	17/02	22 دسمبر

## دوبال قمر

تاریخ	وقت ابتداء	تاریخ	وقت اختتام
21/07	05 جنوری	12/38	03 جنوری
04/21	02 فروری	19/03	30 جنوری
10/14	01 مارچ	00/31	27 فروری
15/59	28 مارچ	06/57	26 مارچ
22/58	24 اپریل	15/24	22 اپریل
07/31	22 مئی	01/15	20 مئی
16/47	18 جون	10/58	16 جون
01/29	16 جولائی	19/13	13 جولائی
08/47	12 اگست	01/37	10 اگست
14/42	08 ستمبر	07/03	06 ستمبر
20/17	05 اکتوبر	13/15	03 اکتوبر
03/07	02 نومبر	21/38	30 اکتوبر
12/01	29 نومبر	08/04	27 نومبر
22/14	26 دسمبر	18/46	24 دسمبر

علم دل کی صداقت کو پرکھنے کے لئے ایک سوال کا جواب  
 علم دل کی روشنی میں بلا سعادۂ حاصل کریں۔ رابطہ:  
 ڈاکٹر سید مسرور حسین رضوی 0345 2372669  
 2011

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

کراچی		ہفت ماہ اپریل - لاہور					
تاریخ	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	4-33	5-49	12-09	6-25	6-35	6-23	6-49
2	4-31	5-47	12-09	6-25	6-36	6-22	6-49
3	4-30	5-46	12-08	6-26	6-37	6-21	6-49
4	4-28	5-45	12-08	6-27	6-37	6-20	6-49
5	4-27	5-43	12-08	6-27	6-38	6-19	6-50
6	4-25	5-42	12-08	6-28	6-38	6-18	6-50
7	4-24	5-41	12-08	6-29	6-39	6-17	6-51
8	4-23	5-40	12-07	6-29	6-40	6-16	6-51
9	4-22	5-39	12-07	6-30	6-41	6-15	6-52
10	4-20	5-37	12-07	6-30	6-42	6-14	6-52
11	4-19	5-36	12-07	6-31	6-42	6-13	6-53
12	4-18	5-35	12-06	6-32	6-43	6-13	6-53
13	4-16	5-34	12-06	6-32	6-43	6-12	6-54
14	4-14	5-33	12-06	6-33	6-44	6-11	6-54
15	4-13	5-32	12-06	6-34	6-45	6-10	6-55
16	4-12	5-31	12-05	6-35	6-45	6-09	6-55
17	4-10	5-29	12-05	6-35	6-46	6-08	6-55
18	4-09	5-28	12-05	6-36	6-47	6-07	6-55
19	4-08	5-27	12-05	6-37	6-47	6-06	6-56
20	4-06	5-26	12-04	6-37	6-48	6-05	6-56
21	4-05	5-25	12-04	6-38	6-46	6-04	6-57
22	4-03	5-24	12-04	6-39	6-50	6-04	6-57
23	4-02	5-23	12-04	6-39	6-50	6-03	6-58
24	4-01	5-21	12-03	6-40	6-51	6-02	6-58
25	4-00	5-20	12-03	6-41	6-51	6-01	6-59
26	4-00	5-20	12-03	6-42	6-52	6-00	6-59
27	3-59	5-19	12-03	6-42	6-53	5-59	7-00
28	3-57	5-18	12-03	6-43	6-53	5-59	7-00
29	3-55	5-17	12-03	6-44	6-54	5-58	7-01
30	3-55	5-16	12-03	6-45	6-55	5-57	7-01

## ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں زیادہ نمکین اشیاء، بڑا گوشت اور جینس کا دودھ استعمال نہ کریں۔  
 دن کے اول حصہ میں غسل مفید ہے۔

## امامہ جنتری رہنمائی کی فروخت کے مراکز

مشتاق بک کارنر	چاند کنبی ریلوے	سلطان بیوزا بھنگشی
اکبریم مارکیٹ اردو بازار لاہور	اردو بازار لاہور	اخبار مارکیٹ لاہور
فون: 37230350	فون: 37244114	فون: 37249813

8 محرم الحرام شہنشاہِ دو عالم و جلوسِ شام 6 بجے بمقام G-6، پاک PWD کالونی، وحدت روڈ اقبال ٹاؤن لاہور۔ سید ریاض اکبر زیدی 0322 4335744

سالانہ مجلس عزائم و شہادتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اللہ علیہما تعالیٰ الٰہی کا پہلا حصہ۔ مرکزی امام راگہ ڈھرت ختمیں چڑھیں شاہِ مطہر چکوال۔ سب درجہ: راجہ محمد افضل خان

0300-7481705 امامیہ تقریبی تاریخ مجلس عزاء شہید تاجوت حضرت بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی شب بمقام گلستان زہرا ایبٹ روڈ منجانب: عقلم حیدر مہدی 8430095 0321 2017

عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان			اسلامی تقویم	
ایام	عیسوی	قمر	قمر	سیارگان	ہجری	ذات و شماعت مصومین علیہم السلام
1933	2068	2011	1933	2068	2011	1933
سن	سن	سن	سن	سن	سن	سن
31	31	31	31	31	31	31
اتوار	1	12	19	1	۲۷	عقلم حیدر مہدی
پیر	2	13	20	2	۲۸	عقلم حیدر مہدی
منگل	3	14	21	3	۲۹	عقلم حیدر مہدی
بدھ	4	15	22	4	۳۰	عقلم حیدر مہدی
جمعرات	5	16	23	5	۱	عقلم حیدر مہدی
جمعہ	6	17	24	6	۲	عقلم حیدر مہدی
ہفتہ	7	18	25	7	۳	عقلم حیدر مہدی
اتوار	8	19	26	8	۴	عقلم حیدر مہدی
پیر	9	20	27	9	۵	عقلم حیدر مہدی
منگل	10	21	28	10	۶	عقلم حیدر مہدی
بدھ	11	22	29	11	۷	عقلم حیدر مہدی
جمعرات	12	23	30	12	۸	عقلم حیدر مہدی
جمعہ	13	24	31	13	۹	عقلم حیدر مہدی
ہفتہ	14	25		14	۱۰	عقلم حیدر مہدی
اتوار	15	26	2	15	۱۱	عقلم حیدر مہدی
پیر	16	27	3	16	۱۲	عقلم حیدر مہدی
منگل	17	28	4	17	۱۳	عقلم حیدر مہدی
بدھ	18	29	5	18	۱۴	عقلم حیدر مہدی
جمعرات	19	30	6	19	۱۵	عقلم حیدر مہدی
جمعہ	20	31	7	20	۱۶	عقلم حیدر مہدی
ہفتہ	21	8	8	21	۱۷	عقلم حیدر مہدی
اتوار	22	9	9	22	۱۸	عقلم حیدر مہدی
پیر	23	10	10	23	۱۹	عقلم حیدر مہدی
منگل	24	11	11	24	۲۰	عقلم حیدر مہدی
بدھ	25	12	12	25	۲۱	عقلم حیدر مہدی
جمعرات	26	13	13	26	۲۲	عقلم حیدر مہدی
جمعہ	27	14	14	27	۲۳	عقلم حیدر مہدی
ہفتہ	28	15	15	28	۲۴	عقلم حیدر مہدی
اتوار	29	16	16	29	۲۵	عقلم حیدر مہدی
پیر	30	17	17	30	۲۶	عقلم حیدر مہدی
منگل	31	18	18	31	۲۷	عقلم حیدر مہدی

ابتداء قمرہ عقرب 15 مئی (اتوار) رات 9 بجکر 31 منٹ اختتام 17 مئی (منگل) رات 10 بجکر 22 منٹ

## شرفات سیارگان 2011ء

(اوقات شرف و ہیبوط)

عطارد 2011ء

حالت	تاریخ	وقت ابتدا	تاریخ	وقت اختتام
ہبوط	01 مارچ	14.43	02 مارچ	03.18
فرح	12 مارچ	02.07	12 مارچ	15.20
حقیض	19 مئی	01.00	19 مئی	17.25
ترغ	05 جون	00.02	05 جون	11.37
شرف	17 ستمبر	11.27	18 ستمبر	00.27
طرح	28 ستمبر	07.07	28 ستمبر	20.22
ادج	16 اکتوبر	04.37	16 اکتوبر	19.59
وہاں	05 نومبر	21.53	05 نومبر	16.17

مش 2011ء

حالت	تاریخ	وقت ابتدا	تاریخ	وقت اختتام
حقیض	09 جنوری	20.00	10 جنوری	19.22
وہاں	08 فروری	08.25	09 فروری	07.48
شرف	08 اپریل	09.26	09 اپریل	09.50
طرح	10 جون	09.30	11 جون	10.54
ادج	11 جولائی	20.44	12 جولائی	21.28
ترغ	12 اگست	05.12	13 اگست	06.37
ہبوط	11 اکتوبر	21.04	12 اکتوبر	21.28
فرح	11 دسمبر	14.58	12 دسمبر	14.22

مرخ 2011ء

حالت	تاریخ	وقت ابتدا	تاریخ	وقت اختتام
شرف	12 جنوری	07.19	13 جنوری	14.05
حقیض	08 فروری	01.29	09 فروری	08.00
طرح	18 مارچ	01.45	19 مارچ	08.17
ترغ	25 اپریل	16.34	26 اپریل	23.58
وہاں	04 جون	17.52	06 جون	02.25
ہبوط	14 ستمبر	09.40	16 ستمبر	00.30
ادج	19 اکتوبر	21.30	21 اکتوبر	16.35
فرح	24 دسمبر	10.18	27 دسمبر	21.14

زحل 2011ء

حالت	تاریخ	وقت ابتدا	تاریخ	وقت اختتام
شرف	12 اکتوبر	14.58	20 اکتوبر	20.20

زہرہ 2011ء

حالت	تاریخ	وقت ابتدا	تاریخ	وقت اختتام
طرح	19 مارچ	23.30	20 مارچ	19.46
شرف	18 اپریل	01.47	18 اپریل	21.25
ادج	27 جون	01.08	27 جون	20.27
ترغ	02 جون	10.15	03 جون	05.36
ہبوط	02 اکتوبر	04.58	03 اکتوبر	00.22
فرح	14 اگست	20.22	15 اگست	16.02
ہبوط	12 ستمبر	02.13	12 ستمبر	21.31
وہاں	26 اکتوبر	08.00	27 اکتوبر	03.19
حقیض	19 نومبر	11.30	20 نومبر	06.50

مشتری 2011ء

حالت	تاریخ	وقت ابتدا	تاریخ	وقت اختتام
حقیض	28 جنوری	06.27	02 فروری	09.55

## قرض وصول ہونے کا عمل

علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں داؤد رتی کا نذر قرض فرمایا ہے۔ اس محترم صحابی نے عرض کیا کہ ایک شخص پر میرا قرض باقی ہے اور ڈر ہے کہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا جب مکہ جانا تو ایک طواف اور دو رکعت نماز حضرت عبدالملک کی نیابت سے اور اس طرح ایک ایک طواف اور نماز جناب آمنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرف سے پڑھ کر دے گا۔ داؤد کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ اسی دن وہ روپیہ مجھے حاصل ہو گیا۔ جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اس عمل کا اجر قرار دیکر دوسرے حاجیوں سے پڑھوا سکتے ہیں۔

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ	لاہور		کراچی	
	طلوع	غروب	طلوع	غروب
1	3-55	6-55	5-56	7-02
2	3-53	6-56	5-56	7-02
3	3-50	6-57	5-55	7-03
4	3-49	6-47	5-54	7-03
5	3-48	6-48	5-53	7-04
6	3-46	6-49	5-53	7-04
7	3-45	6-50	5-52	7-05
8	3-44	6-50	5-52	7-05
9	3-43	6-51	5-51	7-06
10	3-42	6-51	5-51	7-06
11	3-41	6-52	5-50	7-07
12	3-40	6-52	5-50	7-07
13	3-39	6-53	5-49	7-08
14	3-38	6-54	5-49	7-08
15	3-37	6-54	5-48	7-09
16	3-36	6-55	5-48	7-09
17	3-35	6-56	5-47	7-10
18	3-34	6-57	5-47	7-10
19	3-33	6-57	5-46	7-11
20	3-32	6-58	5-46	7-11
21	3-32	6-59	5-45	7-12
22	3-31	6-59	5-45	7-12
23	3-30	6-59	5-44	7-13
24	3-29	6-59	5-44	7-13
25	3-29	6-59	5-44	7-14
26	3-28	6-59	5-44	7-14
27	3-27	6-59	5-43	7-15
28	3-26	6-59	5-43	7-15
29	3-26	6-59	5-43	7-16
30	3-25	6-59	5-43	7-16
31	3-25	6-59	5-42	7-17

## ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

ماہ مئی میں غذا میں سرکہ کا استعمال کریں۔ تیل کی ماش اور عطر سوگھنا مفید ہے۔ ورزش سے احتراز کریں۔

## ماہنامہ روحانی فیض

علم الاعداد، نجوم، جفر، قیافہ، استعارہ اور الواج شرف سیارگان کے لئے۔  
آغا حسنین عامل، آغا ہاؤس، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور

0300 6802983, 062 2275713





عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان			اسلامی تقویم	
ایام	عیسوی	ہجری	سیارگان	قمر	قمر	قمر
31 جولائی	2011	۱۴۳۲	فی البروج	فی المنازل	فی البروج	فی البروج
جمعہ	17 11	۲۸		طریقہ 20.42		۱۱ ۱۷ 1
ہفتہ	18 12	۲۹	10/37 عطارد در اسد	جبہ 19.42		12 18 2
اتوار	19 13	شعبان		زہرہ 18.19	اسد 02/42	13 19 3
پیر	20 14	۲	09/16 زہرہ در سرطان	صرفہ 16.38		14 20 4
منگل	21 15	۳		عوا 14.43	سنبلہ 06/15	15 21 5
بدھ	22 16	۴		سہاک 12.41		16 22 6
جمعرات	23 17	۵		غفرہ 08.53	میزان 08/53	17 23 7
جمعہ	24 18	۶		زبانہ 06.47		18 24 8
ہفتہ	25 19	۷		اکلیل 04.45	عقرب 11/31	19 25 9
اتوار	26 20	۸		قلب 02.48		20 26 10
پیر	27 21	۹		انعام شولہ 01.01	قوس 14/46	21 27 11
منگل	28 22	۱۰		بلدہ 22.04		22 28 12
بدھ	29 23	۱۱		ذائخ 19.13	جدی 19/13	23 29 13
جمعرات	30 24	۱۲		بلدہ 18.28		24 30 14
جمعہ	31 25	۱۳		سعود 18.08		25 31 15
ہفتہ	1 26	۱۴		اضیہ 18.14	دلو 01/30	26 1 16
اتوار	2 27	۱۵		مقدم 18.49		27 2 17
پیر	3 28	۱۶		موخر 19.55	حوت 10/12	28 3 18
منگل	4 29	۱۷		رشا 21.29		29 4 19
بدھ	5 30	۱۸		شرطین 21.25	حمل 21/25	30 5 20
جمعرات	6 31	۱۹		بطین 23.36		31 6 21
جمعہ	7 32	۲۰				32 7 22
ہفتہ	8 33	۲۱	09/11 عطارد در اسد	شیا 01.53	ثور 09/58	33 8 23
اتوار	9 34	۲۲		دبران 04.03		34 9 24
پیر	10 35	۲۳		ہقوعہ 05.54	جوزا 21/34	35 10 25
منگل	11 36	۲۴		ہنوعہ 07.15		36 11 26
بدھ	12 37	۲۵		ذراعہ 07.58		37 12 27
جمعرات	13 38	۲۶	22/58 عطارد در سنبلہ	نثرہ 06.11	سرطان 06/11	38 13 28
جمعہ	14 39	۲۷		طرزہ 05.35		39 14 29
ہفتہ	15 40	۲۸		جبہ 04.22	اسد 11/15	40 15 30
اتوار	16 41	۲۹		زہرہ 02.36		41 16 31

ابتداء قمر در عقرب 9 جولائی (ہفتہ) 11 بجکر 31 منٹ دن، اختتام قمر در عقرب 11 جولائی (پیر) دوپہر 2 بجکر 46 منٹ

✦ جشن ولادت امام زمانہ ۱۳ شعبان بوقت شب بمقام دریائے راوی لاہور منتظم سید جاوید ریوی۔ کاروان امام رضاؑ موہانکل: 0321-4502614

جشن امام زمانہؑ شہد شعبان بعد نماز مغرب بمقام ۸۹ بلال سٹریٹ سید پارک ابدالی چوک سنت گراہور منجاب: سید زوار حسین چغتوی و پسران 042-37154026

11:10 آنکھوں کی حالت دیکھ کر...  
5 شعبان جشن ولادت حضرت امیر المومنین...  
(ان کی توجیہ و تفسیر)

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

کراچی		ماہ جولائی - لاہور						
تاریخ	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	
1	3-26	4-59	12-09	7-14	7-25	5-46	7-26	
2	3-26	4-59	12-09	7-14	7-25	5-46	7-26	
3	3-27	5-00	12-10	7-14	7-25	5-46	7-26	
4	3-27	5-00	12-10	7-14	7-25	5-46	7-26	
5	3-28	5-01	12-10	7-14	7-25	5-47	7-26	
6	3-28	5-01	12-10	7-14	7-25	5-47	7-26	
7	3-29	5-02	12-10	7-13	7-24	5-48	7-25	
8	3-30	5-02	12-10	7-13	7-24	5-48	7-25	
9	3-31	5-03	12-11	7-13	7-24	5-49	7-25	
10	3-31	5-03	12-11	7-12	7-23	5-49	7-25	
11	3-32	5-04	12-11	7-12	7-23	5-49	7-25	
12	3-32	5-05	12-11	7-12	7-23	5-49	7-25	
13	3-33	5-05	12-11	7-11	7-23	5-50	7-25	
14	3-34	5-06	12-11	7-11	7-22	5-50	7-25	
15	3-35	5-06	12-11	7-11	7-22	5-51	7-24	
16	3-36	5-07	12-11	7-10	7-21	5-51	7-24	
17	3-37	5-07	12-12	7-10	7-21	5-52	7-24	
18	3-37	5-08	12-12	7-10	7-20	5-52	7-24	
19	3-38	5-09	12-12	7-09	7-20	5-53	7-23	
20	3-39	5-09	12-12	7-09	7-19	5-53	7-23	
21	3-40	5-10	12-12	7-08	7-19	5-54	7-22	
22	3-41	5-11	12-12	7-08	7-18	5-54	7-22	
23	3-42	5-11	12-12	7-07	7-18	5-55	7-21	
24	3-43	5-11	12-12	7-06	7-17	5-55	7-21	
25	3-44	5-12	12-12	7-06	7-17	5-56	7-21	
26	3-44	5-13	12-12	7-05	7-16	5-56	7-21	
27	3-45	5-13	12-12	7-04	7-16	5-57	7-20	
28	3-46	5-14	12-12	7-03	7-15	5-57	7-20	
29	3-47	5-15	12-12	7-03	7-15	5-58	7-19	
30	3-48	5-15	12-12	7-02	7-14	5-58	7-18	
31	3-49	5-16	12-12	7-01	7-13	5-59	7-17	

## ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

نہار منہ تھوڑا تھوڑا کر کے شہنشاہ پانی پینا، لطیف اور زود ہضم غذائیں کھانا اور پھولوں کا سونگھنا مفید ہے۔

## عطارد

تاریخ	منزل	وقت
19.09.11	سہاک	15:00
29.09.11	غفرہ	02:08
03.10.11	زبانہ	09:36
11.10.11	اکلیل	04:07
19.10.11	قلب	10:21
28.10.11	شولہ	04:45
06.11.11	نعام	16:25
18.11.11	بلدہ	22:32

## مشتری

تاریخ	منزل	وقت
06.06.10	شرطین	11:28
23.03.11	بطین	12:08
17.05.11	ثریا	06:07
01.08.11	دبران	14:11

## زحل

تاریخ	منزل	وقت
20.10.09	غفرہ	22:12
15.11.10	زبانہ	01:50

## عطارد

تاریخ	منزل	وقت
18.12.10	ذابح	19:54
23.01.11	بلدہ	15:45
01.02.11	سعود	12:51
09.02.11	اضیہ	19:19
17.02.11	مقدم	13:16
24.02.11	موخر	19:41
03.03.11	رشا	16:54
09.03.11	شرطین	22:47
17.03.11	بطین	08:36
13.05.11	ثریا	00:56
22.05.11	دبران	08:23
29.05.11	ہقہ	21:50
05.06.11	ہقہ	11:41
11.06.11	ذراعہ	12:45
17.06.11	نثرہ	00:09
23.06.11	طرفہ	05:18
30.06.11	جبہ	02:59
08.07.11	زہرہ	03:51
18.07.11	صرفہ	10:29
12.09.11	عوا	11:56

## مرخ

تاریخ	منزل	وقت
08.12.10	ذابح	04:49
25.12.10	بلدہ	05:53
11.01.11	سعود	00:43
27.01.11	اضیہ	15:12
13.02.11	مقدم	03:00
01.03.11	موخر	14:02
18.03.11	رشا	02:00
02.04.11	شرطین	09:52
19.04.11	بطین	04:30
06.05.11	ثریا	04:58
23.05.11	دبران	12:52
10.06.11	ہقہ	05:30
28.06.11	ہقہ	08:21
16.07.11	ذراعہ	22:46
03.08.11	نثرہ	14:22
23.08.11	طرفہ	07:50
12.09.11	جبہ	19:16
04.10.11	زہرہ	06:08
27.10.11	صرفہ	03:31
21.11.11	عوا	15:03
24.12.11	سہاک	10:58

## آفتاب جفر

حصہ اول و دوم = 120/-  
فیوض جفر (شعبہ آثار)  
مولفہ: انیم قلام عباس اعوان - 60/-

## زائچہ بتدبیر

حضرت دانیال بتدبیر کی  
مفاتیح الغیب کا اردو ترجمہ  
120/-

ملنے کا پتہ: افتخار بک ڈپو مین بازار اسلام پورہ لاہور

## تعمیرات نماز پاکت

مع حدیث کساء، دعا سے توسل اور دیگر دعائیں و زیارات  
آرٹ خیر - 80/-

## تعمیرات نماز بچکانہ

مولفہ آغا شراحمر رحم (بانی ادارہ)  
مغربی دعاؤں کا مجموعہ  
سفیہ جلد - 80/-  
عام - 50/-

ملنے کا پتہ: افتخار بک ڈپو مین بازار اسلام پورہ لاہور



ماہ رمضان کا (۱۰) روزہ کر سہو  
 (۱۰) روزہ کر سہو  
 صورت یا روزہ چھوڑ سکیں

## امامیہ تقویم ماہ اگست 2011 عیسوی شعبان المعظم/رمضان المبارک ۱۴۳۲ ہجری

ایام	عمومی تقویم			استخراج و کوائف سیارگان			اسلامی تقویم	
	2011	2068	1933	قمر	قمر	سیارگان	نیک	بد
31	اگست	سائون	اگست	فی البروج	فی المنازل	فی البروج	شعبان	شعبان
پیر	1	17	10	سنبلہ 13/41	حرفہ 00.25 عوا 21.57		۳۰	نکاح کے لئے بد
منگل	2	18	11		ساہک 19.20		رمضان	صحیفہ ابراہیم نازل ہوا
بدھ	3	19	12	میزان 15/04	غفرہ 15.04	مرخ در سرطان 14/21	۲	امام رضا کی ولی عہدی کا آغاز
جمعرات	4	20	13		زبانہ 12.33		۳	شمس اکبر
جمعہ	5	21	14	عقرب 16/57	اکلیل 10.13		۴	سفر کے لئے بد
ہفتہ	6	22	15		قلب 08.11		۵	شمس
اتوار	7	23	16	قوس 20/21	شولہ 20.21		۶	نزل تواریت
پیر	8	24	17		نعام 05.05	عطارد در اسد 14/46	۷	ولادت حضرت مریمؑ
منگل	9	25	18		بلدہ 04.05		۸	سفر کے لئے بد
بدھ	10	26	19	جدی 01/37	ذاج 01.37		۹	نیک
جمعرات	11	27	20		بلعہ 01.18		۱۰	رحلت بی بی خدیجہ الکبریٰؑ
جمعہ	12	28	21	دلو 08/47	سعود 01.19		۱۱	نیک
ہفتہ	13	29	22		انضیہ 01.43		۱۲	نزل انجیل - روز مواخات
اتوار	14	30	23	حوت 17/54	مقدم 02.28		۱۳	پوم آزادی پاکستان
پیر	15	31	24		موخر 03.37		۱۴	نیک
منگل	16	32	25		رشا 05.08		۱۵	جشن ظہور امام حسنؑ ۳
بدھ	17	33	26	حمل 05/01	شرطین 05.01		۱۶	تعمیر مکان کے لئے نیک
جمعرات	18	2	27		بطین 07.10		۱۷	قرض لینے دینے کو بد
جمعہ	19	3	28	ثور 17/36	ثریا 09.29		۱۸	نزل زیور - شب قدر
ہفتہ	20	4	29		دبران 11.49		۱۹	ضریت بر سر اقدس مولا علیؑ
اتوار	21	5	30		ہققہ 13.58		۲۰	شب قدر
پیر	22	6	31	جوزا 05/53	بندہ 15.44	زہر در سنبلہ 03/10	۲۱	شہادت مولا علیؑ در مسجد کوفہ ۳
منگل	23	7	23		ذراعہ 16.54	شمس در سنبلہ 16/20	۲۲	شب قدر (دن گزرنے کے بعد)
بدھ	24	8	2	سرطان 15/30	نثرہ 15.30		۲۳	نزل قرآن پاک
جمعرات	25	9	3		طرف 15.15		۲۴	وقات قائمہ عظیم
جمعہ	26	10	4	اسد 21/08	جبہ 14.13		۲۵	تجدد الوداع (یوم القدس)
ہفتہ	27	11	5		زہرہ 12.29		۲۶	نکاح و سفر کے لئے بد
اتوار	28	12	6	سنبلہ 23/13	صرفہ 10.08		۲۷	شب قدر (بمطابق السنہ)
پیر	29	13	7		عوا 07.19		۲۸	نکاح کے لئے بد
منگل	30	14	8	میزان 23/25	نیک 04.14 غفرہ 23.25		۲۹	نکاح کے لئے بد
بدھ	31	15	9		زبانہ 20.14		شوال	عید الفطر

ابتداء قمر در عقرب 5 اگست (جمعہ) شام 4 بجے 57 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 7 اگست (اتوار) رات 8 بجے 21 منٹ

مولود کے کامات 19 رمضان المبارک 10 بچے دن کو بھی میاں اعجاز حسین بھی سا نیک دل صلح نہ کنا نہ صاحب۔ واجد علی گریڈی 0300-7969155

خصوصی محفل سیدہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کے شعبان بمقام قمر بول بوت 1 بجے دن ہر روز ہلاک اقبال ٹاؤن لاہور۔ تنظیمین خاک پائے در کثیران سیدہ فون: 7831814-7845930

تاریخی سالانہ 12 روزہ 5 اگست 2011ء بمقام جامع مسجد قاسمیہ متصل امام بارگاہ ایوان حسین الیہ بلاک اکاڈمی ڈاکٹر امجد گامی



## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ	ماہ اگست - لاہور						کراچی
	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	
1	3-50	5-17	12-12	7-00	7-12	5-59	7-17
2	3-51	5-17	12-12	7-00	7-12	5-59	7-17
3	3-52	5-18	12-12	6-59	7-11	6-00	7-16
4	3-53	5-19	12-12	6-58	7-10	6-00	7-15
5	3-54	5-20	12-11	6-58	7-09	6-01	7-14
6	3-55	5-20	12-11	6-57	7-08	6-01	7-14
7	3-56	5-21	12-11	6-56	7-07	6-02	7-13
8	3-56	5-21	12-11	6-55	7-07	6-02	7-13
9	3-57	5-22	12-11	6-54	7-06	6-03	7-12
10	3-58	5-22	12-11	6-52	7-05	6-03	7-11
11	3-59	5-23	12-11	6-51	7-04	6-04	7-10
12	4-00	5-24	12-10	6-50	7-03	6-04	7-09
13	4-01	5-25	12-10	6-50	7-02	6-05	7-09
14	4-02	5-25	12-10	6-49	7-01	6-05	7-08
15	4-03	5-26	12-10	6-48	7-00	6-05	7-07
16	4-04	5-27	12-10	6-47	6-59	6-05	7-06
17	4-05	5-27	12-10	6-46	6-58	6-06	7-05
18	4-06	5-28	12-10	6-45	6-57	6-06	7-05
19	4-07	5-28	12-09	6-44	6-55	6-07	7-04
20	4-07	5-29	12-09	6-43	6-54	6-07	7-03
21	4-08	5-29	12-09	6-41	6-54	6-08	7-02
22	4-09	5-30	12-09	6-40	6-52	6-08	7-01
23	4-10	5-31	12-08	6-39	6-51	6-09	7-00
24	4-11	5-31	12-08	6-38	6-50	6-09	6-59
25	4-12	5-32	12-08	6-36	6-49	6-10	6-58
26	4-12	5-33	12-08	6-35	6-48	6-10	6-57
27	4-13	5-34	12-07	6-34	6-46	6-10	6-56
28	4-14	5-34	12-07	6-33	6-45	6-10	6-55
29	4-15	5-35	12-06	6-31	6-44	6-11	6-54
30	4-16	5-35	12-06	6-30	6-43	6-11	6-53
31	4-17	5-36	12-06	6-29	6-41	6-12	6-52

## ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں جلّاب لینا مفید ہے۔ کثرت سے گوشت یا حلوہ کھانا، بلا عذر غسل کرنا صحت کیلئے مضر ہے۔

<b>مفاتح الجنان</b> حرم، علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی پہلی ماہیہ اشرف لاہور پہلی کاغذ جلد - 400/- پہلی کاغذ جلد - 165/-	<b>تعمیر نماز جعفریہ جدید</b> مع اعمال اور وظائف مولف: مولانا سید زار حسین ہمدانی ناشران پہلی کاغذ جلد - 165/-
--	---

ملنے کا پتہ: افتخار بک ڈپو مین بازار اسلام پورہ لاہور

## اوقات سحر و افطار رمضان المبارک 2011

مصدقہ عالیہ مولانا نوید اصغر نجفی خطیب و پیش نماز جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور

2011 رمضان المبارک	لاہور		کراچی	
	سحر	افطار	سحر	افطار
1	3-41	7-12	4-23	7-29
2	3-42	7-11	4-24	7-29
3	3-43	7-10	4-24	7-28
4	3-44	7-10	4-25	7-27
5	3-44	7-09	4-25	7-27
6	3-45	7-08	4-26	7-26
7	3-45	7-07	4-26	7-26
8	3-46	7-06	4-27	7-25
9	3-46	7-04	4-27	7-24
10	3-47	7-03	4-28	7-23
11	3-48	7-03	4-28	7-22
12	3-49	7-02	4-29	7-22
13	3-49	7-01	4-29	7-21
14	3-50	7-00	4-29	7-20
15	3-51	6-59	4-29	7-19
16	3-51	6-58	4-30	7-18
17	3-52	6-57	4-30	7-18
18	3-52	6-56	4-31	7-17
19	3-53	6-55	4-31	7-16
20	3-53	6-53	4-32	7-15
21	3-54	6-52	4-32	7-14
22	3-55	6-51	4-33	7-13
23	3-55	6-50	4-33	7-12
24	3-56	6-48	4-34	7-11
25	3-56	6-47	4-34	7-10
26	3-58	6-46	4-34	7-09
27	3-58	6-45	4-34	7-08
28	3-59	6-43	4-35	7-07
29	3-59	6-42	4-35	7-06

نوٹ: فقہ حنفی کے مطابق افطار کا وقت 10 منٹ قبل اور اختتام سحر 10 منٹ بعد ہے۔

دوسرے شہروں والے اپنے اپنے اوقات کے مطابق اوقات میں کمی بیشی کر لیں

**نیت روزہ:** روزہ رکھنا رکھتی ہوں۔  
 ماہ رمضان کا واجب "قُوْبَةُ اِلَى اللّٰهِ"  
 اگر کوئی شخص چاہے تو پورے مہینے کی نیت ایک مرتبہ بھی کر سکتا ہے اور ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ بھی۔ ماہ رمضان المبارک میں سحری کھانا سنت ہے۔

## مختصر فضائل رمضان المبارک

تلاوت قرآن پاک کا اس ماہ میں بہت ثواب ہے سحری کھانا سنت ہے بھجور نیم گرم پانی، نمکین پانی سے روزہ افطار کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ منقول ہے کہ جو سورہ ایتا ازنا سحر و افطار کے وقت پڑھے۔ اگر ان اوقات میں مزے لے تو شہید راہ خدا کا ثواب ملتا ہے۔

## مہنگلات روزہ

کھانا پینا، جماع کرنا، غبار غلیظ کا حلق میں جانا، پورے سر کا غوطہ دینا، جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کی اذان تک رہنا۔

## روزہ کا کفارہ

دو مہینوں کے پے در پے روزے رکھنا، 60 مہینوں کو کھانا کھلانا۔

## احکام نطرہ:

مقدار نطرہ 3 کلو ہے۔ تمام ان افراد کی طرف سے ہے جن کے کھانے پینے کے مصارف اس کے ذمہ ہیں۔ یہاں تک کہ چاند نکلنے سے قبل کوئی مہمان آجائے یا عید گاہ جانے سے قبل کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جاسکتا ہے لیکن غیر سید کا سید کو نہیں۔ فطرہ ضروری ہے کہ زوال سے قبل ادا کرے۔ مکمل اعمال تہذیب العوام مقبول جدید میں دیکھیں۔

**دعائے افطار:** از حضرت امام موسیٰ کاظم

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَيَّ رِزْقُكَ اَفْطَرْتُ وَ عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْتُ  
 اے اللہ! تیرے ہی لئے میں نے روزہ رکھا۔ اور تیری عطا کردہ روزی سے افطار کیا اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔

ماہ شوال کا کون سا دن کرورہ  
 ۲۰۱۱ء کا پالی میل کی  
 صورت پانچ روزہ کیس

رمضان المبارک / شوال المکرم ۱۴۳۲ ہجری

امامیہ تقویم ماہ ستمبر 2011 عیسوی

ایام	عمومی تقویم		استخراج و کوائف سیارگان			اسلامی تقویم	
	2011	2068	شمسی	قمر	قمر	نیک	ہجری
30	ستمبر	بھادوں	1933	2068	2011	نیک	۱۴۳۲
جمرات	1	16	10	16	1	نیک	۱
جمعہ	2	17	11	17	2	نیک	۲
ہفتہ	3	18	12	18	3	نیک	۳
اتوار	4	19	13	19	4	نیک	۴
پیر	5	20	14	20	5	نیک	۵
منگل	6	21	15	21	6	نیک	۶
بدھ	7	22	16	22	7	نیک	۷
جمرات	8	23	17	23	8	نیک	۸
جمعہ	9	24	18	24	9	نیک	۹
ہفتہ	10	25	19	25	10	نیک	۱۰
اتوار	11	26	20	26	11	نیک	۱۱
پیر	12	27	21	27	12	نیک	۱۲
منگل	13	28	22	28	13	نیک	۱۳
بدھ	14	29	23	29	14	نیک	۱۴
جمرات	15	30	24	30	15	نیک	۱۵
جمعہ	16	31	25	31	16	نیک	۱۶
ہفتہ	17	1	26	1	17	نیک	۱۷
اتوار	18	2	27	2	18	نیک	۱۸
پیر	19	3	28	3	19	نیک	۱۹
منگل	20	4	29	4	20	نیک	۲۰
بدھ	21	5	30	5	21	نیک	۲۱
جمرات	22	6	31	6	22	نیک	۲۲
جمعہ	23	7	1	7	23	نیک	۲۳
ہفتہ	24	8	2	8	24	نیک	۲۴
اتوار	25	9	3	9	25	نیک	۲۵
پیر	26	10	4	10	26	نیک	۲۶
منگل	27	11	5	11	27	نیک	۲۷
بدھ	28	12	6	12	28	نیک	۲۸
جمرات	29	13	7	13	29	نیک	۲۹
جمعہ	30	14	8	14	30	نیک	۳۰

ابتداء قمر در عقرب یکم ستمبر (جمرات) 11 بجکر 48 منہ رات۔ اختتام قمر در عقرب 3 ستمبر بعد نصف شب 2 بجکر 3 منٹ

تایوت حضرت علی ۲۱ رمضان المبارک انجمن حسینی شیریاں سے برآمد ہو کر الفری اسلامک سنٹر تک گنگا انتظام پذیر ہوگا۔ سید رفیع رضوی، زوار بہمانی مرحوم

12 اکتوبر سالانہ میلہ حضرت سائیں سید چراغ پاک ہاتھی وان سلطان میرک شریف تحصیل شوکوٹ ضلع جنگ  
 تاریخی سالانہ مجلس عزائم 28 رجب المرجب۔ امام بارگاہ سادات ڈھڈیاں ضلع چکوال۔ بانی سید قادر شاہ بہمانی

شعبہ عربیہ اسلامیہ، جامعہ اسلامیہ، لاہور۔ ۱۹۸۲ء سے جاری ہے۔

## نماز آیات

چاند سورج گرہن، زلزلہ سرخ سیاہ آندھی اور دیگر حوادث آسانی کے وقت پڑھنے کی نماز

**طریقہ:** پہلے نیت کرے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں (دور رکعت) واجب قرینۃ الی اللہ۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے اور سورہ الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کرے۔ پھر کھڑا ہو اور مثل سابق الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کرے۔ اسی طرح پانچ رکوع کرنے کے بعد دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت بھی بجالائے۔ اور ہر دوسرے رکوع سے قبل قنوت پڑھے اور تشہد و سلام پڑھ کر نماز ختم کرے۔ اس طرح اس نماز کی پہلی رکعت میں ۵ رکوع اور ۲ قنوت (دوسرے اور چوتھے رکوع سے قبل) اور دوسری رکعت میں ۵ رکوع اور ۳ قنوت (پہلے، تیسرے اور پانچویں رکوع سے قبل) ہو جائیں گے۔ اس نماز میں کل ۱۰ رکوع اور ۵ قنوت ہوتے ہیں۔ پانچویں اور دسویں رکوع کے بعد (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) کہے۔ ہر رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے لیکن پانچویں اور دسویں رکوع کے بعد نہیں۔ الحمد اور سورہ کا باوازا بلند پڑھنا مستحب ہے۔

## استقامت و رجعت سیارگان 2011

رجعت	11.08	26 جنوری	زحل
رجعت	05.49	12 مارچ	یورانس
رجعت	02.00	31 مارچ	عطارد
رجعت	13.51	9 اپریل	پلوٹو
رجعت	15.30	23 اپریل	عطارد
رجعت	12.26	3 جون	نیپچون
رجعت	08.52	13 جون	زحل
رجعت	09.00	3 اگست	عطارد
رجعت	03.05	27 اگست	عطارد
رجعت	14.16	30 اگست	مشتری
رجعت	23.24	16 ستمبر	پلوٹو
رجعت	23.54	9 نومبر	نیپچون
رجعت	12.18	24 نومبر	عطارد
رجعت	12.04	10 دسمبر	یورانس
رجعت	06.43	14 دسمبر	عطارد
رجعت	03.07	26 دسمبر	مشتری

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

کراچی		لاہور - کراچی					
تاریخ	نماز فجر	نماز آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	4-17	5-36	6-12	6-28	6-40	6-51	6-51
2	4-18	5-37	6-12	6-27	6-39	6-50	6-50
3	4-19	5-38	6-13	6-25	6-38	6-49	6-49
4	4-19	5-38	6-13	6-24	6-36	6-48	6-48
5	4-20	5-39	6-14	6-23	6-35	6-47	6-47
6	4-20	5-39	6-14	6-22	6-34	6-46	6-46
7	4-22	5-40	6-14	6-21	6-33	6-45	6-45
8	4-23	5-40	6-14	6-19	6-32	6-44	6-44
9	4-24	5-41	6-15	6-18	6-30	6-43	6-43
10	4-24	5-42	6-15	6-16	6-28	6-42	6-42
11	4-25	5-42	6-16	6-15	6-27	6-41	6-41
12	4-26	5-43	6-16	6-14	6-26	6-40	6-40
13	4-26	5-44	6-17	6-12	6-25	6-39	6-39
14	4-27	5-44	6-17	6-11	6-23	6-38	6-38
15	4-28	5-45	6-17	6-10	6-22	6-37	6-37
16	4-28	5-45	6-17	6-09	6-21	6-35	6-35
17	4-29	5-46	6-18	6-08	6-20	6-34	6-34
18	4-30	5-47	6-18	6-06	6-19	6-33	6-33
19	4-31	5-47	6-19	6-05	6-17	6-32	6-32
20	4-31	5-48	6-19	6-04	6-16	6-31	6-31
21	4-32	5-48	6-19	6-02	6-14	6-30	6-30
22	4-33	5-48	6-19	6-01	6-13	6-29	6-29
23	4-33	5-49	6-20	6-00	6-12	6-28	6-28
24	4-34	5-50	6-20	5-58	6-11	6-27	6-27
25	4-35	5-50	6-21	5-57	6-09	6-26	6-26
26	4-35	5-51	6-21	5-56	6-08	6-25	6-25
27	4-36	5-52	6-22	5-55	6-07	6-24	6-24
28	4-36	5-53	6-22	5-54	6-05	6-23	6-23
29	4-37	5-53	6-22	5-52	6-04	6-22	6-22
30	4-38	5-54	6-22	5-51	6-02	6-20	6-20

## ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

رات کو پانی پینا صحت کے لئے مضر ہے۔ ساگ، پودینہ، ادراک سے پرہیز کریں۔  
صبح کے وقت پانی پینا اور سیر اور ورزش مفید ہے۔

## نور پروڈکشن پاکستان

ہر قسم کی اسلامی CD's, DVD's مثلاً قرآن، درس، مجالس، تقاریر، نوے، زیارات، سافٹ ویئر، مشاعرے اور ایرانی فلمیں پیش موضوعات پر اعلیٰ پرنٹ میں دستیاب ہیں۔  
شعبہ حسین: 0321-4195318, 0333-4491715

اسٹاکسٹ: افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور فون: 37223686

60 سالہ قیدی باگہ خصوصی مجلس بمقام شاہنشاہ پورہ کراچی نماز روزہ ماہ اکتوبر ہر سال۔ سید محمد سعید احمد لاہور میں منعقد ہوتی ہے۔

35 دن سالانہ جلوس 3 صفر مجلس 4 صفر مدرسہ کعبۃ العتیق نارنگ ضلع چکوال۔ مولوی ملک احمد بن پشیمار ڈکھ

امامیہ تقویم ماہ اکتوبر 2011 عیسوی ذیقعدہ / ذی الحجہ 1432 ہجری

ایام	عیسوی			اسٹراچ و کوائف سمارگان			اسلامی تقویم		
	2011	2068	1933	تقویم	تقویم	تقویم	تقویم	تقویم	تقویم
31 اکتوبر	15	9	09/41	تیس	تیس	تیس	تیس	تیس	تیس
1	16	10	16.13	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ
2	17	11	13.15	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ
3	18	12	12.41	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ
4	19	13	12.46	سعود	سعود	سعود	سعود	سعود	سعود
5	20	14	13.25	اضیہ	اضیہ	اضیہ	اضیہ	اضیہ	اضیہ
6	21	15	14.33	مقدم	مقدم	مقدم	مقدم	مقدم	مقدم
7	22	16	16.04	موخر	موخر	موخر	موخر	موخر	موخر
8	23	17	17.54	رشا	رشا	رشا	رشا	رشا	رشا
9	24	18	17.57	شرطین	شرطین	شرطین	شرطین	شرطین	شرطین
10	25	19	20.09	بطین	بطین	بطین	بطین	بطین	بطین
11	26	20	22.28	ثریا	ثریا	ثریا	ثریا	ثریا	ثریا
12	27	21							
13	28	22	00.50	دبران	دبران	دبران	دبران	دبران	دبران
14	29	23	03.07	ہقہ	ہقہ	ہقہ	ہقہ	ہقہ	ہقہ
15	30	24	05.16	ہنہ	ہنہ	ہنہ	ہنہ	ہنہ	ہنہ
16	31	25	07.08	ذراعہ	ذراعہ	ذراعہ	ذراعہ	ذراعہ	ذراعہ
17	2	26	06.38	نثرہ	نثرہ	نثرہ	نثرہ	نثرہ	نثرہ
18	3	27	07.32	طرفہ	طرفہ	طرفہ	طرفہ	طرفہ	طرفہ
19	4	28	07.47	چہہ	چہہ	چہہ	چہہ	چہہ	چہہ
20	5	29	07.17	زہرہ	زہرہ	زہرہ	زہرہ	زہرہ	زہرہ
21	6	30	06.02	صرفہ	صرفہ	صرفہ	صرفہ	صرفہ	صرفہ
22	7		04.05	عوا	عوا	عوا	عوا	عوا	عوا
23	8	2	01.29	غزہ	غزہ	غزہ	غزہ	غزہ	غزہ
24	9	3	17.26	زبانہ	زبانہ	زبانہ	زبانہ	زبانہ	زبانہ
25	10	4	13.51	اکلیل	اکلیل	اکلیل	اکلیل	اکلیل	اکلیل
26	11	5	10.17	قلب	قلب	قلب	قلب	قلب	قلب
27	12	6	06.55	شولہ	شولہ	شولہ	شولہ	شولہ	شولہ
28	13	7	03.52	نعام	نعام	نعام	نعام	نعام	نعام
29	14	8	01.19	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ
30	15	9	21.38	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ	ذائقہ
31			20.20	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ	بلدہ

امامیہ تقویم ماہ اکتوبر 2011 عیسوی ذیقعدہ / ذی الحجہ 1432 ہجری

ابتداء قمر در عقرب 26 اکتوبر (بدھ) 8 بجکر 8 منٹ رات۔ اختتام قمر در عقرب 28 اکتوبر (جمعہ) رات 7 بجکر 45 منٹ

16 صفر بسلسلہ شہادت امام حسن شام 4 بجے بمقام عزمانند زہرا بیچرہ۔ پنجاب جعفر عباس بختیاری۔ بختیاری برادران 051-9210322

محرم الحرام کی پہلی اتوار مجلس عز او شہید ذوالجناح بمقام B-3، جعفریہ کالونی بندر ڈالاہور۔ پنجاب: حاجی سید حسن شاہ ترمذی

## مستحب نمازیں ایام ہفتہ

**نوٹ:** ایام ہفتہ کی ساری نمازیں دو، دو رکعت پر تمام کی جائیں گی۔

### نمازِ شنبہ (ہفتہ)

**تعداد:** چار رکعت  
**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید ایک بار، آیہ الکرسی ایک بار۔  
**فضیلت:** نماز پڑھنے والے کو خدا شہیدوں اور انبیاء کا مرتبہ عنایت فرمائے گا۔

### نمازِ یکشنبہ (اتوار)

**تعداد:** چار رکعت  
**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ ملک ایک بار۔  
**فضیلت:** خدا بہشت میں اس کو اس کی مرضی کے مطابق جگہ عنایت فرمائے گا۔

### نمازِ دو شنبہ (پہن)

**تعداد:** دس رکعت  
**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید دس بار۔  
**فضیلت:** نمازی کو روز قیامت خداوند نور عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کر تمام اہل معشرش مسح کریں گے۔

### نمازِ سہ شنبہ (منگل)

**تعداد:** چھ رکعت  
**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، آیہ کہ یہ امن الرسولؐ (قرہ آیت ۸۵) ایک بار، سورہ زلزال ایک بار۔  
**فضیلت:** نماز کے بعد نمازی گناہوں سے اس طرح پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے محسوم بے خطا ہے۔

### نمازِ چہار شنبہ (بدھ)

**تعداد:** چار رکعت  
**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید ایک بار، سورہ قدر ایک بار۔  
**فضیلت:** خداوند تعالیٰ نماز گزارہر کی غلطی و نا فرمانی کو معاف فرمائے گا اور حوروں سے ترویج کرے گا۔

### نمازِ پندرہ شنبہ (جمعرات)

**تعداد:** دس رکعت  
**طریقہ:** ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار، سورہ توحید دس بار۔  
**فضیلت:** حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس نماز کو ادا کیا ملائکہ اس سے کہتے ہیں کہ جو چاہو مانگوں گا کہ پورا کیا جائے۔

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	4-39	5-55	11-55	5-49	6-01	6-23	6-19
2	4-39	5-55	11-55	5-48	6-00	6-23	6-18
3	4-40	5-56	11-55	5-47	5-59	6-24	6-17
4	4-40	5-56	11-54	5-45	5-58	6-24	6-16
5	4-41	5-57	11-54	5-44	5-56	6-25	6-15
6	4-42	5-58	11-53	5-43	5-55	6-25	6-14
7	4-43	5-58	11-53	5-42	5-54	6-26	6-13
8	4-43	5-59	11-53	5-41	5-52	6-26	6-12
9	4-44	6-00	11-53	5-39	5-51	6-27	6-11
10	4-44	6-00	11-52	5-38	5-50	6-27	6-10
11	4-45	6-01	11-52	5-37	5-49	6-27	6-09
12	4-46	6-02	11-52	5-36	5-48	6-27	6-09
13	4-47	6-03	11-52	5-35	5-47	6-28	6-08
14	4-47	6-03	11-51	5-33	5-45	6-28	6-07
15	4-48	6-04	11-51	5-32	5-44	6-29	6-06
16	4-48	6-05	11-51	5-31	5-43	6-29	6-05
17	4-49	6-06	11-51	5-30	5-42	6-30	6-04
18	4-50	6-06	11-51	5-29	5-41	6-30	6-03
19	4-51	6-07	11-51	5-28	5-40	6-31	6-02
20	4-51	6-08	11-50	5-27	5-39	6-31	6-01
21	4-52	6-08	11-50	5-26	5-38	6-32	6-00
22	4-52	6-09	11-50	5-25	5-37	6-32	6-00
23	4-53	6-10	11-50	5-24	5-36	6-33	5-59
24	4-54	6-11	11-50	5-23	5-35	6-33	5-58
25	4-55	6-11	11-50	5-22	5-34	6-34	5-57
26	4-55	6-12	11-49	5-21	5-33	6-35	5-57
27	4-56	6-13	11-49	5-20	5-32	6-36	5-56
28	4-56	6-14	11-49	5-19	5-31	6-36	5-55
29	4-57	6-14	11-49	5-18	5-30	6-37	5-54
30	4-58	6-15	11-49	5-17	5-29	6-37	5-54
31	4-59	6-16	11-49	5-16	5-28	6-38	5-53

**ہدایات حضرت**  
**امام رضاؑ**  
چربی اور مصالحہ دار گوشت اجاڑ چینی سے پرہیز چاہیے۔  
پانی کم پینا چاہیے۔ ورزش مفید ہے۔

## سالانہ تاریخی مجلس عزا

### ماہ اکتوبر کا آخری اتوار

بمقام: دارالاحسین ڈپو والی گلی محلہ پورن نگر سیالکوٹ

منجانب: جمشید الحسن رضوی و برادران

سالانہ مجلس عزا 9 محرم الحرام 10 مئی 6-11 بجے 11:00 تا 11:30 لاہور۔ گلی کرل ایس۔ ایچ۔ حیدر

ذکر مسافرہ شام ندیم حسین قریشی انجمن پیش سیرت مولانا امین ایوارڈ یافتہ سنیلائٹ ٹاؤن 7 بلاک چنیوٹ ضلع بہنگ 0333-6710566, 047-6334083

**امامیہ تقویم ماہ نومبر 2011 عیسوی ذی الحجہ / محرم الحرام 1432ھ ہجری**

عمومی تقویم	استخراج و کوائف سیارگان			اسلامی تقویم							
	عیسوی	قمری	شمسی	قمری	قمری	ہجری					
ایام	2011	2068	1933	قمر	قمر	1432					
30	نومبر	اکتوبر	ستمبر	قمر	قمر	ذی الحجہ					
مکمل	1	16	10	قمر	قمر	ذی الحجہ					
بدھ	2	17	11	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعرات	3	18	12	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعہ	4	19	13	قمر	قمر	ذی الحجہ					
ہفتہ	5	20	14	قمر	قمر	ذی الحجہ					
اتوار	6	21	15	قمر	قمر	ذی الحجہ					
پیر	7	22	16	قمر	قمر	ذی الحجہ					
منگل	8	23	17	قمر	قمر	ذی الحجہ					
بدھ	9	24	18	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعرات	10	25	19	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعہ	11	26	20	قمر	قمر	ذی الحجہ					
ہفتہ	12	27	21	قمر	قمر	ذی الحجہ					
اتوار	13	28	22	قمر	قمر	ذی الحجہ					
پیر	14	29	23	قمر	قمر	ذی الحجہ					
منگل	15	30	24	قمر	قمر	ذی الحجہ					
بدھ	16	1	25	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعرات	17	2	26	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعہ	18	3	27	قمر	قمر	ذی الحجہ					
ہفتہ	19	4	28	قمر	قمر	ذی الحجہ					
اتوار	20	5	29	قمر	قمر	ذی الحجہ					
پیر	21	6	30	قمر	قمر	ذی الحجہ					
منگل	22	7	1	قمر	قمر	ذی الحجہ					
بدھ	23	8	2	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعرات	24	9	3	قمر	قمر	ذی الحجہ					
جمعہ	25	10	4	قمر	قمر	ذی الحجہ					
ہفتہ	26	11	5	قمر	قمر	ذی الحجہ					
اتوار	27	12	6	قمر	قمر	ذی الحجہ					
پیر	28	13	7	قمر	قمر	ذی الحجہ					
منگل	29	14	8	قمر	قمر	ذی الحجہ					
بدھ	30	15	9	قمر	قمر	ذی الحجہ					
منگل	1	16	10	دلو	03/07	سعود	19.47	۴	نیک	ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام	سنہ ۱۲۰۰ھ
بدھ	2	17	11			اضحیہ	19.55	۵	نیک	وفات حضرت ابوذر غفاری (صحابی رسول)	سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعرات	3	18	12			مقدم	20.44	۶	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعہ	4	19	13			حوت	12/17	۷	نیک	شہادت امام محمد باقرؑ	سنہ ۱۲۰۰ھ
ہفتہ	5	20	14			رشا	23.56	۸	نیک	کتبے امام حسین علیہ السلام کاسفر	سنہ ۱۲۰۰ھ
اتوار	6	21	15					۹	نیک	شہادت مسلم بن عقبہ۔ یوم عرفہ	سنہ ۱۲۰۰ھ
پیر	7	22	16			حمل	00/02	۱۰	نیک	عید الاضحی (تخلیل)	سنہ ۱۲۰۰ھ
منگل	8	23	17			بطنین	02.18	۱۱	نیک	عید الاضحی (تخلیل)	سنہ ۱۲۰۰ھ
بدھ	9	24	18			ثور	12/45	۱۲	نیک	شہادت محمد داہرا تیم فرزند ان امیر مسلم	سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعرات	10	25	19			دبران	06.57	۱۳	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعہ	11	26	20			ہقنق	09.08	۱۴	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
ہفتہ	12	27	21			جوزا	01/09	۱۵	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
اتوار	13	28	22			ذراعہ	12.52	۱۶	نیک	تعمیر مکان کے لئے نیک	سنہ ۱۲۰۰ھ
پیر	14	29	23			سرطان	12/19	۱۷	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	سنہ ۱۲۰۰ھ
منگل	15	30	24			طرزہ	13.19	۱۸	نیک	عید غدیر شاہد اعلان ولادت حضرت علیؑ	سنہ ۱۲۰۰ھ
بدھ	16	1	25			اسب	21/17	۱۹	نیک	شب یحییٰ بنی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا	سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعرات	17	2	26			زہرہ	13.52	۲۰	نیک	تعمیر مکان کے لئے نیک	سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعہ	18	3	27			صرفہ	13.19	۲۱	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
ہفتہ	19	4	28			عوا	12.00	۲۲	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
اتوار	20	5	29			سہاک	10.12	۲۳	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
پیر	21	6	30			میزان	06/16	۲۴	نیک	ولادت حضرت سکینہؑ	سنہ ۱۲۰۰ھ
منگل	22	7	1			زبانہ	03.34	۲۵	نیک	نزول سورہ بقرہ (سورہ دہر)	سنہ ۱۲۰۰ھ
بدھ	23	8	2			تغرب	06/57	۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعرات	24	9	3			شولہ	18.08	۲۷	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
جمعہ	25	10	4			نعام	06/57	۲۸	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
ہفتہ	26	11	5			بلدہ	12.10	۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	سنہ ۱۲۰۰ھ
اتوار	27	12	6			جدی	08/04	۳۰	نیک	آغاز سال نو ۱۴۳۳ھ ہجری و ایام عز	سنہ ۱۲۰۰ھ
پیر	28	13	7			بلدہ	06.08	۱	نیک	حضرت امام حسینؑ کی کربلا آمد	سنہ ۱۲۰۰ھ
منگل	29	14	8			دلو	12/01	۲	نیک		سنہ ۱۲۰۰ھ
بدھ	30	15	9			اضحیہ	04.20	۳	نیک	سفر کے لئے بد	سنہ ۱۲۰۰ھ

نوٹ: نیک و بد تاریخوں کا تین ہجری ماہ کے مطابق ہوتا ہے اگر چاند کی وجہ سے کسی ہجری ماہ میں فرق آجائے تو چاند کے مطابق نیک و بد عمل کریں۔  
ابتداء قمر در عقرب 23 نومبر (بدھ) 6 بجکر 57 منٹ صبح اختتام قمر در عقرب 25 نومبر (جمعہ) صبح 6 بجکر 57 منٹ

17 ربیع الثانی 18 شعب الثانی 19 جمادی الثانی 20 جمادی الثانی 21 جمادی الثانی 22 جمادی الثانی 23 جمادی الثانی 24 جمادی الثانی 25 جمادی الثانی 26 جمادی الثانی 27 جمادی الثانی 28 جمادی الثانی 29 جمادی الثانی 30 جمادی الثانی

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

کراچی		لاہور					
تاریخ	نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	نماز مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	5-00	6-17	11-49	5-15	5-27	6-39	5-52
2	5-00	6-18	11-49	5-14	5-26	6-39	5-52
3	5-01	6-19	11-49	5-13	5-25	6-40	5-51
4	5-01	6-19	11-49	5-13	5-25	6-40	5-51
5	5-02	6-20	11-49	5-12	5-24	6-41	5-50
6	5-03	6-21	11-49	5-11	5-23	6-41	5-50
7	5-04	6-22	11-49	5-11	5-22	6-42	5-49
8	5-04	6-23	11-49	5-10	5-22	6-43	5-49
9	5-05	6-23	11-49	5-09	5-21	6-44	5-48
10	5-06	6-24	11-50	5-08	5-20	6-44	5-48
11	5-07	6-25	11-50	5-08	5-19	6-45	5-47
12	5-07	6-26	11-50	5-07	5-18	6-45	5-47
13	5-08	6-27	11-50	5-07	5-18	6-46	5-46
14	5-09	6-28	11-50	5-06	5-17	6-47	5-46
15	5-10	6-29	11-50	5-06	5-17	6-48	5-45
16	5-10	6-30	11-51	5-05	5-16	6-48	5-45
17	5-11	6-31	11-51	5-04	5-16	6-49	5-44
18	5-12	6-32	11-51	5-04	5-15	6-49	5-44
19	5-13	6-32	11-51	5-03	5-15	6-50	5-44
20	5-13	6-33	11-51	5-03	5-14	6-51	5-44
21	5-14	6-34	11-51	5-03	5-14	6-52	5-43
22	5-15	6-35	11-52	5-03	5-14	6-52	5-43
23	5-16	6-36	11-52	5-03	5-14	6-53	5-43
24	5-16	6-37	11-52	5-02	5-13	6-54	5-43
25	5-17	6-38	11-53	5-02	5-13	6-55	5-43
26	5-18	6-38	11-53	5-02	5-13	6-55	5-43
27	5-19	6-39	11-53	5-01	5-13	6-56	5-43
28	5-19	6-40	11-54	5-01	5-13	6-57	5-43
29	5-20	6-41	11-54	5-01	5-13	6-58	5-42
30	5-21	6-42	11-54	5-01	5-12	6-58	5-42

## نماز روز جمعہ

تعداد: چار رکعت وقت: طلوع آفتاب سے زوال تک  
 طریقہ: ہر رکعت میں سورہ حمد ایک بار سورہ ملک ایک بار سورہ جم سورہ ایک بار۔  
 فضیلت: اس نماز کے لئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:  
 (1) نمازی کو خداوند کریم جنت عطا فرمائے گا۔ (2) اہلبیت اس کے شفیع ہوں گے۔  
 (3) قبر کے فشار اور محشر کی ہول سے محفوظ رہے گا۔ (4) جب آہ سجدہ واجبہ پر پہنچے تو  
 سجدہ کر کے کھڑا ہو لیتے سورہ تکوین پڑھ کرے (جمال الاسبوع - فصل ۳ ص ۳۹-۴۲)

## شوگر کے مریضوں کے لئے

### ایک بڑی خوشخبری

مکرمی! سعودی عرب تک کورٹ کے سپریم قاضی (جج) شیخ صالح محمد عمر بنجری حفظہ اللہ نے ایک صحیح تجربہ کے بعد اللہ کے فضل سے شوگر کی بیماری کے علاج کے لئے ایک کامیاب نسخہ دریافت کیا ہے۔ جس بیماری سے آج کل بہت سارے لوگ بالخصوص بوڑھے مرد و عورت دوچار ہیں۔ شیخ محترم ایک لمبے تجربے، انتھک محنت و کوشش، مسلسل صبر کے بعد ہی اس بیماری کا انتہائی بہترین نسخے کا کھونچ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

### استعمال میں لائی جانے والی اشیاء:

- (1) 100 گرام کٹا ہوا گیہوں (حلیم والا) (2) 100 گرام گوند کیترا
- (3) 100 گرام جو کٹا ہوا (حلیم والا) (3) 100 گرام کلونچی

### تیار کرنے کا طریقہ:

ذکورہ چیزوں کو 5 کلو پانی میں ڈالیں۔ پھر اس کو کم از کم دس منٹ پکائیں۔ جوش دینے کے بعد آگ بجھائیں اور اس کو اتنی دیر تک چھوڑے رکھیں یہاں تک کہ وہ از خود ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر چھلکوں کو چھان لیں اور سچے ہوئے پانی کو شیشے کے برتن میں رکھیں۔ **طریقہ استعمال:** (1) ناشتے سے پہلے مریض صبح نہار منہ سات دن تک مسلسل چائے یا قہوہ کی چھوٹی پیالی کے بعد ہار پئے۔ (2) سات دن کے بعد ایک دن نافذ کریں پھر 14 دن ایک دن پیئے اور ایک دن نافذ کرے (یعنی سات دن پیئے) (3) ایک ہفتہ گزرنے کے بعد دو کا استعمال بالکل بند کر دے اور بلا روک ٹوک جو دل چاہے غذا استعمال کرے۔ بازن اللہ اسے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ (4) اگر کچھ کسر رہ جائے تو ایک مرتبہ اسی طرح پھر استعمال کرے۔ بازن اللہ لہبہ کام کرنا شروع کر دے گا اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ شیخ کی یہ گزارش ہے کہ اس نسخہ کو عام کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو سکے۔ (بھار روز نامہ نوائے وقت) 12-05-2010

### رشتوں میں رکاوٹ و حصول اولاد نہرینہ

فی سبیل اللہ صرف خواتین رابطہ کریں۔ مسز نقوی 0332 4662358

ہدایات حضرت رات کو پانی پینا صحت کے لئے مضر ہے۔ غسل میں کمی چاہیے۔ ساگ، پودینہ، ادک سے پرہیز، نہار منہ ایک گھنٹ پانی پینا مفید ہے

## روحانی و قرآنی فیض

مجزب تعویذات مشک وزعفران عنبر سے خاص وقت میں تحریر شدہ برائے دفع بندش کاروبار۔ سحر جادو، امراض قلب گھبراہٹ وغیرہ  
 عامل روحانی: میر سید شہیر حسین شاہ بخاری قلندری  
 سرائے عالمگیر ضلع کجرات فون: 0345 5665273, 0544 404905  
 e-mail: shabirbukhari@gmail.com







## امامیہ تقویم ماہ جنوری 2012 عیسوی مطابق صفر المظفر/ربیع الاول ۱۴۳۳ ہجری

ایام 31	جنوری 2012ء	صفر المظفر	نیک و محسن	یادداشت
اتوار	1	۶	نیک	
سوموار	2	۷	نیک	ظہور امام موسی کاظم علیہ السلام ۱۱۸۱ھ
منگل	3	۸	نیک	سفر کے لئے بد
بدھ	4	۹	نیک	فتح جنگ نہروان
جمعرات	5	۱۰	محسن اکبر	
جمعہ	6	۱۱	نیک	
ہفتہ	7	۱۲	نیک	
اتوار	8	۱۳	محسن	شہادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ۱۱ھ
سوموار	9	۱۴	نیک	
منگل	10	۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد
بدھ	11	۱۶	محسن	
جمعرات	12	۱۷	محسن	شہادت امام علی رضاعلیہ السلام ۲۰ھ
جمعہ	13	۱۸	نیک	
ہفتہ	14	۱۹	نیک	
اتوار	15	۲۰	محسن اکبر	پہلے حضرت امام حسین - عرس و اتان گچ بخش
سوموار	16	۲۱	محسن	
منگل	17	۲۲	نیک	
بدھ	18	۲۳	نیک	
جمعرات	19	۲۴	محسن	بروایت شہادت حضرت زینب علیہا السلام
جمعہ	20	۲۵	محسن	
ہفتہ	21	۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد
اتوار	22	۲۷	نیک	
سوموار	23	۲۸	محسن	رحلت حضرت رسول خدا - شہادت امام حسن
منگل	24	۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد
بدھ	25	۳۰	نیک	
جمعرات	26	۱	محسن	قرود عقبہ شروع
جمعہ	27	۲	محسن	
ہفتہ	28	۳	محسن اکبر	قرود عقبہ ختم
اتوار	29	۴	محسن	
سوموار	30	۵	نیک	
منگل	31	۶	نیک	

نئی برانچ << صابری دارالکتب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور 37320770

## اوقات شرعی برائے لاہور - کراچی

تاریخ		لاہور - لاہور						کراچی
نماز فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	مغربین	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	کراچی	
1	5-22	6-43	11-55	5-01	5-12	6-59	5-43	
2	5-22	6-43	11-55	5-01	5-12	7-00	5-43	
3	5-23	6-44	11-55	5-01	5-12	7-01	5-43	
4	5-24	6-45	11-55	5-01	5-12	7-01	5-43	
5	5-25	6-46	11-56	5-01	5-12	7-02	5-43	
6	5-25	6-46	11-56	5-01	5-12	7-02	5-43	
7	5-26	6-47	11-57	5-01	5-12	7-03	5-43	
8	5-26	6-48	11-57	5-02	5-13	7-04	5-43	
9	5-27	6-49	11-58	5-02	5-13	7-05	5-44	
10	5-28	6-50	11-58	5-02	5-13	7-05	5-44	
11	5-29	6-51	11-59	5-02	5-13	7-06	5-44	
12	5-29	6-51	11-59	5-02	5-14	7-06	5-44	
13	5-30	6-52	12-00	5-02	5-14	7-07	5-45	
14	5-31	6-53	12-00	5-03	5-14	7-07	5-45	
15	5-31	6-53	12-01	5-03	5-14	7-08	5-46	
16	5-32	6-54	12-01	5-03	5-15	7-09	5-46	
17	5-32	6-54	12-02	5-04	5-15	7-10	5-46	
18	5-33	6-55	12-02	5-04	5-16	7-10	5-46	
19	5-33	6-55	12-03	5-05	5-16	7-11	5-47	
20	5-34	6-56	12-03	5-05	5-17	7-11	5-47	
21	5-35	6-56	12-04	5-06	5-17	7-12	5-48	
22	5-35	6-57	12-04	5-06	5-18	7-12	5-48	
23	5-36	6-57	12-05	5-07	5-18	7-13	5-49	
24	5-36	6-58	12-05	5-07	5-19	7-13	5-49	
25	5-36	6-58	12-06	5-08	5-19	7-14	5-50	
26	5-37	6-59	12-06	5-08	5-20	7-14	5-50	
27	5-37	6-59	12-07	5-09	5-20	7-15	5-51	
28	5-38	7-00	12-08	5-10	5-21	7-15	5-52	
29	5-38	7-00	12-08	5-10	5-21	7-15	5-53	
30	5-39	7-00	12-09	5-11	5-22	7-15	5-53	
31	5-39	7-00	12-09	5-12	5-23	7-16	5-54	

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام  
لطیف غذائیں، چھوٹا گوشت، نیم برشت انڈا، مچھلی کا شوربہ مفید ہے۔ لہسن اور پیاز کا استعمال مفید ہے۔

## حروف اجدد شمسی مع اعداد

ا	ب	پ	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	
20	30	40	50	60	70	80	90	100		
ق	ک	گ	ل	م	ن	و	ہ	ی		
300	400	500	600	700	800	900	1000			

اجد شمسی قوی الہامی ہے۔

## امامیہ تقویم ماہ فروری 2012 عیسوی

مطابق ربیع الاول / ربیع الثانی ۱۴۳۳ ہجری

یام 29	فروری 2012ء	ربیع الاول	یکد شخص	یادداشت
بدھ	1	۸	محس	شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام
جمعرات	2	9	نیک	عید شجاع
جمعہ	3	10	محس اکبر	وفات حضرت عبدالملک
ہفتہ	4	11	نیک	
اتوار	5	12	نیک	عید میلاد النبی
سوموار	6	13	محس	
منگل	7	14	نیک	
بدھ	8	15	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد
جمعرات	9	16	محس	تغیر کے لئے نیک
جمعہ	10	17	نیک	بخش ظہور حضرت رسول خدا امام جعفر صادق
ہفتہ	11	18	نیک	ولادت حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا
اتوار	12	19	نیک	
سوموار	13	20	محس اکبر	تغیر کے لئے نیک
منگل	14	21	محس	
بدھ	15	22	نیک	
جمعرات	16	23	نیک	
جمعہ	17	24	محس	
ہفتہ	18	25	محس	
اتوار	19	26	محس	رحلت حضرت ابوالطالب علیہ السلام
سوموار	20	27	نیک	
منگل	21	28	نیک	مگر نکاح کے لئے بد
بدھ	22	29	نیک	قمر در عقرب شروع
جمعرات	23	30	نیک	
جمعہ	24	31	محس اکبر	قمر در عقرب ختم
ہفتہ	25	1	نیک	
اتوار	26	2	محس	
سوموار	27	3	نیک	
منگل	28	4	محس	
بدھ	29	5	نیک	

پہلوؤں، ہمنس اور ناسور کے لئے: سات دن تک ۳۱۲ مرتبہ (یا زقیب) پڑھ کر دم کرے۔ انشاء اللہ غم اچھا ہو جائے گا۔

## امامیہ تقویم ماہ مارچ 2012 عیسوی

مطابق ربیع الثانی / جمادی الاول ۱۴۳۳ ہجری

یام 31	مارچ 2012ء	ربیع الثانی	یکد شخص	یادداشت
جمعرات	1	۷	نیک	
جمعہ	2	8	نیک	مگر سفر کے لئے بد
ہفتہ	3	9	نیک	
اتوار	4	10	نیک	بخش ظہور امام حسن عسکری علیہ السلام
سوموار	5	11	محس اکبر	
منگل	6	12	نیک	
بدھ	7	13	محس	
جمعرات	8	14	نیک	
جمعہ	9	15	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد
ہفتہ	10	16	محس	تغیر کے لئے نیک
اتوار	11	17	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد
سوموار	12	18	نیک	سفر کے لئے بد
منگل	13	19	نیک	
بدھ	14	20	میانہ	تغیر کے لئے نیک
جمعرات	15	21	محس	
جمعہ	16	22	نیک	
ہفتہ	17	23	نیک	
اتوار	18	24	محس	
سوموار	19	25	محس	
منگل	20	26	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد
بدھ	21	27	نیک	
جمعرات	22	28	محس اکبر	قمر در عقرب شروع
جمعہ	23	29	نیک	نکاح کے لئے بد
ہفتہ	24	30	نیک	قمر در عقرب ختم
اتوار	25	1	نیک	
سوموار	26	2	محس	
منگل	27	3	نیک	
بدھ	28	4	محس	
جمعرات	29	5	نیک	
جمعہ	30	6	نیک	
ہفتہ	31	7	نیک	سفر کے لئے بد

### عرق النساء (رائگن) کے درد کا علاج

بعض مردوں کو گردوں کی کمزوری اور دائمی قبض کے باعث اور اکثر عورتوں کو رحم کی خرابیوں کے باعث ہوا کرتا ہے۔ سیدھی طرف کم اور الٹی جانب زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کوئلے سے شروع ہوتا ہے اور پوری ٹانگ میں ہوتا ہے اور اکثر ریگتا ہے اس لئے اسے رائگن کا درد کہتے ہیں۔

(ارتھ شبستان رضا)

**نسخہ:** اسکندر ستار،

سنبلی کی موصلی، سوٹھ، بدھارا سب ایک ایک تولہ ملا کر باریک کوٹ چھان کر مثل میدہ کے سفوف بنا لیں اور ہم وزن کچی شکر ملا کر یا ڈبھر گائے کے دودھ کے ساتھ تھار منہ ایک تولہ کھالیا کریں۔ اور سوتے وقت مہجون سورنجان ایک تولہ گرم پانی سے کھالیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ میں اس موذی مرض سے نجات ہوگی۔ غذا میں شوربا، چپانی یا صرف گیہوں کا دلیہ دودھ میں پکا کر استعمال کریں تا وقت استعمال دوا جماع سے بچیں۔

درد کا تیار نسخہ اور کوڑھن، کوڑھن ہیز ٹانگ، کوڑھن شراب الصالحین امام رضاعلیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں تیار کر رہے:

**کوئر اسنڈ کو طیبہ**  
**لیبارٹری (رجسٹرڈ)**

مکان نمبر 11، بجلی نمبر 11، رام نگر، اسلام پورہ  
لاہور فون: 042-37115275

# عدد 9 کی برکات دہلیز سیدہ سے

(لوح اسماء پنجتن پاک علیہم السلام)

محمد اکمل بلوچ امر علیہ السلام

قارئین محترم! السلام علیکم۔ مولائے کائنات کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر سایہ لگن رہیں۔ آمین۔ حسب دستور اس سال بھی ایک نادر اور نایاب علی کاوش کے ہمراہ حاضر ہیں۔ عدد 9 کی کرشماتی اور عظیم روحانی فوائد کی حامل ایک منفرد لوح ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ یہ لوح نہ صرف عوام الناس بلکہ ارباب علم کے لیے بھی ایک ساں مستفید ہے۔

ہر قسم کی نحوست اور بندش کے اعلیٰ ترین توڑ اور بے شمار روحانی فوائد کی حامل اس ذی شان لوح کا استخراج پنجتن پاک علیہم السلام کے اسماء مبارک کے باطنی اعداد (ملفوظی) سے حاصل کر کے کیا گیا ہے۔ یقیناً صاحبان معرفت پر یہ امر واضح ہوگا کہ انہی اسماء کی برکت سے آدم علیہ السلام کی التجا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کو طوفان سے امان ملی، یونس علیہ السلام کو لقمہء مایہ ہونے سے بچایا گیا اور یعقوب علیہ السلام کے فراق کا انجام دیدار یوسف کی صورت میں ہوا تو یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نجات ملی! ان مقدس ناموں کو یوں ملفوظی کر کے اعداد لیے ہیں:

صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین

حسین

حسن

فاطمہ

علی

محمد

اسماء:

ملفوظی	م	ح	م	د	ع	ل	ی	ف	ا	ط	م	ہ	ح	س	ن	ح	س	ی	ن
	ی	ا	ی	ا	ی	ا	ا	ا	ل	ا	ی	ا	ا	ی	و	ا	ی	ا	و
	م	×	م	ل	ن	م	×	×	ف	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
اعداد	90	09	90	35	130	71	11	81	111	10	90	06	09	120	106	09	120	11	106

ان تمام اعداد کو جمع کرنے سے میزان 1215 حاصل ہوا۔ مفرد کرنے کے لیے انہیں باہم جمع کیا تو مفرد عدد 9 حاصل ہوا۔ (1+2+1+5=9)

اعداد کے کُل مجموعے سے استخراج کردہ لوح مبارک مثلث آتشی کی صورت میں پیش خدمت ہے:

9941

۲۰۶ ۲۰۱ ۲۰۸

۲۰۷ ۲۰۵ ۲۰۳

۲۰۲ ۲۰۹ ۲۰۴

## طریق استعمال:

اس مبارک لوح کو آدابِ عملیات کے تحت معصوم کسی ہستی کی آمد کے دن، شرفِ قمر، شرفِ شمس، شرفِ زہرہ، شرفِ مشتری یا نجوم کے لحاظ سے اور معصومین علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں سعدیام میں چاندی، سونے یا کسی کاغذ پر تحریر کر دو نوافل پڑھ کے اور کچھ بیٹھی نیاز بانٹ کے اپنے پاس رکھیں۔ نیز گھر، دکان، گاڑی وغیرہ میں آویزاں کرنے سے ہر قسم کے حادثات اور دشمن سے تحفظ ملے گا۔ مریض کو نقوش

پہننا دیں اور یہ نقش لکھ کر متواتر ناشفا پلائیں۔ حامل نقش جس قدر زیادہ درود پاک کا ورد کرے گا اُس قدر نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔

عدد 9 میں کائنات کی اس مقدس ہستی کی جھلک نظر آتی ہے جس نے اسلام کے بے بال و پر وجود کو آلام کے تپتے ہوئے ریگستان میں اپنے دامنِ عصمت میں پناہ دی! ہمدنِ رحمت نظر آنے والی وہ پاکیزہ اور شفیق ہستی جو معدنِ الرسالت ہے! جو ہیکر عصمت ہے۔ آیتِ تطہیر کی مصداق اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر صفات کی امین ہستی، اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو برد و محشر غضبِ الہیہ سے نجات دلانے والی اُس پاکیزہ ذات کو خُدا نے بتول اور فاطمہ جیسے مقدس ناموں سے متصف کیا ہے۔ سیدہ کوئین، بنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے بحساب

## جدول ضرب و تقسیم

جمع کی مثالیں

$$9+1=10(1+0=1)$$

$$9+2=11(1+1=2)$$

$$9+3=12(1+2=3)$$

$$9+4=13(1+3=4)$$

$$9+5=14(1+4=5)$$

$$9+6=15(1+5=6)$$

$$9+7=16(1+6=7)$$

$$9+8=17(1+7=8)$$

$$9+9=18(1+8=9)$$

ضرب کی مثالیں

$$9 \times 1 = 9$$

$$9 \times 2 = 18(1+8=9)$$

$$9 \times 3 = 27(2+7=9)$$

$$9 \times 4 = 36(3+6=9)$$

$$9 \times 5 = 45(4+5=9)$$

$$9 \times 6 = 54(5+4=9)$$

$$9 \times 7 = 63(6+3=9)$$

$$9 \times 8 = 72(7+2=9)$$

$$9 \times 9 = 81(8+1=9)$$

یہاں پر مناسب ہے کہ مشہور زمانہ ماہر علوم مخفی کیر وکی اعداد کی کتاب سے چھوٹا سا اقتباس ج کریں

“They are peculiarly prone to accidents from fire and explosions and rarely get through life without injury from such causes. As a general rule they go under many operations by the surgeon's knife” (Cheiro's Book of Palmistry, Numerology And Astrology; page:348)

موصوف نے بھی اس بات کی نشان دہی کی ہے کہ اس عدد کے حامل کو حادثات اور آگ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ قارئین! اگر اس عدد کی حقانیت کو کیر وکی کے مطمح نظر سے دیکھیں تو آپ کو اوقع کی سرخئی عدد 9 کی مالک خاتون سلام اللہ علیہا کے خون کی مرہون صحت نظر آتی ہے تو کہیں جلتا ہوا دروازہ فریاد کیاں نظر آتا ہے اور کہیں پہلو پر رکھا ایک ہاتھ! ایک ہستی نے زمانے کے سارے غم اپنے مقدس پلو سے باندھ کے ہمیں عدد 9 کی نورانی صفات سے نوازا ہے۔ تاریخ کے اوراق عدد 9 کے خون سے سرخ ہیں۔ اہل علم سے پوشیدہ نہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس طرح بعد از پیغمبر کالیف کو اپنے دامن میں سمویا ہے! ارض نینوا بھی بہتر (72) تاروں کی کہکشاں نظر آتی ہے! 18 ذی الحجہ دین کی بحیثیت، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی باقاعدہ

اسجد قمری کل 135 اعداد بنتے ہیں۔ اکائی کو دہائی میں جمع کیا تو 18 بنا۔ اور 1 عدد کو باہم جمع کرنے سے 9 کا مقدس اور اکوہی شان کا حامل عدد پردہ و نور سے طلوع ہوتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پُر نور محمد کے قمری اعداد 92 بنتے ہیں جن میں پھر عدد 9 اپنے تمام تر جلال کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اب اگر 92 میں 18 کے عدد کو جمع کریں تو 110 کا عدد حاصل ہوا! 110 جو سرسرا جلالی الہی کی مظہر ذات پاک یعنی علی ابن ابی طالب کے اسم مبارک کے اعداد ہیں۔

عدد 9 خاتونِ قیامت علیہا السلام سے منسوب ہے۔ یہ عدد امان، پناہ، اور تحفظ و سلامتی سے منسوب ہے۔ قارئین حضرات یقیناً عدد 9 کی کرشماتی انگوٹھی سے واقف ہوں گے، جس کے روحانی فیض سے صدیوں سے نسلِ آدم علیہ السلام مستفید ہو رہی ہے۔ بنیادی اعداد ایک سے نو (1-9) تک ہیں۔ باقی تمام اعداد انہی اعداد کی تکرار سے وجود میں آتے ہیں۔ دیگر اعداد خصوصاً عدد 9 کے روحانی اور طلسماتی اثرات کی پوری دنیا شاہد ہے۔ کرہ ارض کے تمام مکاتب فکر کے روحانی علوم میں علم اعداد کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ بلا تخصیص مذہب و ملت، علم اعداد کے تمام جدید علماء عدد 9 کے طلسماتی محررے کبھی نہیں نکل پائے۔ یہ عدد جس فریاد یا چیز سے مطابقت رکھتا ہے، اُسے اپنی عظیم روحانی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب کہ اس عدد سے مخالف اور خصامت مول لینے والا فرد یا چیز اپنی ہستی کو وجود سے عدم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اس مقدس عدد کے ایثار و وفا کی کتنی عظیم مثال ہے کہ جس عدد کو اس کے ساتھ جمع کریں، یہ عدد خود کو اُس عدد میں جذب کر دیتا ہے، اُس پر نچھاور ہو جاتا ہے۔ جب کہ اختلاف اور معاندت کی صورت میں اُس عدد کو فنا کے گھاٹ اُتار دیتا ہے! قارئین! عدد نو سے لکرانے والی ہر باطل قوت کو امان خُداوندی تک نصیب نہیں ہوتی! جمع دائمی حُب و یک جا ہونے کی اور ضرب اُبدی اختلاف اور جدائی کی علامت ہے۔ یہاں پر عدد 9 کے چند روحانی پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صفر سے نو تک اعداد کے متعلق عصر حاضر کے تمام ماہرین علم اعداد کی تحقیقات کو ہم نے ادارہ ہذا کی ماہرہ ناز کتب ”اعداد اور حقائق“ اور ”اعداد مدیہ الروحانیت میں“ میں با تفصیل بیان کیا ہے۔ محترم قارئین درج ذیل جدول میں عدد نو کی جذب و دفع کی بے مثال خاصیت ملاحظہ فرمائیں۔

## منتخب ٹوٹکے

مسئلہ سزا معطلی  
بشکریہ (زبدۂ آبا)

**شوگر کنٹرول کرنے کے لیے:** اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو دو پھنڈیوں کو اوپر اور

نیچے کا حصہ کاٹ کر پھینک دیں اور پھنڈیوں کو رات بھر بھونکر رکھ دیں۔ صبح بغیر پھنڈی کو

بلانے پانی گلاس میں نکال کر پی لیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے نہایت بہتر ہے۔

**نیند لانے کے لیے:** اگر کسی وجہ سے کئی دنوں سے نیند نہ آ رہی ہو تو ایک چمچ خشک

لے کر مل کے کپڑے میں باندھ کر پونٹی بنائیں۔ رات میں سونے سے پہلے ایک پیالی

گرم دودھ میں خشکاش کی یہ پونٹی ایک سے دو مرتبہ کول کول گھما کر فوراً پی لیں۔ اس سے

صرف پرسکون نیند آنے کی بلکہ دوسرے دن بالکل تازہ دم ہو کر اٹھیں گے۔

**دانت کا درد خاتمہ کرنے کے لیے:** اگر دانت میں درد ہو تو چند دانے پیٹی

لے کر اسے دو گلاس پانی میں اُبال لیں۔ اس گرم پانی سے گھلیاں کریں۔ دانت کا درد

بالکل غائب ہو جائے گا۔

**چھینکیں روکنے کے لیے:** اگر متواتر چھینکیں آ رہی ہیں تو انہیں روکنے کے لیے

تازہ ہرا دھنیا سونگھیں چھینکیں فوراً روک جائیں گی۔

**ترد تازہ چہرے کے لیے:** چند قطرے سفید سر کے کو ایک کھانے کے چمچے دی

میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ چند منٹ کے بعد چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ آپ کا

چہرہ بالکل تر تازہ ہو جائے گا۔

**چھالے ختم کرنے کے لیے:** اگر کسی بھی وجہ سے منہ میں چھالے ہو جائیں تو

ایک چائے کا چمچ کلونچی دو گلاس پانی میں ڈال کر اُبال لیں۔ اس سے گھلیاں کریں منہ

کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔

**چمکدار دھنکی سے پاک بالوں کے لیے:** اگر سر میں خشکی ہے اور بال بے

جان نظر آتے ہیں تو نہانے کے بعد ایک چوتھائی چائے کا چمچ زیتون کا تیل لے کر

اس میں دو قطرے لیمن کے ملا کر تیلے بالوں میں مساج کریں اس سے خشکی دور ہو

جائے گی اور بال چمکدار ہو جائیں گے۔

**برتنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے:** نان اسٹک کے برتنوں کو خراب ہونے سے

بچانے کے لیے تھوڑا سا اسلاد کا تیل لے کر نان اسٹک کے برتنوں پر ملیں۔ اس سے

ان کی پائش محفوظ رہے گی۔

**جوتوں کی پائش کے لیے:** کیلے کا چھلکا چمڑے کے جوتوں پر ملیں۔ اس عمل سے

جوتوں کی پائش دیر تک محفوظ رہے گی۔

**بلیک ہیڈز ختم کرنے کے لیے:** چہرے پر بلیک ہیڈز ہو گئے ہیں تو پریشان

ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کاٹ کر فرج میں رکھ دیں، جب خوب بخ ہو جائیں

تو انہیں چہرے پر ملیں۔ جو بلیک ہیڈز وہ نکل جائیں گے اور چہرہ صاف و شفاف

ہو جائے گا۔

تاج پوشی کا دن ہے۔ خالق اکبر نے 18 ہزار مخلوقات اور ان کے لیے الگ

دنیا بسائی ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو خداوند عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ مختصر عدد 9 کا تعلق انسانی زندگی سے مزید

قریب سے دیکھتے ہیں۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس

امت کے بہتر (73) فرتے ہیں اور ان میں سے بہتر (72) فرتے گمراہ

ہوں گے۔ زمین کو 360 درجات میں بانٹا گیا ہے۔ زاویہ قائمہ 90

ڈگری پر۔ لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ پاکستانی حکومت

18 سال سے کم عمر افراد کو خود مختار تسلیم نہیں کرتی۔ جواہرات میں (9) نورتن

مشہور ہیں۔ ظرف زماں پر غور کریں تو وقت اپنی تقسیم کے ہر زاویے سے عدد

9 کا حکوم دکھائی دیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے؛ 60 سینکڑا ایک منٹ ہوتا ہے اور

60 منٹ کا ایک گھنٹہ۔  $60 \times 60 = 3600$  یعنی ایک گھنٹے میں کل چھتیس سو

سینکڑ پائے جاتے ہیں اور مفرد عدد 9 بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دس مقدس

راتوں کی قسم کھائی، وقت نکالا تو مفرد عدد 9 بنا! موسیٰ علیہ السلام چالیس دن

کے لیے لوگوں کے ہمراہ طور پر گئے، کل وقت کا مفرد عدد 9 بنا۔ چالیس کی

بجائے ستر دن طور پر گزارے، تمام وقت کا مفرد عدد 9 بنا! قیامت کا دن

پچاس ہزار سال کا ہوگا، کل وقت کا عدد 9 بنا (زمینی پیمانے کی زو سے)!

ایک دن، ہفتہ، دہائی، مہینہ، سال، دس سال اور صدی کا کل وقت

نکالیں تو عدد 9 کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں زبان گنگ ہو جاتی

ہے۔ قلم ٹھک جاتا ہے! شعور کی پرواز ختم جاتی ہے! المختصر عدد 9 تئویرٹمس

عصمت ہے۔ اس کا نورانی طلسم، کرشماتی تو تیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاوادی

ہیں، مشکلات سے نجات کی ضمانت ہیں۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

مدینۃ الزحانیت، جامعہ حسنیہ علیہ السلام،  
دار نمبر 13، کروڑ لعل حسین، ضلع لیڈ (بجانب)

Ph: 0606 811103, 030145778467, 0333 4578467

عمل تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا

خاص شرعی حاجات کے لئے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر تہیت

کر کے تسبیح پڑھتا پڑھتی ہوں (قربتہ الا للہ) پھر 512 مرتبہ یعنی

5 تسبیحات اور مزید 12 مرتبہ تلاوت کرے پھر امام زمانہ و آئمہ طاہرین کے

وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاء اللہ حکم پروردگار کا میاں ہوگی۔



# جفر کاشف الاسرار

اڈالا لاکھ حمد و ثناء ہے۔ اس ذات بابرکات علیٰ کُل شیبہ قدیو کی جس نے اس مشہد خاک کو مرتبہ اشرف المخلوقات عطا فرما کر تمام مخلوقات ارض و سما میں ممتاز فرمایا۔ پھر ہزاروں درود و سلام ہوں ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام مخلوقات کے لئے سرِ ابراہیم بن کر تشریف لائے۔ جن کی ذات مبارکہ اور ان کی آل و اولاد کے توسط سے فیوض و برکات عالم میں چار سو برس رہے ہیں۔

آزاں بعد عرض ہے کہ میری ذاتی طور پر ہر سال کے لیے یہی کوشش رہی ہے کہ بحر جفر سے کوئی نادر اور اچھوتا گرانقدر علمی موتی اپنے ملک کے مدبر فلاسفر اور دقیقہ شناس اذہان کے لئے پیش کروں۔ جس سے ان کے علمی ذوق کی مکما حقیقی ہو۔ زیر نظر قاعدہ جفر بلاشبہ نہایت علمی قسم کا قاعدہ ہے۔ جو اپنے اندر سمندر جیسی وسعت رکھتا ہے۔ سوال مرکزی ہو یا محوری۔ اجتماعی نوعیت کا ہو یا انفرادی۔ خصوصاً روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل کا حل بتلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ میری تیس سالہ علمی ریسرچ میں یہ قاعدہ خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ تمام موٹین بھر پور مستفید ہوں۔ شرح لکھ رہا ہوں۔

## تشریح قاعدہ

(۱) اپنا سوال جامع اور مختصر پیرائے میں لکھیں اور وقت سوال نوٹ کر لیں۔

(۲) جنتی میں اس تاریخ اور وقت میں دیکھیں کہ کونسی منزل قمری ہے۔

نوٹ: اٹھائیس منازل قمری ہیں اور ان سے منسوبہ اٹھائیس ہی اباجد ہیں۔

ان اباجد کی تفصیل میں اپنی کتاب آفتاب جفر حصہ دوم کے صفحہ نمبر ۹۴ پر لکھ چکا ہوں۔ تاہم کسی صاحب کو ان اباجد کو وضع کرنے میں دقت ہو تو یہ لکھا، جو ابی لفاظی مجھے بھیج کر اباجد کی جدا ڈال منگوا سکتے ہیں۔ (مفت۔ بلا فیس)

(۳) اپنا سوال الگ الگ حروف میں لکھیں (بسط حرفی) دوسری سطریں ہر حرف کا مرتبہ اباجد قمری نیچے لکھیں۔ یعنی یہ حرف اباجد میں کتنے نمبر پر واقع ہے۔

## جدول مراتب قمری یہ ہے

حروف اباجد	ا	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
ابجدی مراتب	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
حروف اباجد	س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
ابجدی مراتب	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸

(۴) وقت سوال جو منزل قمری چل رہی تھی۔ اس سے منسوبہ اباجد کے مراتب سے حروف کو بدل دیں۔ مثلاً اباجد قمری میں ہمارا حرف "س" ہے۔ قمری مرتبہ ۱۵ ہے۔

فرض کیا منزل قمری "طوفانہ" تھی۔ اس سے منسوبہ اباجد ملتق ہے۔ اس میں ۱۵ نمبر پر "ن" درج ہے۔ چنانچہ ہم نے "س" کو "ن" سے بدل دیا۔

منزل قمری	شرطین	بطین	ثیا	دبران	ہمقہ	ہمہ	ذراعہ	نثرہ	طرفہ	جبہ	زہرہ	صرفہ	عوا	ساک
منسوبہ اباجد	ابجد	اجہر	ادزی	اعظم	اوکح	ازمق	احست	اطفد	ابلق	اکح	الثو	الط	انظ	اسح

## نام منازل قمری اور ان سے منسوبہ ابجد

منزل قمری	غفرہ	زبانہ	اکلیل	قلب	شولہ	نعائم	بلدہ	ذابح	بلعہ	سعود	اضیہ	مقدم	موخر	رشا
منسوبہ ابجد	اعص	افطہش	اصرخ	اقظظ	ارکب	امحمد	النج	الثلک	انحن	اوشف	انعر	اظلاث	اغطص	ابجد

منزل قمری سے منسوبہ ابجد سے بلحاظ مراتب تبادلہ کے بعد جو شرطے گی۔ اس میں آپ کے سوال کے عین مطابق جواب جھلک رہا ہوگا۔ اردو زبان میں دو یا تین حروف کو مجاز حروف سے تبادلہ دے کر جواب بنانا پڑتا ہے۔ ۸۰ فی صد سطر خود ناطق آتی ہے اور یہی قاعدہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔

آپ اس جہزی کلیہ سے ہمہ قسم کے سوالات حل کر سکتے ہیں مثلاً معاملات پیار محبت۔ شادی بیاہ۔ روزگار۔ بیرون ملک سفر۔ ترقی و تبادلہ۔ کاروباری بندش کے اسباب۔ لائری کے ذریعے انعام۔ موافق و ناموافق امورات۔ کسی خواہش کا پورا ہونا یا نہ ہونا۔ کشائش رزق۔ کامیابی کے راز وغیرہ وغیرہ۔ اب دو مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔

### مثال نمبر 1

یا علیم: کیا ذیابیطس (شوگر) کا علاج ہے؟ (منزل قمری زہرہ ابجد الشو)

سوال بطحرفی	ک	ی	ا	ذ	ی	ا	ب	ی	ط	س	ک	ا	ع	ل	ا	ج	ھ	ی
مراتب قمری	۱۱	۱۰	۱	۲۵	۱۰	۱	۲	۱۰	۹	۱۵	۱۱	۱	۱۶	۱۲	۱	۳	۵	۱۰
ابجد الشو	ظ	ع	ا	م	ع	ا	ل	ع	ھ	س	ظ	ا	ض	ی	ا	ث	ف	ع
نظرہ ہم رتبہ	۲	ع	ا	۲	ع	ا	ل	ج	ھ	س	۲	ا	ح	ی	ا	ن	ف	ع
	عام	معالجہ	اسم	حیثی	نافع													

یعنی اسمائے الہیہ یا حیثی یا نافع اس کا مقبول عام علاج (معالجہ) ہے۔ واللہ اعلم

### مثال نمبر 2

یا علیم: شرفِ رحل کے فوائد کیا ہیں؟ (منزل قمری دربان ابجد اھطم)

سوال بطحرفی	ش	ر	ف	ز	ح	ل	ک	ی	ف	و	ا	ی	د	ک	ی	ا	ھ	ی	ن
مراتب قمری	۲۱	۲۰	۱۷	۷	۸	۱۲	۱۱	۱۰	۱۷	۶	۱	۱۰	۳	۱۱	۱۰	۱	۵	۱۰	۱۳
ابجد الشو	ظ	ث	ک	ذ	ب	ص	ن	ی	ک	ش	ا	ی	م	ن	ی	ا	ف	ی	ض
نظرہ ہم رتبہ	۲	ث	ب	ت	ب	ص	ن	ی	ک	ش	ا	ی	۲	ن	ی	۲	ف	ی	ض
	ثبت	نصیب	کھائی	میں	فیض														

یعنی اس کے شرف میں نصیب کشائی (بندش رکاوٹ کھولنا) کے عملیات تیار کر کے مثبت فیض لیا جاسکتا ہے۔ مومنین سے التماس ہے کہ 29 سال کے بعد سیارہِ رحل کا شرف 2011 میں آ رہا ہے۔ اپنے گرد و پیش کسی مستعد عامل سے رابطہ کر کے اس سعد ترین وقت سے ضرور استفادہ کریں۔

نوٹ: ہم سے کسی ذاتی قسم کے سوال کا جواب صادق آل محمد کے مقدس علم (علم جعفر) کی روشنی میں بذریعہ خط یا فون پر لیتا جا رہا ہے تو۔ 100 روپے فی سوال فیس ادا کر کے لے سکتے ہیں۔ فون: 0454 209131 موبائل: 0333 6801653, 0300 6011925

پتہ برائے خط و کتابت: ایم غلام عباس اعوان (جفار) سب آفس ہفت روزہ ایکشن گجر مارکیٹ نزد الفلاح بینک جوہر آباد، ضلع خوشاب۔



# جادو حسد سفلیات اور شرف شن سیارگان/الوح زائچہ

ادھر پڑھتیں

غلام رضا عسکری اعوان

0333 7014915

کو سحر زدہ پر مسلط کرتے ہیں۔ ☆ **مریخ** : سے منسوب سفلی مونکلات و شیاطین خونخواری، امراض، حرارت بدنی میں بدلاؤ، نسیں اور نسون کا جسم میں اکٹھا ہونا، پٹھے، بلڈ پریشر اور غصہ کو سحر زدہ پر مسلط کیا جاتا ہے۔ ☆ **عطارد** : سے منسوب سفلی مونکلات و شیاطین، اعصابی دردیں و نظام، متحرک دردیں، نسیان یادداشت کی کمزوری، بادی کالیف، سحر زدہ پر جادو کرنے والا مسلط کرتا ہے ☆ **مشتری** : سے منسوب سفلی مونکلات و شیاطین، گھٹن، ریزھ کی ہڈی میں دردیں، سر میں اور دماغ میں جکڑن اور رد کی کسی کیفیت سحر

زدہ پر مسلط کی جاتی ہیں۔ ☆ **زہرہ** : سے منسوب سفلی مونکلات و شیاطین، مادہ تولید اور بندش اولاد، بے راہ روی عیش و نشاط و منشیات کے ساتھ عورت بازی کی کیفیت جادو کے ذریعہ سے مسلط کی جاتی ہیں۔

☆ **زحل** : ہڈیاں جوڑ، کہنہ و پچیدہ امراض، کینسر السر ہڈیوں میں کالیف جادو سے ہو جاتی ہیں۔ ایسا اکثر سالوں کے ساتھ دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض کو جسمانی عارضے تو ہیں لیکن جدید میڈیکل کی تمام رپوشیں اُن علامات کی نفی کرتی ہیں۔ اگر مرض تشخیص کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ میں نے ان تمام سالوں کا مشاہدہ کیا اور ان میں درج بالا کالیف کو منسوبی ستاروں کی ساعتوں میں آنے والے سالوں میں اکثر صد فی صد تک دیکھا ہے۔ میں جادو گھنی کے لئے صدقات اور منسوبہ ستاروں کی الواح اور نقوش سے ہی ایسے سالوں کا علاج کرتا ہوں۔ ایسے افراد جو کہ ساڑھتی سے متاثر ہوتے ہیں یا زحل زائچہ میں دورا کبریا اور اصغر میں ہو تو ایسے افراد پر جادو نوٹہ اور حسد کے کئی ایک وار ہوتے ہیں۔ بقول استاد محترم زحل کی نحوست بذات خود ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ روزی اور روزگار کی بندش فی زمانہ ایسا عمل ہے جو ہر حاسد اپنے دشمن پر کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ کسی کو ذلیل و خوار کرنا ہو تو اسکی معیشت کے راستے بند کر دو وہ انتہائی مجبور ہو جائیگا۔

سال 2011 اس حوالے سے زیادہ خوش نصیب بھی ہے کہ اس سال چھ ستارے، شمس، قمر، عطارد، زہرہ، اور مریخ اور زحل شرف یافتہ ہو گئے۔

قارئین امامیہ جنتی! اسلام علیکم۔ صد شکر رب پاک کا اور محمدین میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نظر عنایت اہل بیت و چہارہ مصومین علیہ السلام کی ہے کہ کے آج امامیہ جنتی کے اوراق پر ایک بار پھر تحریر لے حاضر ہوں۔ اس عالم سفلی میں کارگاہ دنیا میں خیر و شر کی جنگ ازل سے رہی ہے اور شاید ابد تک جاری رہے گی تا وقت کہ قائم آل محمد حجت علیہ السلام اس دنیا کو شر سے پاک کر دیں گے اور ہر جانب خیر کا دور دورا ہوگا۔ (خدا جلدا زجلہ حضرت جت خدا کا ظہور قائم فرما۔ آمین۔)

2008 کی امامیہ جنتی میں:۔ جنات آسیب مریخ اور نظر بد، 2009 میں چھل کاف اور 2010 میں زائچہ سے بیماریوں کی تحقیق کے مضامین کی یہ چوٹی کڑی ہے۔ جادو ہے کیا اور اسکی حقیقت کیا ہے؟ جادو علوم شرکی وہ شاخ ہے جو عقل انسانی و نفسیات انسانی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ ایسا فرد جو سحر زدہ ہو وہ نفسیاتی طور پر خود کو مریض سمجھتا ہے اور درد کالیف جسم میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ خوف اور سوسے سحر زدہ کو زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر خوابوں میں موذی جانوروں جھپکی سانپ پھو اور زہریلے خونخو جانور کتا بلی بھیریا اور کن کچھورے جیسے حشرات و جانور اور حرام پرندے چیل کو اُلو کا نظر آتا وہ ظاہری علامتیں ہیں جو کہ جادو زدہ فرد کے خوابوں میں آتی ہیں۔ جسمانی طور پر بوجھ و وزن گھٹن اور بد بو کا احساس کالیف کا تواتر سے وقت مخصوص پر یا کسی خاص سترے کی ساعت میں بار بار ہونا غصہ چڑچا پن ضد اور مایوسی ایسی علامات ہیں جو کہ فزیکی سحر یا جادو زدہ فرد کے جسم میں محسوس ہوتی ہیں۔ 2010 کے مضمون میں جو علامات اور بیماریاں ستاروں کی منسوبات کے حوالے سے الگ الگ جدا گانہ طور پر واضح کی گئیں وہی علامت اس ستارے سے منسوب سفلی شیاطین و مونکلات یا جادو ہونے کی صورت میں سحر زدہ کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ ☆ **شمس** : سے منسوب سفلی مونکلات و شیاطین اگر ساحر کسی فرد پر بزریرہ جادو مسلط کرتا ہے تو دل، ہیٹ، سر، دماغ، جلد، عقل و شعور متاثر ہوتے ہیں۔ ☆ **قمر** : سے منسوب سفلی مونکلات و شیاطین، جنس، رسولیاں، دماغی و ذہنی مسائل، آلات بول اور خوف

سوائے مشتری کے۔ مشتری کا شرف انشاء اللہ 2014 میں متوقع ہوگا۔ ان شرفات سے استفادہ کرنے والے افراد کو چاہئے کہ ایک مشتری کے نقش ترتیب دیں جس میں چھ ستاروں کے شرفات میں ایک ہی مقصد کے لئے شرف بنایا جائے یا اگر آپ کی تاریخ پیدائش درست ہے تو اپنے زائچہ کے مطابق جو جو ستارہ جن منسوبیات زندگی سے منسلک ہو ان معاملات زندگی کے لئے معقول اور مناسب آیات سے ہر ستارے کے شرف کا نقش ایک ہی پلٹ پر الگ الگ ترتیب دیں۔ اور چھ ستاروں کے شرف کی ایک ہی مشترک لوح ترتیب دے لیں۔ جو کہ آپ کے زائچہ میں موجود ستاروں کی منسوبیات کو مد نظر رکھ کر بنائی جائے تاکہ آپ کا رہائے زندگی میں کسی رکاوٹ سحر جادو کو توڑتے ہوئے اپنا کام باحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ نقش اس طرح بنانا ہے میں مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔

نام سائل۔ غلام رضا عسکری بن 1116 کل اعدا۔ 3600 ان اعداد کو بحیثیت سائل کے الگ لکھیں ہر ستارے کے شرف میں ان کا شمار ہوگا۔ سائل کا طالع برج 15.01.1971 کے حساب سے جدی بناتا ہے لہذا پہلا گھر عزت و وقار کامیابیوں کے لئے دوسرا کاشائش کے لئے۔ حاکم ستارہ پہلے اور دوسرے گھر کا زحل بننا ہے۔ آیت۔ **اَفْتَحْ أَبْوَابَ فَتْحِكَ**

**لِي يَا مُفْتِحُ الْأَبْوَابِ** اعداد 1631+3600=4231 تیسرا گھر قریبی تعلقات ہمسایہ و چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے بارہواں گھر خفیہ تعلقات دشمنوں کے حوالے سے۔ ستارہ مشتری دونوں گھروں کا حاکم۔ آیت ل۔ **وَ أَضِلُّوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ**

اعداد 881+3600=4481 چوتھا گھر حمل اور گیارہواں گھر عقرب ہے حاکم ستارہ مریخ ہے۔ چوتھا گھر گھریلو امور زمین جانکد اور زراعت اور گیارہواں امید و خواہشات دوست احباب کا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کے اعداد لئے اور جذب القلب کے لئے آیت **وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** اعداد 885+2389+3600=6874 پانچویں اولاد انعام عشق محبت اور دسویں کام کاروبار عزت شرف کیریئر کا گھر دسواں میزان دونوں کا حاکم زہرہ

ہے۔ اولاد کے لئے آیت **رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ** اور عزت و رفعت کے لئے آیت یا **إِلَهَ الْأَلْهَةِ الرَّفِيعُ جَلَالُهُ** اعداد آیات لئے۔

☆ چھپے جوڑ اور نویں سنبلہ کا حاکم عطارد ہے ملازمین نوکری صحت دشمنوں پر غلبہ چھپے اور علم و فضل دین اور اعلیٰ تعلیم قسمت نویں گھر سے منسوب ہے۔ آیات **سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ** اور غلبہ کے لئے **وَاللَّهُ غَالِبٌ، عَلَىٰ أَمْرِهِ** اعداد آیات۔ 817+1461+3600=5878 ہوگا۔ ساتویں زوجہ سماجی و معاشرتی تعلقات اور سکول کالج لائف کا گھر ہے ستارہ قمر برج سرطان بننا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 14 **زَيْنَ لِلنَّاسِ .. تا ....**

**وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ** اعداد لئے۔ 9158+3600=12758 شش آٹھویں کا حاکم موت خوف نقصان و راحت اور زوجہ سے مانی فوائد کا حصول آیت ل۔ سورۃ نور آیت 330 کے اعداد لئے۔ 2186+3600=5786 ہر ستارے کے شرف میں جب آپ اعداد بھریں گے تو کل میزان 12 سے تقسیم کریں گے اور حاصل کو پہلے خانہ میں رکھیں اور ہر خانہ میں دو گنا کر کے لکھیں جبکہ کسر جو بچی بچے گی وہ آپ خانہ نمبر چھ میں اضافہ کر دیں گے تو میزان آجائے گا۔ میں نے یہاں مثال میں مختلف منسوبیات کے لئے مختلف آیات کا انتخاب کیا ہے اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہ ہو تو یا کسی خاص مسئلے سے آپ دو چار ہیں جیسے جادو سحر عملیات و سفلیات تو آپ چھ کے چھ ستاروں کے نقوش ایک ہی مقصد رکھ کر پڑھیں۔ انشاء اللہ کسی بھی قسم کا سحر یا جادو آپ پر اثر انداز نہ ہوگا۔ اور 2011 کے چھ شرفات کی برکت سے آپ ہر ستارے سے منسوب سفلی و علوی مونکلات و شیاطین سے مقابلہ کے لئے ایک ہی جامع اور پراثر نقش اپنے پاس رکھیں گے۔ ستاروں کے شرفات کے اوقات امامیہ جنتی میں دئے گئے ہیں صرف زحل کے اوقات میں یہاں دے رہا ہوں۔ چونکہ زحل کا شرف شمس سے قرآن کی وجہ سے ناقص الاثر ہے لہذا اسٹیٹ اور تسدیس شمس کی جو زحل سے بنے گی ان اوقات میں آپ زحل کے نقوش بنا سکیں گے تو شرف کی قوت کا کمال آپ کو نقوش



## نسخہ جات تیربھد

### نمبر 1: جوڑوں کے درد کے لئے:

اشیاء: تخم حزل 10 تولہ سورنجان شیریں 5 تولہ  
سورنجان تلخ 5 تولہ

توکیب: ان سب کو سفوف بنالیں۔ پھر اس پر سورۃ ابراہیم کی آیت 25 سے 26 تک (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ سَعِيْرَةٍ مِّنْ قُرْآنٍ تَكْبَرُ) 900 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔

خوراک: 2 ماشمچ، دوپہر، شام تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ دوران خوراک دودھ کا استعمال ضرور کریں۔

### نمبر 2: لیکوریا کا شرطیہ علاج:

نسخہ: صندل کا پورہ 2 تولہ مائیں 2 تولہ  
کھٹا 2 تولہ موچس 2 تولہ

ان تمام چیزوں کو پوس کر سفوف بنالیں اور 6 ماشمچ ہمارے شربت انار کے ساتھ 14 دن استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ املی کے بیج ضرور کھائیں۔ ضروری ہے کہ اس تمام دوائی پر سورۃ بقرہ مع الحمد شریف کے دم کریں۔

### نمبر 3: دمہ کے مرض کے لئے:

نسخہ: باجرہ 1 پاؤ  
طباشیر آسانی رنگ کی (انڈیا والی) 50 تولہ

توکیب: دونوں کو باریک سفوف بنالیں اور اس پر حوالا ثانی 5000 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر یہ سفوف کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ ایک ماشمچ، شام پانی کے ساتھ مسلسل 21 دن کھائیں۔ پانی ہمیشہ گھڑے (مٹکے) کا استعمال کریں۔

## اکثیر نسخہ برائے عارضہ قلب

1- ایک چائے کا کپ ادک کارس۔ 2- ایک چائے کا کپ بسن کارس۔  
3- سیب کا اصلی دسی سر کا ایک کپ۔ 4- بیڑی کا شہد ایک کپ۔ 5- لیون کا رس آدھا کپ۔ سارے اجزاء کس کس کے رکھ لیں اور دو ٹیبل سپون (کھانے والے چمچے) آدھا گلاس پانی میں گھول کر صبح، دوپہر اور شام کھانے کے بعد درود شریف اور حوالا ثانی کا ورد کر کے استعمال کریں۔ انشاء اللہ مولا کی برکت سے شفاء ہوگی۔ جوڑوں کے درد، شوگر اور زخم کیلئے Aloe vera (گھیکوار) کا گودا کھائیں اور زخم پر لگائیں۔ انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔

ڈاکٹر میجر مسز کاظمی راولپنڈی

0333 5234125, 0333 6213612

## علاج بندش

ڈاکٹر ریاض الرحمن  
پکوال

قارئین:- ارادہ تو تھا کہ کسی علم کو موضوع بحث بناتا مگر لوگوں کے سوالوں نے اتنا پریشان کر دیا کہ اصل موضوع کو بھول گیا۔ بندش کا الٹا پناہ فر دیا وظیفہ ہے۔ کاروبار میں بندش، شادی نکاح میں بندش، اولاد میں بندش، جانکاد کی تقسیم میں بندش، اشیاء کی خرید و فروخت میں بندش، آخراتی بندشیں کیوں؟

اس کا جواب میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہے کہ انسان ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے۔ اپنے کیے کو کچھ سمجھتا نہیں۔ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا اس کی عادت ہے۔ حالانکہ بقول امام غزالی کے "برا انسان اپنے گنہ گروں کی کوزی کا تانا بانا بنا رہتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا کیونکہ جالے میں ہوا کے جھونکے، پھولوں کی خوشبو، ستاروں کا نور، سورج کی تپش ملتی ہے۔ جو نبی جالا گہرا اور مضبوط ہو جائے تو انسان اس میں گھر جاتا ہے۔ اسے ہوا نہیں ملتی جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پھولوں کی مہک کی جگہ بدبو آتی ہے اور تفکرات کے سائے میں گھر کر نیم حکیم کے پاس جاتا ہے جو اسے وہم میں ڈال کر اسے ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹٹ جانے کے بعد یہ کسی پیر، فقیر اور ماہر عالم کو ڈھونڈتا ہے جو اسے سمجھاتے ہیں، دلاسہ دیتے ہیں۔ اسے وہ چوٹھت بتاتے ہیں جہاں خزانے ہی خزانے ہیں۔ آئیے استخارہ کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں کہ بندش ہے یا نہیں؟

### استخارہ کا طریقہ:

باوضو ہو کر بعد نماز ظہر قبلہ رخ ہو جائیں 6 پرچیاں ایک ساز کی کاٹ لیں اور انہیں ملا لیں۔ تین پر "بندش" لکھیں اور تین پر "کشود"۔ دو رکعت نماز نفل پڑھ کر استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیۃ ۲۱ بار پڑھیں۔ اور ہاتھ پر دم کر کے ملی ہوئی پرچوں میں سے چار پرچیاں اٹھالیں۔ اگر تین پر بندش لکھا ہے تو یقیناً بندش ہے اور نہ لکھا ہو بلکہ کشود لکھا ہو تو آپ کی "تقدیر" کھلی ہے۔ اگر دو پر بندش یا دو پر کشود لکھا ہے تو ایک پرچی اور اٹھالیں۔ ان کے مطابق عمل کریں۔

### بندش کا توڑ:

1- امرتہ درود شریف  
2- امرتہ الحمد شریف 3- ۲۱ مرتبہ آیت الکرسی  
4- امرتہ سورہ یسین 5- ۳ مرتبہ قل یا ایہا الکافرون  
6- ۳ مرتبہ تبتوں قل 7- ایک مرتبہ اَلَمْ سے لے کر ہَمْ المفلحون  
8- دوبارہ الحمد شریف ایک مرتبہ  
یہ عمل روزانہ کریں پانی پر دم کر کے مکان، دکان پر چھڑکیں۔ جانوروں کو پلائیں، مریض کو پلائیں۔ انشاء اللہ ۱۱، ۲۱، ۳۱، ۴۱، ۵۱، ۶۱، ۷۱، ۸۱، ۹۱، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۵۱، ۱۶۱، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۹۱، ۲۰۱، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۳۱، ۲۴۱، ۲۵۱، ۲۶۱، ۲۷۱، ۲۸۱، ۲۹۱، ۳۰۱، ۳۱۱، ۳۲۱، ۳۳۱، ۳۴۱، ۳۵۱، ۳۶۱، ۳۷۱، ۳۸۱، ۳۹۱، ۴۰۱، ۴۱۱، ۴۲۱، ۴۳۱، ۴۴۱، ۴۵۱، ۴۶۱، ۴۷۱، ۴۸۱، ۴۹۱، ۵۰۱، ۵۱۱، ۵۲۱، ۵۳۱، ۵۴۱، ۵۵۱، ۵۶۱، ۵۷۱، ۵۸۱، ۵۹۱، ۶۰۱، ۶۱۱، ۶۲۱، ۶۳۱، ۶۴۱، ۶۵۱، ۶۶۱، ۶۷۱، ۶۸۱، ۶۹۱، ۷۰۱، ۷۱۱، ۷۲۱، ۷۳۱، ۷۴۱، ۷۵۱، ۷۶۱، ۷۷۱، ۷۸۱، ۷۹۱، ۸۰۱، ۸۱۱، ۸۲۱، ۸۳۱، ۸۴۱، ۸۵۱، ۸۶۱، ۸۷۱، ۸۸۱، ۸۹۱، ۹۰۱، ۹۱۱، ۹۲۱، ۹۳۱، ۹۴۱، ۹۵۱، ۹۶۱، ۹۷۱، ۹۸۱، ۹۹۱، ۱۰۰۱، ۱۰۱۱، ۱۰۲۱، ۱۰۳۱، ۱۰۴۱، ۱۰۵۱، ۱۰۶۱، ۱۰۷۱، ۱۰۸۱، ۱۰۹۱، ۱۱۰۱، ۱۱۱۱، ۱۱۲۱، ۱۱۳۱، ۱۱۴۱، ۱۱۵۱، ۱۱۶۱، ۱۱۷۱، ۱۱۸۱، ۱۱۹۱، ۱۲۰۱، ۱۲۱۱، ۱۲۲۱، ۱۲۳۱، ۱۲۴۱، ۱۲۵۱، ۱۲۶۱، ۱۲۷۱، ۱۲۸۱، ۱۲۹۱، ۱۳۰۱، ۱۳۱۱، ۱۳۲۱، ۱۳۳۱، ۱۳۴۱، ۱۳۵۱، ۱۳۶۱، ۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱، ۱۴۰۱، ۱۴۱۱، ۱۴۲۱، ۱۴۳۱، ۱۴۴۱، ۱۴۵۱، ۱۴۶۱، ۱۴۷۱، ۱۴۸۱، ۱۴۹۱، ۱۵۰۱، ۱۵۱۱، ۱۵۲۱، ۱۵۳۱، ۱۵۴۱، ۱۵۵۱، ۱۵۶۱، ۱۵۷۱، ۱۵۸۱، ۱۵۹۱، ۱۶۰۱، ۱۶۱۱، ۱۶۲۱، ۱۶۳۱، ۱۶۴۱، ۱۶۵۱، ۱۶۶۱، ۱۶۷۱، ۱۶۸۱، ۱۶۹۱، ۱۷۰۱، ۱۷۱۱، ۱۷۲۱، ۱۷۳۱، ۱۷۴۱، ۱۷۵۱، ۱۷۶۱، ۱۷۷۱، ۱۷۸۱، ۱۷۹۱، ۱۸۰۱، ۱۸۱۱، ۱۸۲۱، ۱۸۳۱، ۱۸۴۱، ۱۸۵۱، ۱۸۶۱، ۱۸۷۱، ۱۸۸۱، ۱۸۹۱، ۱۹۰۱، ۱۹۱۱، ۱۹۲۱، ۱۹۳۱، ۱۹۴۱، ۱۹۵۱، ۱۹۶۱، ۱۹۷۱، ۱۹۸۱، ۱۹۹۱، ۲۰۰۱، ۲۰۱۱، ۲۰۲۱، ۲۰۳۱، ۲۰۴۱، ۲۰۵۱، ۲۰۶۱، ۲۰۷۱، ۲۰۸۱، ۲۰۹۱، ۲۱۰۱، ۲۱۱۱، ۲۱۲۱، ۲۱۳۱، ۲۱۴۱، ۲۱۵۱، ۲۱۶۱، ۲۱۷۱، ۲۱۸۱، ۲۱۹۱، ۲۲۰۱، ۲۲۱۱، ۲۲۲۱، ۲۲۳۱، ۲۲۴۱، ۲۲۵۱، ۲۲۶۱، ۲۲۷۱، ۲۲۸۱، ۲۲۹۱، ۲۳۰۱، ۲۳۱۱، ۲۳۲۱، ۲۳۳۱، ۲۳۴۱، ۲۳۵۱، ۲۳۶۱، ۲۳۷۱، ۲۳۸۱، ۲۳۹۱، ۲۴۰۱، ۲۴۱۱، ۲۴۲۱، ۲۴۳۱، ۲۴۴۱، ۲۴۵۱، ۲۴۶۱، ۲۴۷۱، ۲۴۸۱، ۲۴۹۱، ۲۵۰۱، ۲۵۱۱، ۲۵۲۱، ۲۵۳۱، ۲۵۴۱، ۲۵۵۱، ۲۵۶۱، ۲۵۷۱، ۲۵۸۱، ۲۵۹۱، ۲۶۰۱، ۲۶۱۱، ۲۶۲۱، ۲۶۳۱، ۲۶۴۱، ۲۶۵۱، ۲۶۶۱، ۲۶۷۱، ۲۶۸۱، ۲۶۹۱، ۲۷۰۱، ۲۷۱۱، ۲۷۲۱، ۲۷۳۱، ۲۷۴۱، ۲۷۵۱، ۲۷۶۱، ۲۷۷۱، ۲۷۸۱، ۲۷۹۱، ۲۸۰۱، ۲۸۱۱، ۲۸۲۱، ۲۸۳۱، ۲۸۴۱، ۲۸۵۱، ۲۸۶۱، ۲۸۷۱، ۲۸۸۱، ۲۸۹۱، ۲۹۰۱، ۲۹۱۱، ۲۹۲۱، ۲۹۳۱، ۲۹۴۱، ۲۹۵۱، ۲۹۶۱، ۲۹۷۱، ۲۹۸۱، ۲۹۹۱، ۳۰۰۱، ۳۰۱۱، ۳۰۲۱، ۳۰۳۱، ۳۰۴۱، ۳۰۵۱، ۳۰۶۱، ۳۰۷۱، ۳۰۸۱، ۳۰۹۱، ۳۱۰۱، ۳۱۱۱، ۳۱۲۱، ۳۱۳۱، ۳۱۴۱، ۳۱۵۱، ۳۱۶۱، ۳۱۷۱، ۳۱۸۱، ۳۱۹۱، ۳۲۰۱، ۳۲۱۱، ۳۲۲۱، ۳۲۳۱، ۳۲۴۱، ۳۲۵۱، ۳۲۶۱، ۳۲۷۱، ۳۲۸۱، ۳۲۹۱، ۳۳۰۱، ۳۳۱۱، ۳۳۲۱، ۳۳۳۱، ۳۳۴۱، ۳۳۵۱، ۳۳۶۱، ۳۳۷۱، ۳۳۸۱، ۳۳۹۱، ۳۴۰۱، ۳۴۱۱، ۳۴۲۱، ۳۴۳۱، ۳۴۴۱، ۳۴۵۱، ۳۴۶۱، ۳۴۷۱، ۳۴۸۱، ۳۴۹۱، ۳۵۰۱، ۳۵۱۱، ۳۵۲۱، ۳۵۳۱، ۳۵۴۱، ۳۵۵۱، ۳۵۶۱، ۳۵۷۱، ۳۵۸۱، ۳۵۹۱، ۳۶۰۱، ۳۶۱۱، ۳۶۲۱، ۳۶۳۱، ۳۶۴۱، ۳۶۵۱، ۳۶۶۱، ۳۶۷۱، ۳۶۸۱، ۳۶۹۱، ۳۷۰۱، ۳۷۱۱، ۳۷۲۱، ۳۷۳۱، ۳۷۴۱، ۳۷۵۱، ۳۷۶۱، ۳۷۷۱، ۳۷۸۱، ۳۷۹۱، ۳۸۰۱، ۳۸۱۱، ۳۸۲۱، ۳۸۳۱، ۳۸۴۱، ۳۸۵۱، ۳۸۶۱، ۳۸۷۱، ۳۸۸۱، ۳۸۹۱، ۳۹۰۱، ۳۹۱۱، ۳۹۲۱، ۳۹۳۱، ۳۹۴۱، ۳۹۵۱، ۳۹۶۱، ۳۹۷۱، ۳۹۸۱، ۳۹۹۱، ۴۰۰۱، ۴۰۱۱، ۴۰۲۱، ۴۰۳۱، ۴۰۴۱، ۴۰۵۱، ۴۰۶۱، ۴۰۷۱، ۴۰۸۱، ۴۰۹۱، ۴۱۰۱، ۴۱۱۱، ۴۱۲۱، ۴۱۳۱، ۴۱۴۱، ۴۱۵۱، ۴۱۶۱، ۴۱۷۱، ۴۱۸۱، ۴۱۹۱، ۴۲۰۱، ۴۲۱۱، ۴۲۲۱، ۴۲۳۱، ۴۲۴۱، ۴۲۵۱، ۴۲۶۱، ۴۲۷۱، ۴۲۸۱، ۴۲۹۱، ۴۳۰۱، ۴۳۱۱، ۴۳۲۱، ۴۳۳۱، ۴۳۴۱، ۴۳۵۱، ۴۳۶۱، ۴۳۷۱، ۴۳۸۱، ۴۳۹۱، ۴۴۰۱، ۴۴۱۱، ۴۴۲۱، ۴۴۳۱، ۴۴۴۱، ۴۴۵۱، ۴۴۶۱، ۴۴۷۱، ۴۴۸۱، ۴۴۹۱، ۴۵۰۱، ۴۵۱۱، ۴۵۲۱، ۴۵۳۱، ۴۵۴۱، ۴۵۵۱، ۴۵۶۱، ۴۵۷۱، ۴۵۸۱، ۴۵۹۱، ۴۶۰۱، ۴۶۱۱، ۴۶۲۱، ۴۶۳۱، ۴۶۴۱، ۴۶۵۱، ۴۶۶۱، ۴۶۷۱، ۴۶۸۱، ۴۶۹۱، ۴۷۰۱، ۴۷۱۱، ۴۷۲۱، ۴۷۳۱، ۴۷۴۱، ۴۷۵۱، ۴۷۶۱، ۴۷۷۱، ۴۷۸۱، ۴۷۹۱، ۴۸۰۱، ۴۸۱۱، ۴۸۲۱، ۴۸۳۱، ۴۸۴۱، ۴۸۵۱، ۴۸۶۱، ۴۸۷۱، ۴۸۸۱، ۴۸۹۱، ۴۹۰۱، ۴۹۱۱، ۴۹۲۱، ۴۹۳۱، ۴۹۴۱، ۴۹۵۱، ۴۹۶۱، ۴۹۷۱، ۴۹۸۱، ۴۹۹۱، ۵۰۰۱، ۵۰۱۱، ۵۰۲۱، ۵۰۳۱، ۵۰۴۱، ۵۰۵۱، ۵۰۶۱، ۵۰۷۱، ۵۰۸۱، ۵۰۹۱، ۵۱۰۱، ۵۱۱۱، ۵۱۲۱، ۵۱۳۱، ۵۱۴۱، ۵۱۵۱، ۵۱۶۱، ۵۱۷۱، ۵۱۸۱، ۵۱۹۱، ۵۲۰۱، ۵۲۱۱، ۵۲۲۱، ۵۲۳۱، ۵۲۴۱، ۵۲۵۱، ۵۲۶۱، ۵۲۷۱، ۵۲۸۱، ۵۲۹۱، ۵۳۰۱، ۵۳۱۱، ۵۳۲۱، ۵۳۳۱، ۵۳۴۱، ۵۳۵۱، ۵۳۶۱، ۵۳۷۱، ۵۳۸۱، ۵۳۹۱، ۵۴۰۱، ۵۴۱۱، ۵۴۲۱، ۵۴۳۱، ۵۴۴۱، ۵۴۵۱، ۵۴۶۱، ۵۴۷۱، ۵۴۸۱، ۵۴۹۱، ۵۵۰۱، ۵۵۱۱، ۵۵۲۱، ۵۵۳۱، ۵۵۴۱، ۵۵۵۱، ۵۵۶۱، ۵۵۷۱، ۵۵۸۱، ۵۵۹۱، ۵۶۰۱، ۵۶۱۱، ۵۶۲۱، ۵۶۳۱، ۵۶۴۱، ۵۶۵۱، ۵۶۶۱، ۵۶۷۱، ۵۶۸۱، ۵۶۹۱، ۵۷۰۱، ۵۷۱۱، ۵۷۲۱، ۵۷۳۱، ۵۷۴۱، ۵۷۵۱، ۵۷۶۱، ۵۷۷۱، ۵۷۸۱، ۵۷۹۱، ۵۸۰۱، ۵۸۱۱، ۵۸۲۱، ۵۸۳۱، ۵۸۴۱، ۵۸۵۱، ۵۸۶۱، ۵۸۷۱، ۵۸۸۱، ۵۸۹۱، ۵۹۰۱، ۵۹۱۱، ۵۹۲۱، ۵۹۳۱، ۵۹۴۱، ۵۹۵۱، ۵۹۶۱، ۵۹۷۱، ۵۹۸۱، ۵۹۹۱، ۶۰۰۱، ۶۰۱۱، ۶۰۲۱، ۶۰۳۱، ۶۰۴۱، ۶۰۵۱، ۶۰۶۱، ۶۰۷۱، ۶۰۸۱، ۶۰۹۱، ۶۱۰۱، ۶۱۱۱، ۶۱۲۱، ۶۱۳۱، ۶۱۴۱، ۶۱۵۱، ۶۱۶۱، ۶۱۷۱، ۶۱۸۱، ۶۱۹۱، ۶۲۰۱، ۶۲۱۱، ۶۲۲۱، ۶۲۳۱، ۶۲۴۱، ۶۲۵۱، ۶۲۶۱، ۶۲۷۱، ۶۲۸۱، ۶۲۹۱، ۶۳۰۱، ۶۳۱۱، ۶۳۲۱، ۶۳۳۱، ۶۳۴۱، ۶۳۵۱، ۶۳۶۱، ۶۳۷۱، ۶۳۸۱، ۶۳۹۱، ۶۴۰۱، ۶۴۱۱، ۶۴۲۱، ۶۴۳۱، ۶۴۴۱، ۶۴۵۱، ۶۴۶۱، ۶۴۷۱، ۶۴۸۱، ۶۴۹۱، ۶۵۰۱، ۶۵۱۱، ۶۵۲۱، ۶۵۳۱، ۶۵۴۱، ۶۵۵۱، ۶۵۶۱، ۶۵۷۱، ۶۵۸۱، ۶۵۹۱، ۶۶۰۱، ۶۶۱۱، ۶۶۲۱، ۶۶۳۱، ۶۶۴۱، ۶۶۵۱، ۶۶۶۱، ۶۶۷۱، ۶۶۸۱، ۶۶۹۱، ۶۷۰۱، ۶۷۱۱، ۶۷۲۱، ۶۷۳۱، ۶۷۴۱، ۶۷۵۱، ۶۷۶۱، ۶۷۷۱، ۶۷۸۱، ۶۷۹۱، ۶۸۰۱، ۶۸۱۱، ۶۸۲۱، ۶۸۳۱، ۶۸۴۱، ۶۸۵۱، ۶۸۶۱، ۶۸۷۱، ۶۸۸۱، ۶۸۹۱، ۶۹۰۱، ۶۹۱۱، ۶۹۲۱، ۶۹۳۱، ۶۹۴۱، ۶۹۵۱، ۶۹۶۱، ۶۹۷۱، ۶۹۸۱، ۶۹۹۱، ۷۰۰۱، ۷۰۱۱، ۷۰۲۱، ۷۰۳۱، ۷۰۴۱، ۷۰۵۱، ۷۰۶۱، ۷۰۷۱، ۷۰۸۱، ۷۰۹۱، ۷۱۰۱، ۷۱۱۱، ۷۱۲۱، ۷۱۳۱، ۷۱۴۱، ۷۱۵۱، ۷۱۶۱، ۷۱۷۱، ۷۱۸۱، ۷۱۹۱، ۷۲۰۱، ۷۲۱۱، ۷۲۲۱، ۷۲۳۱، ۷۲۴۱، ۷۲۵۱، ۷۲۶۱، ۷۲۷۱، ۷۲۸۱، ۷۲۹۱، ۷۳۰۱، ۷۳۱۱، ۷۳۲۱، ۷۳۳۱، ۷۳۴۱، ۷۳۵۱، ۷۳۶۱، ۷۳۷۱، ۷۳۸۱، ۷۳۹۱، ۷۴۰۱، ۷۴۱۱، ۷۴۲۱، ۷۴۳۱، ۷۴۴۱، ۷۴۵۱، ۷۴۶۱، ۷۴۷۱، ۷۴۸۱، ۷۴۹۱، ۷۵۰۱، ۷۵۱۱، ۷۵۲۱، ۷۵۳۱، ۷۵۴۱، ۷۵۵۱، ۷۵۶۱، ۷۵۷۱، ۷۵۸۱، ۷۵۹۱، ۷۶۰۱، ۷۶۱۱، ۷۶۲۱، ۷۶۳۱، ۷۶۴۱، ۷۶۵۱، ۷۶۶۱، ۷۶۷۱، ۷۶۸۱، ۷۶۹۱، ۷۷۰۱، ۷۷۱۱، ۷۷۲۱، ۷۷۳۱، ۷۷۴۱، ۷۷۵۱، ۷۷۶۱، ۷۷۷۱، ۷۷۸۱، ۷۷۹۱، ۷۸۰۱، ۷۸۱۱، ۷۸۲۱، ۷۸۳۱، ۷۸۴۱، ۷۸۵۱، ۷۸۶۱، ۷۸۷۱، ۷۸۸۱، ۷۸۹۱، ۷۹۰۱، ۷۹۱۱، ۷۹۲۱، ۷۹۳۱، ۷۹۴۱، ۷۹۵۱، ۷۹۶۱، ۷۹۷۱، ۷۹۸۱، ۷۹۹۱، ۸۰۰۱، ۸۰۱۱، ۸۰۲۱، ۸۰۳۱، ۸۰۴۱، ۸۰۵۱، ۸۰۶۱، ۸۰۷۱، ۸۰۸۱، ۸۰۹۱، ۸۱۰۱، ۸۱۱۱، ۸۱۲۱، ۸۱۳۱، ۸۱۴۱، ۸۱۵۱، ۸۱۶۱، ۸۱۷۱، ۸۱۸۱، ۸۱۹۱، ۸۲۰۱، ۸۲۱۱، ۸۲۲۱، ۸۲۳۱، ۸۲۴۱، ۸۲۵۱، ۸۲۶۱، ۸۲۷۱، ۸۲۸۱، ۸۲۹۱، ۸۳۰۱، ۸۳۱۱، ۸۳۲۱، ۸۳۳۱، ۸۳۴۱، ۸۳۵۱، ۸۳۶۱، ۸۳۷۱، ۸۳۸۱، ۸۳۹۱، ۸۴۰۱، ۸۴۱۱، ۸۴۲۱، ۸۴۳۱، ۸۴۴۱، ۸۴۵۱، ۸۴۶۱، ۸۴۷۱، ۸۴۸۱، ۸۴۹۱، ۸۵۰۱، ۸۵۱۱، ۸۵۲۱، ۸۵۳۱، ۸۵۴۱، ۸۵۵۱، ۸۵۶۱، ۸۵۷۱، ۸۵۸۱، ۸۵۹۱، ۸۶۰۱، ۸۶۱۱، ۸۶۲۱، ۸۶۳۱، ۸۶۴۱، ۸۶۵۱، ۸۶۶۱، ۸۶۷۱، ۸۶۸۱، ۸۶۹۱، ۸۷۰۱، ۸۷۱۱، ۸۷۲۱، ۸۷۳۱، ۸۷۴۱، ۸۷۵۱، ۸۷۶۱، ۸۷۷۱، ۸۷۸۱، ۸۷۹۱، ۸۸۰۱، ۸۸۱۱، ۸۸۲۱، ۸۸۳۱، ۸۸۴۱، ۸۸۵۱، ۸۸۶۱، ۸۸۷۱، ۸۸۸۱، ۸۸۹۱، ۸۹۰۱، ۸۹۱۱، ۸۹۲۱، ۸۹۳۱، ۸۹۴۱، ۸۹۵۱، ۸۹۶۱، ۸۹۷۱، ۸۹۸۱، ۸۹۹۱، ۹۰۰۱، ۹۰۱۱، ۹۰۲۱، ۹۰۳۱، ۹۰۴۱، ۹۰۵۱، ۹۰۶۱، ۹۰۷۱، ۹۰۸۱، ۹۰۹۱، ۹۱۰۱، ۹۱۱۱، ۹۱۲۱، ۹۱۳۱، ۹۱۴۱، ۹۱۵۱، ۹۱۶۱، ۹۱۷۱، ۹۱۸۱، ۹۱۹۱، ۹۲۰۱، ۹۲۱۱، ۹۲۲۱، ۹۲۳۱، ۹۲۴۱، ۹۲۵۱، ۹۲۶۱، ۹۲۷۱، ۹۲۸۱، ۹۲۹۱، ۹۳۰۱، ۹۳۱۱، ۹۳۲۱، ۹۳۳۱، ۹۳۴۱، ۹۳۵۱، ۹۳۶۱، ۹۳۷۱، ۹۳۸۱، ۹۳۹۱، ۹۴۰۱، ۹۴۱۱، ۹۴۲۱، ۹۴۳۱، ۹۴۴۱، ۹۴۵۱، ۹۴۶۱، ۹۴۷۱، ۹۴۸۱، ۹۴۹۱، ۹۵۰۱، ۹۵۱۱، ۹۵۲۱، ۹۵۳۱، ۹۵۴۱، ۹۵۵۱، ۹۵۶۱، ۹۵۷۱، ۹۵۸۱، ۹۵۹۱، ۹۶۰۱، ۹۶۱۱، ۹۶۲۱، ۹۶۳۱، ۹۶۴۱، ۹۶۵۱، ۹۶۶۱، ۹۶۷۱، ۹۶۸۱، ۹۶۹۱، ۹۷۰۱، ۹۷۱۱، ۹۷۲۱، ۹۷۳۱، ۹۷۴۱، ۹۷۵۱، ۹۷۶۱، ۹۷۷۱، ۹۷۸۱، ۹۷۹۱، ۹۸۰۱، ۹۸۱۱، ۹۸۲۱، ۹۸۳۱، ۹۸۴۱، ۹۸۵۱، ۹۸۶۱، ۹۸۷۱، ۹۸۸۱، ۹۸۹۱، ۹۹۰۱، ۹۹۱۱، ۹۹۲۱، ۹۹۳۱، ۹۹۴۱، ۹۹۵۱، ۹۹۶۱، ۹۹۷۱، ۹۹۸۱، ۹۹۹۱، ۱۰۰۱، ۱۰۱۱، ۱۰۲۱، ۱۰۳۱، ۱۰۴۱، ۱۰۵۱،

# دل کا علاج ڈر پینا کی روشنی میں

## دل کا علاج ڈر کی روشنی میں

دل انسان کے بدن کا ایک اہم ترین حصہ ہے، کہ جو انسان کو ایک لمحے کے لئے بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک رب العالمین کی مرضی ہے یہ حصہ آپ کے بدن کو چلاتا رہے گا۔ ایک لمحے کے لئے بھی اس کی حرکت کا بند ہونا انسان کو دوسری دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ انسان کے وجود کی ابتدائی منازل میں سب سے پہلے دل اور دماغ کی خلقت ہوتی ہے اور اس کے بعد باقی اعضاء و جوارح معرض وجود میں آتے ہیں اور دل وہ جگہ ہے جس کے لئے رب العزت کا حدیث قدسی میں فرمان ہے کہ نہ میری گنجائش آسمانوں میں ہے اور نہ ہی زمینوں میں ہے بلکہ میں تو مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ دل اللہ کا گھر ہے۔ ہر مومن کے دل میں سید الشہداء کی قبر ہے (قُلُوبٌ مِّنْ وَّآلَاهُ قَبْرُهُ) جو امام حسینؑ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل میں امام حسینؑ کی قبر ہے۔

دل اس بدن کا قُطْب ہے اور امام اس عالم امکان کا قُطْب ہے۔ بدن ایک لمحے کے لئے بھی دل کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح عالم ایک لمحے کے لئے بھی امامؑ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دل بدن کا فرمانروا ہے اور امام اس عالم کا فرمانروا ہے۔ بدن کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی خوشی ہو یا غمی ہو، اذیت ہو یا تکلیف، فوراً دل کو خبر ہوتی ہے اسی طرح اس عالم امکان میں کوئی رد و بدل ہو تو فوراً دل کو خبر ہوتی ہے۔ (دل کا تعلق) قطب عالم امکان، حلال مشکلات، لنگرزین و آسمان۔ سِرُّ اللّٰهِ فِي الْعَالَمِينَ، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، المطلوب لكل طالب، امام المشارق والمغرب، الذی جہ فرض علی الحاضر والغائب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہے۔

دل کی بیماریاں تین حصوں میں تقسیم ہیں جن میں سے کچھ امراض سے پہلے، کچھ درمیان میں اور کچھ بعد میں۔

(۱) دل کی بیماریوں سے بچنے کے لئے عمل۔ (۲) دل کا بڑھ جانا، یا دل کا کمزور ہو جانا، یا دل کا ضعیف ہو جانا، یا رگوں کا بندھ جانا۔ (۳) ہارٹ ایک کے بعد یا انتہائی خطرناک حالت میں۔ عمل: دن میں کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ دنوں کی بھی قید نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ انجام دیں۔ پہلے دو رکعت نماز امیر المومنینؑ کو ہدیہ کریں۔ اس کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر (110) مرتبہ صلوات، اس کے بعد (3) مرتبہ نادعلیٰ۔ آخر میں پھر (110) مرتبہ صلوات امیر المومنینؑ کی خدمت میں ہدیہ کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ کھانے پینے میں احتیاط اور گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔

## دل کا علاج بیئات کی روشنی میں

بیئات کی روشنی میں اسم امیر المومنینؑ کا عمل (۲۱) دن کا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک اس عمل کو انجام دینا زیادہ بہتر ہے۔ پہلے دو رکعت نماز ہدیہ امیر المومنینؑ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد (۲۱) مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں اور (۱۰۲) مرتبہ **يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا عَلِيُّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ اَذْرِ كُنِّيْ** کا درود کرنا ہے۔ اس کے بعد (۲۱) مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں سجدے میں جا کر (۱۰۰) مرتبہ صلوات جناب زہرا مرضیہؑ کو ہدیہ کرنی ہے۔ اور پھر پانی کے گلاس پر دم کر کے پانی پینا ہے۔ انشاء اللہ العزیز شفا کامل ہوگی۔

## دل کا علاج زُبُرِ بِنَات کی روشنی میں

سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے زُبُر اور بِنَات کے عدد (۲۱۲) بنتے ہیں۔ خطرناک حالت میں گذشتہ عمل نمبر ۲ کو انجام دینا ہے۔ عمل وہی ہے اب عمل کی تعداد (۲۱۲) ہوگی۔ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کا انجام دینا بیماری سے شفا یابی کی ضمانت ہے۔ بیماری سے شفا یابی کی صورت میں شکرانے کی خاطر نماز ہدیہ کرنا، مجلس عزاکرنا، نیاز دلوانا، قرآن ہدیہ کرنا مت بھولیں۔

**زُبُر اور بِنَات سے صحت کر ہم ذرا کچھ بزرگانِ دین کے فرامین کی طرف دیکھتے ہیں۔**

مرحوم آیت اللہ میرزا حبیب اللہ شریف کاشانیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگوار نے فرمایا ہے کہ میں نے (۵۱) مرتبہ (يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ) کا ورد کیا اور سو گیا۔ عالم خواب میں رسول اکرمؐ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ رسول اکرمؐ سے میں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیں کہ جس سے میرا دل زندہ ہو جائے (بیماریاں دور ہو جائیں) تو آپ نے فرمایا: اس دعا کو روزانہ (۴۱) مرتبہ پڑھا کرو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِيَ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اَللّٰهُ

مخزن تعویذات میں علامہ نقشبندی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی کو پاک برتن پر تین بار لکھ دیا جائے اور اس کے بعد دھو کر پی لیا جائے تو دل کی ہر بیماری کی اس میں شفا موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الم نشرح دل کے لئے مفید اور مجرب ہے۔ سب کا سرکہ بھی دل کے لئے اکسیر اعظم ہے۔ ان سب کے علاوہ (آبخورہ) کچے انگوروں کا پانی بھی دل کے لئے موثر ہے۔ ایران میں یہ مخصوص بوتلوں میں تیار ملتا ہے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔

علامہ سید حسن عسکری نقوی (مشہد مقدس) فون ایران: 0098 5112210917 فون پاکستان: 0300 8104565

## خودکش حملے، تخریب کاری، مومنین کے جلوس اور عید میلاد النبیؐ کے جلوس کے لئے

گذشتہ سال مولائے کائنات کی شہادت کے موقع پر مومنین کے جلوس میں خودکش حملہ ہوا۔ مساجد، امام ہاگاہیں اور دربارِ اہل تصاحب غرضیکہ کوئی جگہ ظالموں سے محفوظ نہیں۔ گھر سے نکلنے وقت، جلوس میں، مساجد میں ہر مسلمان اس وظیفہ کا ورد جاری رکھے۔ انشاء اللہ محفوظ رہیں گے۔

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنُعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

بلا تعداد ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات، رزق میں خوشحالی فرامی، فتوحات۔ مخالفین حاسدین سے تحفظ۔ بانجھ پن وغیرہ کے لئے مجرب لوحات جو شرف آفتاب ۲۴ رجب آخری جمعہ رمضان، شرف قمر کی خاص لوحات، گھروں، کارخانوں، دکانوں، ہوٹلوں میں خیر و برکت، وفات کے لئے خاص قسم کی لوح محدود تعداد میں دستیاب ہیں۔ پاس رکھنے کی لوح عظیمہ ۱۱ نقوش پر مشتمل منگ زعفران سے تیار شدہ جس پر کوئی تیرتنگ خودکش حملہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ دوزرا امبران قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لئے ایک مکمل نسخہ کیا، شائقین و ضرورت مند حضرات کے لئے انتہائی محدود نقوش دستیاب ہیں۔

معالج روحانی فرد آل محمد سید بغدادی علی شاہ موسوی علی الرضوی سجادہ نشین ٹھنڈی باں سیداں فتح پور ٹھنڈی کولہ آزاد کشمیر فون: 05826 403072

مطب:  
حیدر روڈ  
اسلام پورہ لاہور

## معدے اور آنتوں کے زخموں (السر) کا مستقل علاج

از قلم:  
حکیم غضنفر مہدی

بطفیل محمد آل محمد قارئین امامیہ جنتری سے مسلسل رابطے کا ساتواں سال ہے۔ اس سال میں معدے اور آنتوں کے زخموں (السر) جسکے ایک اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں تین کروڑ کے قریب مریض موجود ہیں کا علاج تحریر کر رہا ہوں۔

ہمارے جسم کا اندرونی نظام ایک توازن پر قائم ہے معدے کا اس میں بڑا اہم کردار ہے معدے میں جب خوراک پہنچتی ہے تو معدے میں موجود تیزاب، نمک اور پھسپس غذا کو ہضم کے قابل بنا کر چھوٹی آنت کے حوالے کرتے ہیں انجذاب اور ہضم کا عمل چھوٹی آنت میں ہوتا ہے چھوٹی آنت میں موجود سوڈا ابائی کارب غذا کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے یعنی اگر معدے اور چھوٹی بڑی آنتوں میں موجود خلیے ہضم کے لئے تیزاب پیدا کرتے ہیں تو اس تیزاب کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لئے خلیے حفاظتی مادے کا افزا بھی کرتے ہیں جب تک یہ توازن قائم رہے انسان تندرست رہتا ہے اور جب معدہ اور آنتوں کے اس توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو حفاظتی مادوں کی کمی یا عدم توازن سے معدے کی دیواروں اور آنتوں میں سوڈا ابائی کارب کے افزا کی کمی سے زخم بننا شروع ہو جاتا ہے اگر شروع میں کنٹرول نہ کیا جائے تو یہی زخم السر کی شکل اختیار کر لیتا ہے معدے کے السر کو Gastric Ulcer، چھوٹی آنت کے السر کو Doudenal Ulcer اور دونوں کے مشترک السر کو Peptic Ulcer اور غذا کی نالی میں ہونے والے السر کو Esophageal Ulcer کہتے ہیں۔

**اسباب** السر کی اہم وجوہات میں تیز مرچ مصالحوں کا بکثرت استعمال، ہر وقت کی ذہنی پریشانی، ناقص غذائی اشیاء کا استعمال، جراثیم آلود پانی، ہضم کے فعل میں فتور اور سب سے اہم نیلی کو بیکٹریا پالموری نامی جراثیم کا معدے میں پہنچ کر اس کی اندرونی سطح سے چپک جانا شامل ہیں۔

**علامات** پیٹ میں شدید درد کا احساس ہونا بعض میں چھوٹے سے بھی درد ہونا، سینے میں جلن، منہ سے رال بہنا، منہ میں کھٹاپانی بھر آنا، خالی معدے درد کا شدت اختیار کرنا، مریض کی زبان کا سرخی مائل چمک دار ہونا شامل ہیں۔ مرض کی تشخیص بذریعہ بریم اور اینڈوسکوپنی آسانی سے ہو جاتی ہے۔

**ہوا شانی** کزبرہ، صندل، احر، گل کرب، الماء، زرنبا، گل، لسان الثور، گل احر، مفرح القلب، آملہ، قالد صنعا، طباشیر، ایک ایک تولہ لے کر شہدہ چند ملا کر معجون تیار کریں۔

**ہوا شانی** دانہ قافلان، صنعا، گل سرخ، جلنا، گل دھاوا، کڑ چھال دو تولہ لے کر سفوف بنائیں

**ہوا شانی** آملہ، صفی، راز پانچ، قافلان، کلاں، سوڈا ابائی کارب، حنک رومی، نبات سفید ہم وزن لے کر سفوف بنائیں

گذشتہ چھ سالوں سے امامیہ جنتری میں درج کئے گئے یقینی بے خطر مجربات مع جدید اضافات تیار کورس کی شکل میں دستیاب ہیں۔

### حکیم غضنفر مہدی کی شہرہ آفاق کتب

طب آل محمد اور امراض جسمانی (حصہ اول) ہدیہ 190 روپے

طب آل محمد اور امراض جسمانی (حصہ دوم) ہدیہ 120 روپے

طب آل محمد اور امراض جسمانی (حصہ سوم) ہدیہ 150 روپے

#### امراض نسوان

خواتین کے تمام تر پیچیدہ امراض اور انکا علاج 120 روپے

#### امراض جگر اور پیپٹائٹیس

جگر اور پیپٹائٹیس کی تمام اقسام، وجوہات، علامات و معصدا کی نحوجات 150 روپے

### پیپٹائٹس بی، سی کورس

### یواسیجی خونی، ہاڈی کورس

### الرجی، کیرا، دمہ کورس

### گردہ مثانہ پتھری کورس

### لیکوری یا خرابی حیض کورس

### مخاض صلیب کورس

جوڑوں، پٹھوں کے درد کا مستقل علاج

### رضا ہربل کمپلیکس (رجسٹرڈ)

اسٹیمپڈ ہرجیم غضنفر مہدی یونانی میڈیکل کالج لاہور

مردانہ بانجھ پن (سپرم کا نہ ہونا، سپرم کا کم ہونا، سپرم کا کم کرور ہونا) زنانہ بانجھ پن (جنسی کی خرابی یا بندش، ٹیبلٹ پیور یا بیج، رحم میں پانی کی تھیلیوں کا ہونا) مردانہ پیچیدہ امراض: (جریان، احتام، ہنفت، باہ، اعصابی سچا، پنڈلیوں میں درد) زنانہ پیچیدہ امراض: لیکوری، بندش، حیض، حیض کا درد سے آنا، پھرے کے بال وزن کا بڑھنا، کثرت حیض۔ گردہ، مثانہ، پتھری، الرجی، دمہ، کیرا، زردیروقان، پیپٹائٹس بی، سی، یواسیجی خونی وادی کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔

مطب رضا: حیدر روڈ بالقابل شیعہ جامع مسجد اسلام پورہ (کرشن نگر) لاہور

0333-4356949، 0312-5129214، 042-7159348

اوقات مطب: شام 5 بجے تا 11 بجے



# ہماری جلد اور اس کی نگہداشت

قدیمی زمانے سے حسن کو دو بالا کرنے کے لئے دیسی ہر بل جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ہر سائیز ایکٹ سے پاک ہیں اور ہمارے بچٹ میں رہتے ہوئے مفید بھی ہیں۔ ہم آپ کو مختلف بازاری کیمیکل پراڈکٹ جو کہ سائیز ایکٹ رکھتی ہیں وہ پراڈکٹ ہم آپ کو خود بنانا بتاتے ہیں۔ آئیے جلیے!

**نارٹل جلد:** اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ نارٹل جلد جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ہم کیمیکل صابن۔ لوشن، کریم سے اپنی اسکن کو قوتی فریش کر لیتے ہیں مگر وہ کیمیکل جو مضر اثرات رکھتے ہیں نقصان دہ ہیں۔

**اسکن کی صفائی:** چند تازہ گلاب لے کر اس کو کھولتے گرم پانی میں ڈال کر ڈھک دیں۔ پانی 2 گلاس تک ہو۔ جب پانی گلابی ہو جائے تو اس میں 2 چمچے لیمن جوس۔ 1 چمچ شہد۔ آدھا چمچ پسی دار چینی۔ آدھا چمچ پھلکری۔ 2 چمچے کبیرے کا جوس۔ ان سب کو کس کر کے شیشے کی بوتل میں محفوظ کر کے فرج میں رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت کسی ملل کے کپڑے سے پورے چہرے گردن ہاتھ پیر کی صفائی کریں۔ چند ہفتوں میں آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا اور فریش ہو جائے گا۔ اور یہ سیرپ آپ کو ٹونر کا بھی کام دے گا۔

**اسکن واٹ:** جلد کو دھونے کے لئے ہمیشہ اچھے صابن یا فیس واٹ کا انتخاب کریں جو آپ کی جلد کی حفاظت برقرار رکھے۔ ہر بل یعنی دیسی صابن بھی جڑی

## اجزاء:

بوٹیوں کی مدد سے بنایا جاسکتا ہے۔ آئیے جلیے!

- |                   |                                 |                         |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| (1) جو کا آنا     | 1 کپ                            | (2) گاجر کے بیج         | 4 ٹیبل اسپون   |
| (3) ہلدی ثابت     | 2 ٹیبل اسپون (پس کرنا پ کر لیں) | (4) تازے چنبیلی کے پھول | 1 کپ   |
| (5) موچے کے پھول  | 1 کپ                            | (6) نیم کے خشک پتے      | آدھا کپ  |
| (7) کیٹو کے پھلکے | 1 کپ (سوکھے ہوئے)               | (8) ریشما               | 1 پاؤ (مٹھلی نکال کر گرم پانی میں ڈال کر آمیزہ بنالیں) |

ان سب چیزوں کو باریک پسا کر 1 کلو پانی میں چڑھا دیں۔ پھر ریشما جو کہ جھاگ بناتا ہے، اس میں "ریٹھے کا پانی آدھا کلو" ڈال کر اس آمیزے کو گاڑھا کر لیں۔ اس قدر گاڑھا کر لیں کہ یہ ایک موم کی شکل اختیار کر لے۔ اس آمیزے کو چھوٹے پیالے میں رکھ کر فرج میں جمادیں۔ تاکہ ایک صابن کی شکل اختیار کر لے۔ آپ کا ہر بل بیوٹی سوپ تیار ہے جو کہ بے ضرر ہے اور آزمودہ ہے۔ اس ہر بل دیسی صابن کو بنانے یا سمجھنے میں اگر کوئی دشواری ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صابن ہر قسم کی جلد کے لئے موثر کیمیکل سے پاک ہے۔

**دھوپ سے بچنے کیلئے اک نسخہ:** دھوپ میں جانے سے قبل گھریلو تیار کردہ ہر بل عرق گلاب فیس پراسپرے کر کے جلیے تاکہ آپ کی جلد کی رنگت کالی نہ ہو۔

**سن بلاک:** 8/10 عدد تازہ گلاب پھول لے کر اس کو 2 کلو کھولتے پانی میں ڈال دیں۔ جب پانی گلابی ہو جائے تو اس پانی میں 1 چمچ لیموں کا جوس ڈال کر فرج میں رکھ دیں۔ گھر سے جانے سے قبل فیس، ہاتھوں اور گردن پراسپرے کر کے جلیے۔ آپ کی جلد دھوپ سے متاثر نہ ہو سکے گی۔

جمیر معمولی (ہر بلٹ + ایکٹیو پریشرٹ) رابطہ: 0333 2245899, 0307 3997649

اگر کسی فصل کو ناقص فصل کے مقدمہ میں پھانسی کی سزا ہوگی ہوتو نماز صبح کے بعد 50 مرتبہ نامی "صغیر کا ورد" کرے۔ اللہ کے فضل سے اس کو پھانسی سے نجات مل جائے گی۔

تسبیح حالات مشکلات:



# نومولود کے اسلامی نام

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! پورا سال ناموں کو تلاش کرنے ان کا مطلب اور اسلامی وابستگی تلاش کر کے یہ کاوش آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نومولود کا نام بذریعہ زائچہ رکھیں۔ بچوں کے مسائل کے سلسلہ میں رابطہ کریں۔ نیر نقوش روزگار بخت کشائی وصحت کے لئے اور اپنا زائچہ بنوانے کے لئے رابطہ کریں۔

سید قمر حسین نقوی، مکان نمبر 70/A، محلہ عیلہ والا لہیہ سٹی پنجاب، 0333 4376657, 0302 7846655

## لڑکوں کے نام

نمبر	نام	مطلب	نمبر	نام	مطلب	نمبر	نام	مطلب	نمبر	نام	مطلب
آبی	5	41	بہت پاک	آہنی	2	38	بلانے والا	ہاتف حسین	27	ہاتف حسین	بلانے والا
بادی	6	24	ضرب لگانے والا	بادی	1	28	تمغہ	وسام علی	28	وسام علی	تمغہ
آبی	1	28	گھفتہ کھلا ہوا	آہنی	1	37	گریو جوہ کرنے والا	مویان حسین	29	مویان حسین	گریو جوہ کرنے والا
آہنی	7	25	آزاد	آہنی	6	33	خویش آقا قرب	معین عباس	30	معین عباس	خویش آقا قرب
آہنی	7	25	مناسب ترین	آہنی	5	32	شیر	فراس حیدر	31	فراس حیدر	شیر
آبی	7	34	خوش و خرم	خانگی	1	28	گھنا درخت	صہب علی	32	صہب علی	گھنا درخت
آہنی	2	29	بہادر دلیر	آبی	6	24	کثرت۔ زیادہ	غمار عباس	33	غمار عباس	کثرت۔ زیادہ
بادی	7	34	صبر کرنے والا	آہنی	1	28	تیرنے والا	شناد علی	34	شناد علی	تیرنے والا
بادی	2	29	اللہ تعالیٰ کا نام	آہنی	1	28	صبر۔ برداشت	گلہب حسین	35	گلہب حسین	صبر۔ برداشت
آہنی	2	29	بزرگ۔ سردار	آبی	5	32	چراغ۔ روشنی	سروح حیدر	36	سروح حیدر	چراغ۔ روشنی
آہنی	3	30	پینائی روشنی	خانگی	6	24	جنت کا دروازہ	زیان حیدر	37	زیان حیدر	جنت کا دروازہ
بادی	8	17	روشن منور	خانگی	5	23	کھٹا ہوا	رقم حیدر	38	رقم حیدر	کھٹا ہوا
بادی	8	17	عالم	خانگی	6	24	دونوں جہاں	دارین علی	39	دارین علی	دونوں جہاں
بادی	8	26	بہادر دلیر	خانگی	4	31	روشن نرم	دلاش حیدر	40	دلاش حیدر	روشن نرم
خانگی	9	27	آغاز نوجوان	آہنی	4	22	حکم قبول کرنے والا	مقبل علی	41	مقبل علی	حکم قبول کرنے والا
آہنی	8	26	بہادر شجاع	خانگی	4	31	دور اندیش	حازم علی	42	حازم علی	دور اندیش
خانگی	3	30	زبان	خانگی	8	26	اللہ کا صفاتی نام	دیان حیدر	43	دیان حیدر	اللہ کا صفاتی نام
آہنی	8	26	بھیجا ہوا	بادی	5	23	بہادر دلیر	باسل علی	44	باسل علی	بہادر دلیر
بادی	2	29	بڑا روشن	بادی	3	39	روشن آنکھوں والا	نصا ص حیدر	45	نصا ص حیدر	روشن آنکھوں والا
خانگی	4	31	شہد	خانگی	5	23	نرم مٹی	درک علی	46	درک علی	نرم مٹی
آہنی	9	27	جنگ جو	خانگی	9	18	فراخ کھلا	رجب علی	47	رجب علی	فراخ کھلا
آہنی	9	27	بہادر	آہنی	5	23	شریک ہونے والا	مشارک علی	48	مشارک علی	شریک ہونے والا
آہنی	4	31	سرما پونجھی	آہنی	9	27	دماغ	مشام حیدر	49	مشام حیدر	دماغ
آہنی	9	27	نگلی پانے والا	آہنی	6	24	بہت پاکیزہ	اطیب علی	50	اطیب علی	بہت پاکیزہ
بادی	9	36	تردازہ شاداب	آہنی	5	23	مددگار	غیاث حیدر	51	غیاث حیدر	مددگار
آہنی	5	41	گناہ سے بچنے والا	آہنی	6	33	تھک دینے والا	احناف علی	52	احناف علی	تھک دینے والا
آبی	5	32	تقسیم کرنے والا	آہنی	1	37	خانہ کعبہ کی دیوار	حطیم حیدر	53	حطیم حیدر	خانہ کعبہ کی دیوار

81	فتح حیدر	فتح کرنے والا	36	9	آبی	86	داعلمی	بیمبہ سدا	27	9	خاکی	91	ذہاب حیدر	چشمہ	30	3	آبی
82	مصام علی	ڈوری	32	5	خاکی	87	بہلول حیدر	فس کھ	34	7	بادی	92	زاد علی	عابد پرہیزگار	28	1	آبی
83	فائق علی	بلند اونچا	21	3	بادی	88	بہزاد علی	نیک ذات	30	3	بادی	93	سقا علی	پانی لانے والا	19	1	آبی
84	شاہق حسین	بلند	30	3	آہنی	89	ائیل حیدر	ذاتی پروا انسان	25	7	آہنی	94	عاطری علی	خوشبودار پاکیزہ	30	3	خاکی
85	زمیم حیدر	سر دار۔ پیشوا	34	7	آبی	90	اقدام حسین	مقدم پہلا	31	4	آہنی	95	عاکف علی	عمارت کرنے والا	29	2	خاکی

## لڑکیوں کے نام

29	عکس زہرا	سایہ	30	3	خاکی	59	نغمہ زہرا	آرام گاہ۔ آشیانہ	28	1	بادی
30	عطار زہرا	انعام بخشش	32	5	خاکی	60	نقلاں قاطمہ	چاہنے والی	50	5	آبی
31	عریش زہرا	سایہ دار گمگم	28	1	خاکی	61	ذریعت زہرا	نسل۔ اولاد	29	2	آبی
32	دمشاق بتول	ہار۔ گلو بند	31	4	خاکی	62	مسقط بتول	موتیوں کی لڑی	38	2	آہنی
33	نمط زہرا	روشن	33	6	بادی	63	سلام زہرا	سلاستی	29	2	آبی
34	نصرت بتول	خوشبو	34	7	بادی	64	الماس زہرا	بہرا	30	3	آہنی
35	لم یزل زہرا	لا زوال۔ دائم	33	6	خاکی	65	انقا زہرا	پرہیز گاری	22	4	آہنی
36	ضمین زہرا	ضامن۔ کفیل	33	6	بادی	66	سیکھہ بتول	چاندی	31	4	آبی
37	زہادت زہرا	زہد۔ پرہیز گاری	36	9	آبی	67	ستیدہ زہرا	سر دار	31	4	آبی
38	بساط زہرا	حوصلہ۔ ہمت	33	6	بادی	68	علیہ بتول	اودھنچائی بلندی	31	4	خاکی
39	ارتقا بتول	ترقی۔ اودھنچائی	24	6	آہنی	69	عیدہ بتول	زندگی	31	4	خاکی
40	ورزک زہرا	جہیز	32	5	بادی	70	فارہ بتول	خوشبو	31	4	آہنی
41	وسیت بتول	قریب۔ نزدیکی	32	5	بادی	71	قارصہ بتول	قرآن کی سورہ	31	4	آبی
42	نصفت بتول	عدل۔ انصاف	41	5	بادی	72	قرطین زہرا	گوشوارے	33	6	آبی
43	ناغم زہرا	نغمہ نازک	32	5	بادی	73	تقرح بتول	خوبصورت	31	4	آبی
44	تاج زہرا	غلامہ۔ ٹچڑ	24	6	بادی	74	قاسمات زہرا	مخمس۔ ٹوٹی	31	4	آبی
45	مادح بتول	مدح کرنے والی	32	5	آہنی	75	ہائینہ بتول	قوت	32	5	آہنی
46	قرطاس زہرا	کاغذ	34	7	آبی	76	مہیہ بتول	عقل دانش	31	4	بادی
47	طایبہ بتول	مدینہ منورہ کا نام	32	5	آہنی	77	دمشاقہ بتول	کنیر	29	2	خاکی
48	مطاب زہرا	ڈوری	32	5	آہنی	78	عشودہ بتول	ناز۔ ادا	36	9	خاکی
49	شامہ بتول	خوشبو مہک	32	5	آہنی	79	عشقیں زہرا	عشق۔ محبت	27	9	خاکی
50	سحاب زہرا	ابر بادل	32	5	آبی	80	کلام زہرا	بات گفتگو	25	7	آبی
51	سکلات زہرا	پھول پھینٹی	32	5	آبی	81	کونین زہرا	دوڑوں جہاں	34	7	آبی
52	تصبہ بتول	فراخ زمین	32	5	خاکی	82	فراشہ بتول	پردانہ	34	7	آہنی
53	رض زہرا	نرم نازک	32	5	خاکی	83	قرطہ بتول	کان کی پالی	27	9	آبی
54	ایجاب زہرا	واجب۔ لازم	23	5	آہنی	84	سیکینہ بتول	آرام	34	7	آبی
55	مطیہ بتول	سواری	34	7	آہنی	85	آداب زہرا	توبہ	23	5	آبی
56	مناب زہرا	قائم مقام	27	9	آہنی	86	ادج زہرا	اودھنچائی	25	7	آہنی
57	ہبہ بتول	عظیہ غنچیش	27	9	آہنی	87	حجاب زہرا	پردہ	29	2	خاکی
58	ناعمہ بتول	ناز و نعمت	37	1	بادی	88	ایبہا بتول	باپ کی زینت	25	7	آہنی

1	طلحہ حنا بتول	سایہ۔ پناہ	41	5	آبی
2	دلانج زہرا	پھول	26	8	خاکی
3	من تشار زہرا	دینے والا	32	5	آہنی
4	ادج زہرا	اودھنچائی۔ شان	25	7	آہنی
5	شفا زہرا	جائزہ نظر	32	5	بادی
6	نفاست بتول	برگزیدہ	32	5	بادی
7	ناب زہرا	پاک پاکیزہ	23	5	بادی
8	نہایت زہرا	عزت۔ چمک	32	5	بادی
9	مصورہ بتول	تصویر بنانے والی	41	5	بادی
10	مشابہ بتول	ثواب کیا گیا	32	5	آہنی
11	مخافہ بتول	ڈولی	41	5	آہنی
12	لباب زہرا	غلامہ	23	5	خاکی
13	کسمہ بتول	بالوں کی لٹ	32	5	آبی
14	کیریازہرا	عظمت بزرگی	23	5	آبی
15	اتحاف زہرا	تحفہ	37	1	آہنی
16	مٹوب زہرا	ثوب	32	5	آہنی
17	تسمیہ بتول	تقسیم کرنے والی	32	5	آبی
18	اتہاج زہرا	خوش مسرت	31	4	آہنی
19	اتہاج بتول	بیرونی کرنے والی	30	3	آہنی
20	انزہرا	ثواب۔ بدلہ	21	3	آہنی
21	اشاہ بتول	طلوح سحر	20	2	آہنی
22	الہا بتول	اے خدا	25	7	آہنی
23	انامت زہرا	توبہ عاجزی	28	1	آہنی
24	آنرہ بتول	پیشوا	25	7	آہنی
25	اشیاءہ بتول	مشابہ ہونا	26	8	آہنی
26	یدین زہرا	دوڑوں ہاتھ	26	8	بادی
27	علیا بتول	بزرگی اعلیٰ	27	9	خاکی
28	علسیں زہرا	بہشت۔ جنت	39	3	خاکی

# علم رمل کی افادیت

خطیب شاہ کربلا مولانا محمد علی عابد قسری  
B-19، رضویہ سوسائٹی، ناظم آباد، کراچی  
رابطہ 0302 2830786

ہم یقیناً ظہور حضرت حجۃ عجل اللہ فرجہ الشریف کے قریب ترین دور میں داخل ہو چکے ہیں اور اس زمانے میں شاذ و نادر ہی ایسا ہو کہ کوئی شخص پریشان نہ ہو۔ کسی کا کاروبار بیٹھ گیا ہے۔ کوئی غربت کی جھکی میں پس رہا ہے تو کوئی مقروض ہے اور کسی کی نوکری نہیں ہے کسی کا رشتہ نہیں آتا اور کسی کا رشتہ آتا ہے تو پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ کسی پر سایہ ہے تو کوئی سفلی اور جا دگروں کے چکر میں آیا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے لوگ اس سے زیادہ پریشانیاں اور ستم بالائے ستم کہ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ جانے نہیں بلکہ بغیر تحقیق و تشخیص کے کوئی نہ کوئی اسم یا آیت یا تعویذ تھما دیتے ہیں۔ ان مسائل کو دیکھ کر دل کڑھتا تھا کہ کیا ان باتوں کا کوئی حل نہیں ہے۔ جتنو سے اس نتیجے پر پہنچے کہ باقی علوم سے علم رمل قریب ترین تشخیص کرتا ہے۔ تشخیص بہتر ہوگی سواب علاج بھی موثر ثابت ہوگا۔ اس کے لئے میرا اپنا ایک واقعہ قارئین کی نذر ہے۔

تقریباً بارہ سال پہلے بہت زیادہ پریشان تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ معمول کے مطابق ایک دن یعنی ۱۳ محرم کو سرکار علامہ طالب جوہری مدظلہ العالی کی رہائش گاہ پر حاضر ہوا تو ان کے پاس سید لاڈ لے حسن زیدی (مرحوم) (جو کہ عمل رمل کے ماہر تھے) تشریف فرما تھے۔ میرے پہنچنے پر علامہ صاحب نے میری طرف قریعہ بڑھایا اور فرمایا کوئی سوال ہو تو نیت سے قریعہ ڈالو۔ میں نے پریشانی کی نیت کر کے قریعہ ڈالا تو علامہ صاحب نے بغیر زانچہ کشید کیے اشکال قریعہ کو دیکھ کر فرمایا: مولانا آپ کی پریشانی ۲۸ تاریخ تک بہتر ہو جائے گی۔ جس پر لاڈ لے حسن زیدی (مرحوم) نے علامہ صاحب کی بے حد تعریف کی کہ آپ نے زانچہ کشید کیے بغیر بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ میرا تجسس بڑھا لیکن خاموش رہا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ۲۸ تاریخ کے بعد حالات معمول پر آ گئے تو میں نے اس علم کی جستجو جو آج تک جاری ہے۔ یہاں امامیہ جنتزی کے قارئین کے لیے کچھ مختصر معلومات علم رمل اور زانچہ کے جوابات کے حوالے سے حاضر ہیں۔

کہلاتی ہیں۔ جبکہ پہلی شکل طالع اور پندرہویں شکل میزان الرمل کہلاتی ہے۔ اشکال پر احکام لگانے سے جوابات واضح ہوتے ہیں اور احکام کہ کتنی دیر میں شادی ہوگی یا یہ مسئلہ حل ہوگا یا بندش ختم ہوگی یا مال واپس آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور ان سولہ اشکال میں تمام کے اوپر والے نقطے آتشی، دوسرے والے بادی، تیسرے والے آبی اور چوتھے والے خالی کہلاتے ہیں۔ جبکہ نقاط سے چور یا شادی کے مسئلے میں لڑکے کا لڑکی کے نام یا اس کا پہلا حرف تک بھی نکل آتا ہے۔

زانچہ کے لئے کافی قواعد ہیں۔ قریعہ بھی استعمال ہوتا ہے، نقاط بھی ہیں، اعداد بھی ہیں، حروف تہجی کے حروف کے لئے پوچھتے وقت ہماری نیت ہے کہ ہم ان حروف ابجد یا حروف اربعہ سے مرتب کریں۔ سائل سامنے ہو یا فون پر ہو جواب قریب ترین آتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

مثال کے طور پر سائل بیماری کے لئے سوال، سامنے یا فون پر حروف تہجی کے چار حروف (و) (ا) (ک) (م) بتائے اور ہم نے حروف ابجد کی نیت

اہل رمل اس علم کو وحی کا علم کہتے ہیں اور انبیائے کرام سے منسوب مانتے ہیں اور امیر المؤمنین کا معرکہ الآراء خطبہ جو بغیر نقطے کے ہے، اس میں مولانا فرماتے ہیں:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْمَحْمُودِ الْمَالِكِ الْوَدُودِ وَمَهْلِكِ  
وَطَاوَأِ السَّوَالِ وَالْأَمَلِ وَأَوْسَعِ الرَّمْلِ وَأَزْمَلِ  
میں حمد کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے حمد کردہ ہے مالک ہے محبت کرنے والا ہے اور اس نے مہلت دی ہے اور مطاوعت پیدا کی ہے سوال و امید میں اور وسعت دی رمل اور اہل رمل کو۔

علم رمل جو کہ سمندر ہے علم اہل نقطے اور لکیروں کی سائنس ہے۔ رمل کے ایک زانچے سے انسان کا ماضی، حال اور مستقبل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ہی ساعت میں پورے ایک سو چالیس (۱۴۴) سوالات کا جواب ملتا ہے۔ علم رمل کا زانچہ کشید کرنے کے بعد سولہ شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، جس میں پہلی چار اہمات اور دوسری چار نبات، تیسری چار توالیات اور آخری زوائد

### (۵) شادی بھلا ہوگی یا نہیں اور ہوگی تو کب ہوگی؟

اس نیت سے زائچہ کشید کریں۔ شکل اول (طالع) طلب سے متعلق ہے اور شکل دوم مطلوب سے، اگر طالع میں شکل سعد ہے تو شادی ہو جائے گی۔ اگر زائچہ کی شکل ہفتم بھی سعد ہے تو پھر اس گھر والے بعد لڑکی راضی ہیں۔ اگر طالع میں شکل سعد ہے مگر ساتویں شکل خنص ہے یا خارج ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ طالع کی قوت سے شادی تو ہو جائے مگر بہت کوشش اور بھگڑوں کے بعد۔ اگر طالع میں شکل خنص یا خارج ہے مگر ساتویں خانہ میں سعد اور داخل ہے تو شادی کا ہونا دشوار ہے۔ طالع پر ساتویں خانہ کا اثر ہوتا ہے مگر کمزور ساتواں گھر طالع کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتا اگر طالع اور شکل ہفتم ایک دوسرے کے موافق میں یہ حکم پختہ ہے۔

### (۶) اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی اور کب تک ہوگی؟

اس نیت سے زائچہ کشید کریں۔ اگر پانچویں خانے میں پہلی شکل جو کہ سعد ستارہ مشتری کی ہے تو اولاد ہوگی اور نہایت ہی طالع مند اور نیک ہو گی۔ کیونکہ خانہ اول میں بھی وہی شکل لیجیان موجود ہے جو کہ مسائل کا خانہ ہے۔ تو وہ ہمیشہ باپ کی فرمائندگی میں رہے گی اور صاحب اقبال ہوگی اور پھر ہم نے شکل اول کو شکل پنجم سے ضرب دی تو جماعت حاصل ہوئی۔ پھر اسی جماعت کو شکل خانہ ہفتم جو کہ مسائل کی بیوی کے متعلق ہے ضرب دی تو شکل بیاض برآمد ہوگی۔ بیاض چونکہ سعد ثابت قمر کے ساتھ منسوب ہے۔ دلیل لڑکے کی ہے جو بروز جمعرات، ساعت پنجم، برج اسد، ستارہ زہرہ کی ساعت میں پیدا ہوگا اور اپنے والدین کا نام روشن کرے گا۔

### یا اللہ نوائب ناد علی صغیر یا محمد


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ نَجِدْهُ عَوْنَا لَكَ فِي

النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجِلِي بِعَظَمَتِكَ يَا اَللّٰهُ  
بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدٌ بِوَلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

روزانہ نماز صبح اور عشاء کے بعد اول و آخر پندرہ مرتبہ زرد و شریف درمیان میں پندرہ مرتبہ ناولیٰ حسن عقیدت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو آسان کرتا ہے۔

سے لکھا تو ان کے عدد ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۶ بنے جس کا زائچہ کشید کیا گیا۔



### (۱) آسیب، سحر یا جسمانی امراض:

اس نیت سے زائچہ کشید کریں اور اس کے بعد خانہ ششم میں دیکھیں۔ اگر پندرہویں شکل اجتماع یا سلطوین شکل طریق ہے تو آسیب ہے اور اگر چوتھی شکل جماعت ہے تو سحر جاوہ ہے اور باقی اشکال میں جسمانی امراض ہے۔

### (۲) ملازمت میں پریشانی، نوکری ملے یا نہیں:

اس نیت سے زائچہ کشید کرو اور اس کے بعد اگر خانہ دوم میں داخل شکل ہے تو ملازمت ملنے میں دیر نہیں ہے۔ اگر خارج شکل ہے تو ابھی ملازمت ملنے میں دیر ہے۔ اگر مغرب شکل ہے تو نوکری دیر سے ملے گی اور کم تنخواہ کی ملے گی۔

### (۳) قرض دیا ہوا واپس ملے گا یا نہیں؟

اس نیت سے زائچہ کشید کرو۔ اگر زائچہ کی پہلی، دوسری اور گیارہویں شکل سعد داخل ہیں تو قرضہ سب وصول ہوگا اور جلد ہوگا۔ اگر یہ شکل خنص خارج ہیں تو قرضہ وصول ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر اشکال ملی جلی ہیں تو قرضہ کا کچھ حصہ وصول ہوگا۔ اور دیر میں وصول ہوگا تمام قرضہ وصول ہونے کی امید نہیں ہے۔

### (۴) سفر، مقدمہ، امتحان، کاروبار میں کامیابی ہوگی یا نہیں؟

کسی کام کا انجام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ اقرار کرو کہ عالم الغیب خدا ہے۔ اس نیت سے زائچہ کشید کرو۔ اگر زائچہ میں شکل چہارم یا ششم یا ہفتم خنص ہو تو نتیجہ خلاف ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر طریق پر زائچہ کی سولہ شکلیں کی سعد و خنص شکلوں کو شمار کرو۔ اگر سعد زیادہ ہیں تو فائدہ خنص زیادہ ہیں تو نقصان۔

# زائچہ نجوم سے بیرون ملک سفر کے احکامات و رہنمائی

قارئین کرام! السلام علیکم۔ یا علی مدو۔ یا قائم آل محمد مدو۔ مہنگائی۔ غربت کی وجہ سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بہتر مستقبل کی خاطر بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک جا کر اور وہاں محنت مزدوری کر کے مال و دولت حاصل کریں۔ اس سلسلے میں وہ کوششیں کرتے ہیں۔ کچھ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام۔ میرے ذاتی مشاہدہ میں کئی بار آیا ہے کہ اس خواہش کے حصول میں بہت لوگ ناکام ہوئے ہیں اور اسی کوشش میں مقروض بھی ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ بیرون ملک سفر ہو گئے ہیں۔ لیکن وہاں جا کر انھیں پریشانیوں اور مشکلات نے گھیرا ہوا ہے۔ لہذا میں نے انہی مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کے لئے آپ کی خدمت کے لئے علم نجوم کا جو نقطہ چننا ہے وہ بیرون ملک سفر کے بارے میں ہے۔

بادی بروج کے سیارگان نوں گھر قابض ہوں اور بیرون ملک سفر سے منسوبی سیارگان طاقت ور اور سعد ہوں اور دوسرے سیارگان کے ساتھ بالخصوص قمر یا شمس سے سعد نظرات ہوں تو کامیاب سفر اور نقل مکانی ہوتی ہے۔ اسی طرح منقلب اور ذوجسدین گھروں کے بارے میں یہی احکامات ہیں۔ بیرون ملک سفر سے منسوبی سیارے حالت شرف میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں یا دوست کے گھر میں ہوں یا سعد گھروں میں ہوں یا نوں گھر میں سعد حالت میں ہوں اور دیگر سیارگان بالخصوص نوں گھر کے حاکم یا قابض سیارہ یا سیارگان سے سفر ہوتا ہے اور وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیرون ملک سفر سے منسوبی سیارگان ہو ط میں ہوں یا یا زوال میں ہوں یا دن کے گھر ہوں خواہ وہ سعد گھر ہی کیوں نہ ہوں۔ یا رجعت میں ہوں یا کسی بھی طرح ناقص ہوں تو اول تو سفر میں رکاوٹیں لائے گا اور اگر سفر ہو بھی جائے تو پریشانیوں اور مشکلات کا موجب ہوتا ہے۔ نوں گھر کا حاکم شخص ہو یا شخص سیارہ یا سیارگان نوں گھر پر قابض ہوں اور شمس یا قمر سے ان کے نظرات شخص ہوں تو سفر نقصان دہ ہوگا۔ سیارہ پنجون کسی زائچہ پیدائش میں نوں گھر قابض ہو تو بیرون ملک سفر پر اسکا تا ہے لیکن ایسا سفر ناکام ہوتا ہے۔

میرے مشاہدات میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض زائچوں میں بیرون ملک سفر سے منسوبی سیارگان سعد اور ان کے نظرات سعد ہونے کے باوجود سفر ہو جانے کے بعد مشکلات اور پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص نے اپنے موافق سمت اور ملک یا شہر میں سفر نہیں کیا۔ میرے طریقہ کار کے مطابق میں علم نجوم کے ساتھ ساتھ علم جہر اور

زائچہ نجوم بارہ گھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر گھر کی اپنی اپنی منسوبیات ہیں۔ چونکہ اس بار میں بیرون ملک سفر کے سلسلے میں تحریر کر رہا ہوں تو اختصار کے ساتھ صرف اسی حوالے سے تحریر کروں گا۔

زائچہ پیدائش میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بیرون ملک سفر ہے یا نہیں۔ اگر سفر ہے تو کتنا کامیاب ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض زائچوں میں بیرون ملک سفر کی نسبت مقام پیدائش (چوتھا گھر) اور چھوٹے سفر (تیسرا گھر) کے سیارے اور ان کے نظرات زیادہ سعد اور طاقتور ہیں۔ جب زائچہ میں ایسی پوزیشن ہو تو ایسے زائچہ کے حامل شخص کو بیرون ملک سفر کرنے کے بجائے مقام پیدائش کے نزدیک اسی ملک میں جس میں حامل کی پیدائش ہوئی ہے میں کسی جگہ اپنی خوش قسمتی اور مالی کامیابی کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔ جب چوتھے گھر کا سیارہ یا چوتھے گھر پر قابض سیارہ یا سیارگان شخص ہوں اور شمس یا قمر سے بھی شخص نظرات رکھتے ہوں اور بیرون ملک سفر سے منسوبی سیارے سعد پوزیشن اور سعد نظرات رکھتے ہوں تو ایسے میں بیرون ملک سفر فائدہ مند اور وہاں پر سکونت بھی مفید ہوتی ہے۔

زائچہ میں بیرون ملک سے منسوب گھروں ہے۔ بیرون ملک سفر کے سلسلے میں زائچہ پیدائش ہی سے صحیح رہنمائی مل سکتی ہے۔ البتہ وقتی زائچہ سے بھی کچھ احکامات لگائے جاسکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر سے منسوبی سیارگان قمر، عطارد اور یورینس ہیں۔ البتہ شمس اور مریخ بھی ایک مخصوص حالت میں بیرون ملک سفر میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آبی و بادی بروج میں سیارگان کی کثرت سفر کی نشاندہی کرتی ہے۔ آبی و بادی بروج نواں گھر ہو یا آبی و

## بچیوں کی شادی کیلئے

جن بیٹیوں کی عمریں حد سے گزر رہی ہوں۔ کہیں سے کوئی رشتہ نہ آئے تو قمر یا زہرہ کے قرآن یا تثلیث میں لوح مقدسہ اسماء الہیہ معطی اور علی کی لوح چاندی پر کندہ کر کے لڑکی اپنے پاس رکھے اور لوح مقدسہ کو سامنے رکھ کر تنہائی میں (یا علیؑ) 110 مرتبہ اور (یا معطیؑ) 129 مرتبہ جمع اول و آخر دُرود شریف 11، 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاء اللہ غیب سے سب ہو جائے گا۔

لوح مقدسہ معطی				لوح مقدسہ علیؑ			
7	12	13	2	ع	ل	ی	م
14	1	39	8	11	12	13	14
4	32	15	8	10	11	5	28
9	6	29	3	21	16	ط	
31	29	1	9				
28	28	12	2				
11	3	22	29				

**نوٹ:** بریکٹ والے ہندسے نقش کی چال کے ہیں اصل نقش لوح میں یہ کوئی نہ لے ہندسے نہیں لکھے جائیں گے۔

## محبت کے لیے

جن دو میاں بیوی کہ درمیان ناچاقی ہو یا نفرت ہو گئی ہو یا اولاد بھائی بہنوں کے درمیان کشیدگی ہو۔ یا شادی کا مقصد ہو تو طالب و مطلوب مع والدہ کے اعداد قمری حاصل کر کے حاصل شدہ اعداد کے مطابق قرآن پاک کی آیت مبارکہ والقیۃ علیک محبتہ منی آیت نمبر ۳۸ سورہ طہ ص ۳۸ و شام ورد کرے اور آیت مقدسہ کی لوح زعفرانی یا نقری یا طلائی جتنی توفیق ہو پاس رکھے انشاء اللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ یہ لوح 11 نقش مقدس قمری زہرہ کے قرآن یا اسکی تثلیث و تیس میں لکھے۔ نوٹ: بریکٹ والے ہندسے نقش کی چال کے ہیں۔ اصل نقش لوح میں یہ کوئی نہ لے ہندسے نہیں لکھے جائیں گے۔

جبرائیل				یسعیا			
8	11	14	7	11	12	13	14
18	3	7	12	11	12	13	14
9	16	9	6	11	12	13	14
10	5	4	15	99			

الحب فلاں بن آیت فلاں

(التماس دعا) بلندی درجات بیگم و آغا ثار احمد (مرحوم) بانی ادارہ افتخار بک ڈپو

والدین مرحومین ایم ایچ نقوی 0323-5556259, 03324109369

علم الاعداد سے بھی رہنمائی لیتا ہوں اور ان علوم کے ذریعے جو سمت اور ملک یا شہر موافق ہو اور سفر کا مشورہ دیتا ہوں۔

**نوٹ:** معزز قارئین کرام! علم نجوم۔ علم رمل۔ علم جفر۔ علم الاعداد اور دست شناسی سے لگائے گئے احکامات اور رہنمائی ایک حد تک ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مصومین جانتے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ سارے عالمین (حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے اٹھارہ ہزار عالمین ہیں) اور سارے زمانوں کے رب عظیم اللہ تعالیٰ اور رب عظیم کی خاص حجت پاک محمد و آل محمد سے دعائیں کرتے رہیں۔ اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں یقیناً اور ضرور مستجاب ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ مولائے کائنات امیر المؤمنین سرکار حضرت علی مشکل کشاء علیہ السلام سے روایت ہے دعا مومن کی ڈھال ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔

آپ سے میری استدعا ہے کہ ہر شب جمعہ یا جمعہ کے دن گیارہ بجے سے پہلے کوشش کر کے اڈل و آخر دُرود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ کساء کی تلاوت کریں اور حسب استطاعت غریب سادات کو شمس کی نیت سے اور غیر سادات کو صدقہ و خیرات کی نیت رقم یا ضرورت کی کوئی چیز دے دیا کریں۔ کیونکہ قول معصومین ہے صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت معصومین علیہ السلام آپ کی جملہ نیک حاجات پوری کرے۔ ایمان سلامت رکھے، خیر و برکت دے۔ اللہ تعالیٰ اور پاک محمد و آل محمد آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ اپنی نیک دعاؤں میں بانیان امامیہ جنتی الحاج آغا ثار احمد مرحوم۔ اہلبیہ کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں اور آغا ثار صاحب مع متعلقین، مجھے اور تمام مومنین و مومنات کو بھی یاد رکھیں۔

## علوم سے مسائل کی تشخیص اور روحانی حل

علم نجوم۔ علم رمل۔ علم جفر و اعداد سے مشاورت مسائل کی تشخیص اور روحانی حل کے لئے رابطہ کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ پاک اور محمد و آل محمد کے خاص کرم اور تعلیمات کی روشنی سے آپ کو صحیح گائیڈ لائن دی جائے گی۔ کوآئف میں پورا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش، وقت پیدائش (اگر معلوم ہو) مقام پیدائش، تاریخ، مقام اور وقت سوال، ایک سے ننانوے (۹۹ تا ۹) کے درمیان کوئی سے چار ہندسے ذکر کار ہوں گے۔

آرٹھو سکار جاوید جمالی علوی 0301 5503367, 0332 4754515

# سعد اکبر ستارہ مشتری اور آپ

ستارہ  
مظفر شہزادی

سعد اکبر مشتری دو رُج سے وابستہ ہے۔ رُج قوس دُحوت۔ رُج قوس اور ستارہ مشتری کے حامل افراد کا لگی نمبر 3 ہوتا ہے۔ برج حوت اور سیارہ مشتری کے حامل افراد کا لگی نمبر 7 ہوتا ہے۔ مشتری سے متعلقہ افراد کے جواہر ہیرا۔ پکھراج۔ یا قوت۔ زبرجد اور سرخ عقیق ہیں۔ جنہیں چاندی کی انگوٹھی میں پہنانا سود مند رہتا ہے۔

مشتری سیارہ مریخ کے مطابق چار ماہ حالت رُجعت اور آٹھ ماہ مستقیم رہتا ہے۔ مشتری جب حالت رُجعت میں ہوتا ہے تو دولت کا ضیاع۔ اچانک اور غیر متوقع اخراجات، کاروبار میں نقصان، گھریلو ناچاقی اور اولاد کی طرف سے فکرو دامن گیر ہونے جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے۔

مشتری کے حامل افراد کے لئے بہترین پیشے بینکنگ، مینیجمنٹ، روپیہ پیسہ کا لین دین، قانونی کام یا وکالت، عبادت گاہ اور فراع عامہ کے کام، حکمت، ڈاکٹری اور گھوڑوں کی تجارت اور خیر اندیشیانا کام ہیں۔

ستارہ مشتری کے موافق لوگ ستارہ شمس، قمر اور مریخ والے ہوتے ہیں۔ جبکہ مخالف لوگ عطارد اور زہرہ والے ہوتے ہیں۔ مشتری کے حامل افراد امن پسند، صلح جو، اور خوبصورت جمالیاتی ذوق کے مالک ہوتے ہیں۔ مشتری سے متعلقہ افراد ہمیشہ قابل اعتبار دوستوں کی تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں دوستوں کے انتخاب میں غلط فہمی اور مایوسی رہتی ہے۔ اس ستارہ سے متعلقہ افراد بہت حساس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اچھے ہوں تو بہت ہی اچھے اور بُرے ہوں تو بہت ہی بُرے ہوتے ہیں۔ ستارہ مشتری والے افراد جمعرات کے روز قبل از مغرب رُج ذیل صدقات دیتے رہا کریں۔

دال چنا۔ کپڑا زرد یا سنہری۔ زندہ جانور۔ شکر سرخ گندم۔ جو اور نقد رقم بطور نوٹ۔ رُج قوس والے ان اشیاء کی مقدار تین رکھیں۔ جبکہ رُج حوت والے سات کو اہمیت دیں۔

انسانی وجود کے اعضائے دسب راست یعنی دانہنے ہاتھ کے ناخن سے لے کر نصف سینے تک براہ راست ستارہ مشتری سے متعلقہ ہیں۔ لہذا دانہنے ہاتھ کے ناخن سے لے کر نصف سینے تک کسی بھی قسم کے درد، فالج، جلدی امراض اور

میں اپنے خالق کا دل کی گہرائیوں سے تشکر ہوں کہ اس نے جتقدق امام الشقیان سیدنا علی ابن ابوطالب مجھے اس سال پھر قارئین امامیہ جنتری سے مخاطب ہونے کی سعادت سے ہمکنار کیا۔

اس سال مجھے سعد اکبر ستارہ مشتری کے متعلق اپنے معزز قارئین کو آگاہ کرنا ہے۔ کیونکہ اس کے بابت کہا گیا ہے کہ یہ ستارہ انسانوں پر رب تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ چھٹے آسمان پر طلوع کرنے والے اس بھاری بھر کم ستارہ کا حجم ملاحظہ ہو کہ یہ زمین سے 1250 گنا بڑا ہے۔ جبکہ اس کا قطر 89 ہزار میل بنتا ہے۔ زمین سے یہ 48 کروڑ میل کی دوری پر واقع ہے۔

بنیادی طور پر ایک ست رفقار سیارہ ہے۔ اس کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ چار دیگر سیارگان ہر وقت اس کے گرد گردش پذیر رہتے ہیں۔ یہ تمام بروج کا دورہ تقریباً 13 سال میں مکمل کرتا ہے۔ ہر برج میں 13 ماہ قیام پذیر رہتا ہے۔ ہر منزل میں اس کا ٹھہراؤ 5 ماہ تک ہوتا ہے۔ مشتری کو شرف برج سرطان کے پندرہویں درجہ پر ہوتا ہے اور یہ سعد ترین وقت تقریباً 13 سال بعد آتا ہے۔ مشتری آخری بار 2002ء میں شرف یافتہ ہوا تھا۔ اب 2015ء میں اسے شرف حاصل ہوگا۔ مشتری کو ہبوط برج جدی میں وبال رُج جوزا میں ہوتا ہے جو سب سے خفستہ ترین اوقات ہوتے ہیں۔

زرد رنگ کا یہ سیارہ دن کے وقت باقوت ہوتا ہے۔ لہذا مشتری کے حامل افراد قبل از مغرب اپنے تمام اہم امور نپٹا لیا کریں۔ تاکہ ناکامی سے بچا جاسکے۔ جنسی لحاظ سے اسے مذکر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ نام سے یہ مونث لگتا ہے۔ یہ جمعرات کے دن کا حاکم ہے۔ اسے دولت کا بادشاہ بھی کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہ مال و دولت، صلہ رحمی، انسانیت دوستی اور روحانیت سے متعلق ہے۔ مال و دولت اور پیسہ سے متعلقہ امور اسی ستارہ کے دن اور ساعت میں سرانجام دینا سو فیصد کامیابی پر دلالت کرتا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مالی امور ہمیشہ مشتری کے دن اور مشتری کی ساعت میں سرانجام دینا چاہیے۔ کیونکہ مالی امور کی انجام دہی کے لئے یہ سعد ترین وقت ہوتا ہے۔ ان اوقات میں مال کے ضیاع کا اندیشہ نہیں رہتا۔







# اصلاح اخلاق و عادات

کے اعداد مطابق آیت مذکورہ مع درود تین تین مرتبہ اول و آخر پڑھا کرے۔  
انشاء اللہ گیارہ دنوں میں مطلوب فرما رہا ہوگا۔

**نقش بنانے کا طریقہ:** مثال کے طور پر زمان اکبرین میوند کی اصلاح درکار ہے۔ اعداد بلحاظ ابجد قمری 472 اعداد مقدس آیت 2010 اعداد حروف صوامت 543 میزان کل 3065 = 12 - 3053 ÷ 3 حاصل قسمت 1017 بقیہ 2 لہذا خانہ نمبر 4 میں کسر آئیگی۔

مستطیل	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَدِیثُ الْبَیِّنَاتِ			مستطیل
مستطیل	1021	1026	1018	مستطیل
مستطیل	1049	1022	1024	مستطیل
مستطیل	1025	1017	1023	مستطیل
مستطیل	وقف 3065			مستطیل

شرائط: جس طرح ڈاکٹری دوا کے استعمال میں چند ہدایات ضروری ہوتی ہیں۔ اس طرح نقش عمل میں بھی کچھ شرائط واجب و لازم ہیں۔

- 1- ہر ضرورت مند کو اپنی ذات کے لئے اجازت ہے۔
  - 2- عروج ماہ ہو۔ قمر و عقرب نہ ہو۔ رجال الغیب بوقت عمل سامنے نہ ہوں۔
  - 3- مطلوب کے ستارہ کی قمری زاہرہ، یا مشتری سے نظر ٹھیکٹ یا تدریس ہو۔
  - 4- حامل نے کم از کم حروف ابجد کی زکوٰۃ صغیرا کی ہوئی ہو۔ اس کے بغیر نہیں۔
  - 5- متعلقہ ستارہ کا بخور استعمال کریں۔
- (ا): مسائل اگر خود نہ کر سکے تو متعلقہ فون نمبر پر رابطہ کریں۔  
(ب): ہر جائز کام ہو حاجت اور جملہ کواکب کی الواح شرف دستیاب ہیں۔

**بری عادات سے نجات کے لئے:** نشہ کرنا، جو اھلیان، والدین کو پریشان کرنا، برے لوگوں سے دوستی رکھنا وغیرہ۔ ماں باپ سونے ہوئے بچے سے ایک میٹر دور ہو کر تھوڑی اونچی آواز سے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ۲۱ دن تک دم کریں۔

ہر عزیز امامیہ جنتری کے محترم قارئین! اسلام علیکم۔ گو کہ مجھے شہرہ آفاق امامیہ جنتری سے شملک ہوئے چند سال ہوئے ہیں لیکن اس قلیل عرصہ میں جو مشاہدات، معاشرتی برائیوں کے انکشافات، ازدواجی گھمبیر مسائل۔ میاں بیوی کے مابین شدید اختلافات، گھریلو پریشان کن حالات اور ازدواجی کشیدہ تعلقات، دکھاری ماؤں اور غمزہ بہنوں کی زبانی اور ٹیلیفونک کالوں سے مجھ پر عیاں ہوئے ہیں۔ شاید صد سالہ زندگی میں بھی حاصل نہ ہوتے۔

نوجوان نسل کی دین سے دوری اور بالخصوص بھارتی نقش شریات (کلیلو) نے اسلامی معاشرہ کو تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ اصلاح اعمال و اخلاق کی اشد ضرورت ہے۔ میں بجا تک دہل تو ان معاشرتی برائیوں کا ذکر کرنے سے قاصر ہوں اشارہ سپر ترقی کر رہی ہوں۔ نوجوان نسل نے غلط روش اپنا رکھی ہے۔ جس سے ماؤں بہنوں کا سکون تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ میں اپنے شیخ استاد والد بزرگوار کے مجربات سے ایک آزمودہ بہترین عمل (جو کہ درحقیقت استاد العالمین کاش البرنی کا ہے) بوساطت امامیہ جنتری 2011ء ملی خدمت کے لئے پیش کر رہی ہوں۔ خدا کرے میری یہ حقیر سی کوشش نتیجہ خیز ثابت ہو۔

مقدمہ عمل: اگر زوجین میں سے کوئی بھی فریق گمراہی میں مبتلا ہو۔ مثلاً بیوی گستاخ، زبان دراز، بد اخلاق ہے، نافرمان ہے شوہر کے کنٹرول سے باہر یا شوہر صاحب گمراہ، بد عادات میں مبتلا، بیوی کے حقوق میں خیانت کر رہا ہے، کردار کٹی کر رہا ہے تو متاثرہ فریق یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ فائدہ حاصل ہوگا۔

**فائدہ عمل:** مطلوبہ عورت یا مرد کے نام کے اعداد مع والدہ بحساب ابجد قمری نکالے۔ اسمیں مقدس آیت

**والارض فرشتہا فنعم الماہدون**

کے اعداد 2050 اور حروف صوامت کے اعداد 543 شامل کر کے کل اعداد نقش شملک خام کی تیار کر کے طالب اپنے پاس رکھے اور پھر روزانہ مطلوب

# بعض نگینوں کے مختصر خواص

**پننا (زرد):** رنگ اس کا سبز آبدار ہوتا ہے۔ عموماً زہراور زہریلے

جانوروں کے کاٹنے میں مفید ہے۔ سانپ اس کو دیکھ کر اندھا ہو جاتا ہے۔  
ولادت میں عورت کی ران پر باندھنا مفید ہے۔

**پکھراج:** یہ گیند امراض بلغمی، ضعف معدہ، جذام اور بواسیر کے لئے

مفید ہے۔ مسرت اور خوشی بخشتا ہے۔ شادی و نجات میں وفاداری ظاہر کرتا ہے۔

**یشب:** زیتونی رنگ کا بہترین ہوتا ہے۔ بالکل سبز ہو تو زیادہ قیمتی ہوتا

ہے۔ اس کا گلے میں پہننا مقوی قلب و معدہ ہے۔ ہاتھ میں پہننا سحر، نظر بد اور  
بجلی سے ضرر کا محافظ ہے۔ جنگ میں دشمن پر غالب آنے کا موجب ہے۔

★ انگوٹھی پہننے سے قبل اس پر نذر دلائیں۔

## نذر دہنے کا طریقہ

پہلے نیت کریں کہ میں نذر پیش کرتا ہوں / کرتی ہوں بارگاہ  
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام مولا مشکل کشا کی خدمت میں "قریبۃ الی  
اللہ" پھر سات مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ (سورہ الحمد)  
اور تین مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، پھر سات مرتبہ درود پڑھیں اور کہیں یا  
علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اس نذر کا ثواب آپ کی خدمت اقدس میں  
ہدیہ کرتا ہوں اور اس انگوٹھی اور اس کے پہننے والے فلاں ابن فلاں / فلاں  
بنت فلاں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں اور یہ انگوٹھی پہن لیں۔ انشاء اللہ تمام  
مسائل حل ہوں گے اور کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔

منقول از تہذیب الاسلام (علامہ مجلسی) مطبوعہ انتشارک ڈپو

## نگینوں کی مکمل وراثی کا مرکز

نیلیم، پکھراج، یاقوت کے علاوہ امام ضامن، 9 کے عدد

اور نقش نوروزی کی انگوٹھی کا مرکز

اوقات کار 5 تا 9 بجے رات بروز جمعہ 11:30 تا 3:30 شام

# جوہرے

حکیم سینہ  
مظفر علی رضوی

ناتھ  
بروز آثار

جامع مسجد صاحب الزمان حیدرآباد اسلام پورہ لاہور  
Ph: 042 37155098, 0300 4519796

**حقیق:** حضرت رسول خدا داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ حدیث میں

حضور نے فرمایا کہ حقیق کی انگوٹھی پہنو یہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی  
وحدانیت، میری نبوت اور علی تمہاری امامت کا اقرار کیا۔ حضرت رسول خدا  
نے فرمایا کہ جو حقیق کی انگوٹھی پہنے گا اس کی حاجتیں روا ہوں گی۔ حضرت امام  
جعفر صادق نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حقیق  
کے پہننے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے۔ غصہ کم  
ہوتا ہے۔ سحر و جادو کے اثرات باطل ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔  
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حقیق کی انگوٹھی سفر میں  
باعث امن ہے۔

**فیروزہ:** حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو

شخص فیروزہ کی انگوٹھی پہنے گا محتاج نہ ہوگا۔ قول رسول خدا ہے کہ پروردگار عالم  
کا ارشاد ہے کہ جس ہاتھ میں حقیق اور فیروزہ کی انگوٹھی ہو اور میرے آگے ہاتھ  
دعا کے لئے پھیلا یا جائے۔ میں اسے نام امید نہیں پھیرتا۔ جو شخص فیروزہ کی  
انگوٹھی پہنتا ہے صدمہ قتل، برق، غرقابی اور بجلی کی رو سے محفوظ رہتا ہے۔

**یاقوت:** حضرت علی ابن موسیٰ رضاؑ سے منقول ہے کہ یاقوت کی انگوٹھی

پہننے سے پریشانی زائل ہوتی ہے۔ یاقوت زرد کی انگوٹھی بیماری سے حفاظت  
کرتی ہے اور غم کو دور کرتی ہے۔

**ہیرا:** اس کی انگوٹھی سرگی کے مریض کے لئے مفید ہے۔ مقوی دل اور

دافع خوف ہے۔ معدہ پر لٹکانے سے درد شکم دور ہوتا ہے۔ زرد ہیرا بہت  
مبارک ہے۔ کالا ہیرا اور سرخ ہیرا انھیں سمجھا جاتا ہے۔

**لہسینیہ:** اس کا پہننا نظر بند سے بچاتا ہے۔ اس کا رنگ بھورا سفیدی

ماںل ہوتا ہے اور سبزی ماںل بھی ہوتا ہے۔ سیاہی ماںل سفید دھاریوں والا،  
خصوصاً تین دھاریوں والا سے بہتر مانا جاتا ہے۔ اس کا پہننے والا دولت مند اور اس

پر خوف غالب نہیں آتا۔

**نیلیم:** اس کا رنگ نیلا، شفاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ جس نیلیم میں سرخی کی

جھلک ہوتی ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ مقوی دل و دماغ ہے جس کو راس  
آجائے مالا مال کر دیتا ہے۔

# عمل برائے امراضِ دل اور شادی

اس سال امامیہ جستری ۲۰۱۱ء کے لئے خصوصی طور پر ایک نیا عمل تجربہ شدہ سامنے آیا۔ جو دل کے امراض اور درد دل کے لئے ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ دل کو مریض اس عمل سے شفا حاصل کریں گے۔ دوسرا عمل نقش شادی کے لئے ہے۔ آج کل والدین اپنے بچے بچوں کی شادی کرنے کے لئے بے حد پریشان نظر آتے ہیں۔ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے اور قرآن حکیم سے مدد لیجئے۔ یقین شرط اول ہے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بصدقہ محمد و آل محمد۔

پڑھنے کے بعد اول آخر چودہ مرتبہ درود شریف اور ایک سو مرتبہ

" وَ هُوَ اللطيفُ الخبيرُ "

پڑھے۔ پڑھنے والا نماز کی پابندی رکھے۔ یہ درود چالیس دن تک پڑھنا ہے۔ نقش درج ذیل ہے۔

بسم اللہ	۷۱۶	بسم اللہ
۱۸	۳	۲۴
۲۱	۱۵	۹
۶	۲۷	۱۲
۳۳۳۳۳		۳۳۳۳۳

الہی حرمت این نقش کے فلاں بن فلاں کی شادی ہو جائے السانۃ السانۃ

اگر لڑکا ہے تو دائیں بازو پر باندھ لے اگر لڑکی ہے تو گلے میں پہن لے۔

**نوٹ:** ہر قسم کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ پھر بھی کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بذریعہ خط مبع رجسٹرڈ جوابی لفافہ کے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر فون پر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ جواب تسلی بخش دیا جائے گا۔

حاجی عامل عابد حسین جاڑا فون: 0308 5691283

بمقام وڈا کمانڈ جاڑا، تحصیل پہاڑ پور، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

## تحفہ عظیم حرز دافع بلیات

نہایت اہتمام کے ساتھ موسم جامہ کیا گیا ہے اس تعویذ مبارک میں جو شون کبیر کے علاوہ سورہ یسین، آیت الکرسی، چہار نقل، سورہ مزمل، پانچ نقش، سمر نبوت اور ناوٹھی شامل ہیں۔ باقاعدگی سے نماز ادا کیجئے۔ انشاء اللہ فیضیاب ہوں گے۔

ہدیہ -121- بازوبند -151- علاوہ ڈاک خرچ

ملنے کیلئے: افتخار بگ ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور

علی بک ڈپو اینڈ جنرل سٹور ملکووال

## امراضِ دل و درد دل کے لئے:

گذشتہ ماہ میں اپنے بزرگ پچازاد بھائی حجتہ الاسلام مفسر قرآن حضرت علامہ حسین بخش جاڑا (مرحوم) کی تفسیر انوار النجف کی پندرہویں جلد پڑھ رہا تھا کہ صفحہ نمبر 98 پر لکھا تھا۔ درد دل کے لئے سورۃ حم سجدہ (جو کہ قرآن مجید کے ۲۳، ۲۵ پارہ میں موجود ہے) کو زعفران سے کاغذ پر لکھ کر پھر کاغذ پر لکھی ہوئی سورۃ کو پاک صاف برتن میں پاک صاف پانی سے دھو لیں۔ اور اس پانی میں آنا خمیر کر لیں۔ آٹے کو خشک کر لیں پھر اس کو کوٹ کر سفوف بنا کر بحفاظت رکھ لیں۔ دل کے مریض کو صرف ایک چنگلی پانی کے ساتھ کھلائیں۔ انشاء اللہ درد دل دور ہو جائیگا۔ اور دیگر امراضِ دل کو بھی اس دوا اور دعا سے فائدہ پہنچے گا۔ ضرور آزمائیں یقین کامل کے ساتھ۔ سورۃ تھوڑی لمبی ہے۔ اگر کسی صاحب کو لکھنے میں وقت ہو تو یہ خدمت لکھنے کی میں کر دوں گا۔ مگر اس کے لئے مناسب ہدیہ ادا کرنا ہوگا۔ سورۃ لکھتے وقت زبردستی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شفاء پانے سے پہلے اور آخر میں گذارش ہے کہ علامہ حسین بخش جاڑا (مرحوم) اعلیٰ اللہ مقامہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لئے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر دعا فرمائیں۔ صحت یابی کے بعد بانی امامیہ جستری آغا شہار احمد مرحوم کے لئے بھی دعا فرمادیں۔

## شادی کے لئے عمل:

آج کل والدین اپنے بچے بچوں کی شادی کے لئے پریشان نظر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور قرآن حکیم سے مدد حاصل کریں اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاء اللہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن کے اندر مناسب رشتہ مل جائے گا جو کہ آپ لوگوں کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ نو چندنی اتوار کو مشتری کی ساعت میں زعفران سے نقش کو مرتب کرے اور صبح ہی نماز

ڈاکٹر برادر تحصیل بازار جہلم

# سعد و محسبات کی نظرآت فرما کے مالکین

تاریخ	نظرآت	وقت	تاریخ	نظرآت	وقت	تاریخ	نظرآت	وقت	تاریخ	نظرآت	وقت
<b>جنوری</b>											
2 جنوری	زحل تدیس	12.21	25 جنوری	عطار درتج	06.19	17 فروری	زحل تدیس	17.35	12 مارچ	مشتری تدیس	06.30
2 جنوری	عطار قرآن	19.01	25 جنوری	زہرہ تدیس	12.21	18 فروری	عطار مقابلہ	03.35	13 مارچ	شمس تربج	04.44
3 جنوری	مشتری تربج	06.49	26 جنوری	زحل قرآن	09.35	18 فروری	مرخ مقابلہ	08.30	14 مارچ	عطار درتج	10.22
4 جنوری	زحل تربج	20.00	26 جنوری	شمس تربج	17.57	18 فروری	شمس مقابلہ	13.35	14 مارچ	مشتری تربج	15.12
4 جنوری	شمس قرآن	14.02	27 جنوری	مرخ تربج	21.47	19 فروری	زہرہ تثلیث	18.27	14 مارچ	زحل تربج	23.14
5 جنوری	زہرہ تدیس	17.15	28 جنوری	عطار تدیس	15.50	20 فروری	مشتری مقابلہ	23.23	14 مارچ	مرخ تثلیث	23.31
5 جنوری	مشتری تدیس	15.42	29 جنوری	مشتری تثلیث	13.48	21 فروری	زہرہ تربج	22.18	15 مارچ	شمس تثلیث	15.05
5 جنوری	مرخ قرآن	04.49	29 جنوری	شمس تدیس	03.34	21 فروری	زحل قرآن	16.36	16 مارچ	مشتری تثلیث	19.40
7 جنوری	عطار تدیس	19.43	29 جنوری	مرخ تدیس	06.33	22 فروری	مرخ تثلیث	13.34	16 مارچ	عطار درتج	21.04
7 جنوری	زحل تثلیث	05.59	30 جنوری	زحل تدیس	19.16	22 فروری	شمس تثلیث	20.33	17 مارچ	زہرہ مقابلہ	06.05
8 جنوری	زہرہ تربج	09.16	30 جنوری	مشتری تربج	21.53	22 فروری	مرخ تربج	19.57	17 مارچ	زحل تدیس	02.00
9 جنوری	شمس تدیس	22.19	30 جنوری	زہرہ قرآن	08.17	24 فروری	مرخ تربج	05.10	19 مارچ	مرخ مقابلہ	07.50
10 جنوری	عطار درتج	13.20	1 فروری	<b>فروری</b>			زہرہ تدیس	03.45	20 مارچ	شمس مقابلہ	23.10
10 جنوری	مرخ تدیس	11.25	1 فروری	زحل تربج	03.40	25 فروری	عطار درتج	03.45	20 مارچ	مشتری مقابلہ	20.22
10 جنوری	مشتری قرآن	16.12	2 فروری	عطار قرآن	21.41	25 فروری	شمس تربج	04.26	21 مارچ	عطار مقابلہ	05.46
11 جنوری	زہرہ تثلیث	03.27	3 فروری	مشتری تدیس	08.11	25 فروری	زحل تدیس	23.19	21 مارچ	زہرہ تثلیث	12.54
12 جنوری	شمس تربج	16.31	3 فروری	زحل تثلیث	13.56	25 فروری	مشتری تثلیث	05.58	21 مارچ	زحل قرآن	00.27
12 جنوری	زحل مقابلہ	06.47	3 فروری	شمس قرآن	07.30	27 فروری	مشتری تربج	14.30	23 مارچ	زہرہ تربج	18.08
13 جنوری	مرخ تربج	03.59	4 فروری	مرخ قرآن	08.16	27 فروری	مرخ تدیس	06.30	23 مارچ	مرخ تثلیث	12.41
13 جنوری	عطار تثلیث	07.46	7 فروری	زہرہ تدیس	15.51	27 فروری	شمس تدیس	16.40	24 مارچ	شمس تثلیث	07.02
15 جنوری	مشتری تدیس	16.01	7 فروری	زہرہ تربج	10.38	27 فروری	عطار تدیس	20.47	25 مارچ	مرخ تربج	20.08
15 جنوری	شمس تثلیث	08.15	7 فروری	عطار تدیس	14.51	28 فروری	زحل تربج	07.35	25 مارچ	زحل تدیس	03.14
15 جنوری	مرخ تثلیث	17.46	7 فروری	مشتری قرآن	09.50	<b>مارچ</b>			25 مارچ	مشتری تثلیث	00.57
16 جنوری	زہرہ مقابلہ	11.07	8 فروری	زحل مقابلہ	14.19	1 مارچ	زہرہ قرآن	07.57	25 مارچ	عطار تثلیث	17.22
17 جنوری	مشتری تربج	22.57	8 فروری	مرخ تدیس	17.15	2 مارچ	مشتری تدیس	01.53	26 مارچ	شمس تربج	17.07
17 جنوری	زحل تثلیث	01.45	8 فروری	شمس تدیس	19.09	2 مارچ	زحل تثلیث	18.10	26 مارچ	زہرہ تدیس	04.01
18 جنوری	عطار مقابلہ	10.44	10 فروری	عطار تربج	12.40	4 مارچ	مرخ قرآن	12.27	27 مارچ	مشتری تربج	09.00
19 جنوری	زحل تربج	05.53	10 فروری	زہرہ تثلیث	05.32	5 مارچ	شمس قرآن	01.45	27 مارچ	زحل تربج	10.03
20 جنوری	شمس مقابلہ	02.21	11 فروری	زہرہ تربج	09.13	5 مارچ	عطار قرآن	17.55	28 مارچ	عطار تربج	03.59
20 جنوری	مرخ مقابلہ	08.41	11 فروری	شمس تربج	12.18	6 مارچ	زہرہ تدیس	21.08	28 مارچ	مرخ تدیس	08.17
20 جنوری	مشتری تثلیث	02.25	12 فروری	مشتری تدیس	11.04	7 مارچ	مشتری قرآن	04.42	29 مارچ	شمس تدیس	07.51
21 جنوری	زحل تدیس	07.25	13 فروری	عطار تثلیث	07.08	7 مارچ	زحل مقابلہ	18.20	29 مارچ	مشتری تدیس	20.39
21 جنوری	زہرہ تثلیث	02.16	13 فروری	زحل تثلیث	11.09	9 مارچ	مرخ تدیس	22.05	29 مارچ	زحل تثلیث	20.11
22 جنوری	عطار تثلیث	23.42	14 فروری	مرخ تثلیث	21.31	9 مارچ	زہرہ تربج	16.22	30 مارچ	عطار تدیس	16.16
23 جنوری	زہرہ تربج	06.47	14 فروری	مشتری تربج	18.51	10 مارچ	شمس تدیس	13.42	31 مارچ	زہرہ قرآن	13.28
24 جنوری	مشتری مقابلہ	05.22	14 فروری	شمس تثلیث	01.27	11 مارچ	عطار تدیس	16.55	<b>اپریل</b>		
24 جنوری	شمس تثلیث	11.24	15 فروری	زحل تربج	16.10	12 مارچ	زہرہ تثلیث	09.38	2 اپریل	مرخ قرآن	16.42
24 جنوری	مرخ تثلیث	15.59	15 فروری	زہرہ مقابلہ	08.42	12 مارچ	زحل تثلیث	16.29	3 اپریل	زحل مقابلہ	20.22
24 جنوری	مرخ تثلیث	15.59	16 فروری	مشتری تثلیث	22.29	12 مارچ	مرخ تربج	12.50	3 اپریل	شمس قرآن	19.32

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
4 اپریل	مشرقی قرآن	00.08	21 جون	مشرقی تسدیس	12.40	24 مئی	زل مقابلہ	22.40	30 اپریل	زل مقابلہ	08.02
4 اپریل	عطار قرآن	15.04	21 جون	مرخ تسدیس	14.21	25 مئی	زہرہ قرآن	21.53	30 اپریل	زہرہ قرآن	00.01
6 اپریل	زہرہ تسدیس	04.02	21 جون	زہرہ تسدیس	16.31	25 مئی	مئی				22.08
8 اپریل	زہرہ ترنج	21.21	22 جون	عطار تسدیس	23.14	25 مئی	عطار قرآن	05.13	کیم مئی	عطار قرآن	07.50
8 اپریل	مرخ تسدیس	00.55	23 جون	شمس تسدیس	17.31	27 مئی	مشرقی قرآن	19.50	کیم مئی	مشرقی قرآن	16.48
8 اپریل	زل تثلیث	18.40	23 جون	زل مقابلہ	03.10	28 مئی	زل مقابلہ	20.20	کیم مئی	مرخ قرآن	16.48
9 اپریل	مشرقی تسدیس	01.20	24 جون	عطار ترنج	15.27	29 مئی	مشرقی قرآن	11.50	3 مئی	شمس قرآن	22.29
9 اپریل	شمس تسدیس	04.47	24 جون	زل مقابلہ	22.43	30 مئی	مرخ قرآن	20.37	5 مئی	زل تثلیث	10.41
9 اپریل	عطار تسدیس	07.23	25 جون	زہرہ تسدیس	06.22	31 مئی	زہرہ قرآن	09.08	6 مئی	زہرہ تسدیس	03.06
10 اپریل	مرخ ترنج	13.52	26 جون	شمس تسدیس	20.37	31 مئی	عطار قرآن	10.49	6 مئی	عطار تسدیس	10.28
11 اپریل	زل ترنج	02.44	26 جون	جون			مشرقی تسدیس	19.29	6 مئی	مشرقی قرآن	10.06
11 اپریل	مشرقی ترنج	10.25	27 جون	زل تثلیث	01.07	2 جون	مرخ تسدیس	01.12	7 مئی	مرخ تسدیس	21.23
11 اپریل	عطار ترنج	12.03	28 جون	شمس قرآن	02.02	2 جون	زل ترنج	04.55	8 مئی	زل ترنج	23.21
11 اپریل	شمس ترنج	17.05	29 جون	مشرقی تسدیس	13.07	3 جون	مشرقی ترنج	22.51	8 مئی	زہرہ ترنج	09.16
11 اپریل	زہرہ تثلیث	11.15	30 جون	زل ترنج	08.55	4 جون	عطار ترنج	23.10	8 مئی	عطار ترنج	12.32
12 اپریل	مرخ تثلیث	22.53	22 جون	مرخ تسدیس	22.48	4 جون	شمس تسدیس	16.00	8 مئی	شمس تسدیس	16.37
13 اپریل	زل تسدیس	07.27	26 جون	مشرقی ترنج	20.26	5 جون	مشرقی ترنج	04.04	9 مئی	مشرقی ترنج	06.11
13 اپریل	عطار تثلیث	13.48	26 جون	زہرہ تسدیس	10.33	5 جون	زہرہ تسدیس	11.52	9 مئی	مرخ ترنج	13.53
13 اپریل	مشرقی تثلیث	15.50	26 جون	عطار تسدیس	08.04	6 جون	عطار تسدیس	10.46	10 مئی	زل تسدیس	11.53
14 اپریل	شمس تثلیث	00.58	3 جولائی	زل تسدیس	14.36	6 جون	زل تسدیس	01.32	11 مئی	شمس ترنج	11.55
16 اپریل	زہرہ مقابلہ	01.48	3 جولائی	شمس تسدیس	23.48	6 جون	شمس تسدیس	08.47	11 مئی	عطار تثلیث	18.00
17 اپریل	مرخ مقابلہ	06.08	3 جولائی	مرخ ترنج	07.00	7 جون	مرخ ترنج	09.06	11 مئی	زہرہ تثلیث	21.25
17 اپریل	عطار مقابلہ	10.49	3 جولائی	زہرہ ترنج	22.26	7 جون	زہرہ ترنج	09.52	11 مئی	مشرقی تثلیث	04.55
17 اپریل	مشرقی مقابلہ	18.05	5 جولائی	عطار ترنج	21.31	8 جون	عطار ترنج	19.22	11 مئی	مرخ تثلیث	23.50
17 اپریل	زل قرآن	08.17	5 جولائی	مشرقی تثلیث	01.42	8 جون	مشرقی تثلیث	07.51	13 مئی	شمس تثلیث	08.14
18 اپریل	شمس مقابلہ	07.43	5 جولائی	شمس ترنج	07.10	9 جون	شمس ترنج	15.06	14 مئی	زل قرآن	15.48
20 اپریل	زہرہ تثلیث	09.53	6 جولائی	مرخ تثلیث	13.12	9 جون	مرخ تثلیث	14.28	15 مئی	مشرقی مقابلہ	05.19
21 اپریل	زل تسدیس	08.59	7 جولائی	زہرہ تثلیث	04.15	10 جون	زہرہ تثلیث	20.51	15 مئی	عطار مقابلہ	15.37
21 اپریل	عطار تثلیث	09.52	7 جولائی	زل قرآن	21.00	10 جون	زل قرآن	21.01	15 مئی	زہرہ مقابلہ	23.36
21 اپریل	مرخ تثلیث	12.48	8 جولائی	عطار تثلیث	09.01	11 جون	عطار تثلیث	03.08	16 مئی	مرخ مقابلہ	11.29
21 اپریل	مشرقی تثلیث	21.56	8 جولائی	شمس تثلیث	13.03	11 جون	شمس تثلیث	16.08	17 مئی	شمس مقابلہ	04.59
22 اپریل	زہرہ ترنج	18.24	8 جولائی	مشرقی مقابلہ	08.04	12 جون	زل تسدیس	16.41	18 مئی	زل تسدیس	03.20
22 اپریل	شمس تثلیث	19.10	9 جولائی	مرخ مقابلہ	22.43	13 جون	مشرقی تثلیث	19.17	19 مئی	مشرقی تثلیث	22.10
23 اپریل	زل ترنج	13.55	9 جولائی	زہرہ مقابلہ	17.46	14 جون	زل ترنج	20.32	20 مئی	زل ترنج	23.06
23 اپریل	عطار ترنج	14.47	10 جولائی	زل تسدیس	01.18	15 جون	زہرہ تثلیث	10.26	20 مئی	زہرہ تثلیث	08.06
23 اپریل	مرخ ترنج	21.42	10 جولائی	عطار مقابلہ	08.30	16 جون	عطار تثلیث	12.05	20 مئی	عطار تثلیث	18.05
24 اپریل	مشرقی ترنج	05.13	12 جولائی	شمس مقابلہ	01.13	16 جون	مرخ تثلیث	13.11	20 مئی	مرخ تثلیث	16.55
25 اپریل	شمس ترنج	07.46	12 جولائی	مشرقی تثلیث	15.04	16 جون	مشرقی ترنج	02.04	22 مئی	مشرقی ترنج	10.04
25 اپریل	زہرہ تسدیس	08.12	12 جولائی	زل ترنج	05.24	17 جون	زہرہ ترنج	23.11	22 مئی	زہرہ ترنج	17.20
25 اپریل	زل تثلیث	22.45	14 جولائی	مشرقی ترنج	21.54	18 جون	مرخ ترنج	23.45	22 مئی	مرخ ترنج	15.19
26 اپریل	عطار تسدیس	00.27	14 جولائی	زہرہ مقابلہ	13.07	18 جون	شمس تثلیث	08.55	22 مئی	شمس تثلیث	17.55
26 اپریل	مرخ تسدیس	11.13	14 جولائی	زل تثلیث	12.18	19 جون	زل تثلیث	02.52	23 مئی	عطار ترنج	07.31
26 اپریل	مشرقی تسدیس	16.27	15 جولائی	زہرہ تثلیث	15.07	19 جون	زل تثلیث	04.00	23 مئی	زل تثلیث	11.39
28 اپریل	شمس تسدیس	00.24	16 جولائی	مرخ ترنج	01.22	21 جون	شمس ترنج	23.52	24 مئی	شمس ترنج	14.53

جولائی

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
16 جولائی	زحل عطیث	22.40	10 اگست	مشتری عطیث	19.16	5 ستمبر	زحل عطیث	05.17	12 اکتوبر	عطارد عطیث	03.57
17 جولائی	عطارد مقابلہ	17.23	11 اگست	زحل تریخ	01.33	5 ستمبر	عطارد عطیث	22.04	12 اکتوبر	زحل عطیث	17.36
17 جولائی	مرخ عطیث	11.55	13 اگست	مشتری تریخ	03.19	7 ستمبر	زحل تریخ	12.11	12 اکتوبر	زہرہ عطیث	23.02
19 جولائی	مشتری عطیث	00.51	13 اگست	زہرہ مقابلہ	22.22	7 ستمبر	مشتری عطیث	01.49	14 اکتوبر	شمس تریخ	08.15
19 جولائی	زہرہ عطیث	23.42	13 اگست	شمس مقابلہ	23.57	7 ستمبر	شمس عطیث	09.27	14 اکتوبر	عطارد تریخ	16.47
20 جولائی	مرخ تریخ	01.44	13 اگست	زحل عطیث	09.57	7 ستمبر	زہرہ عطیث	21.20	14 اکتوبر	زحل تریخ	23.52
20 جولائی	شمس عطیث	16.14	14 اگست	عطارد مقابلہ	10.29	8 ستمبر	مرخ مقابلہ	01.35	14 اکتوبر	مشتری عطیث	04.23
21 جولائی	زحل مقابلہ	20.53	15 اگست	مشتری عطیث	13.21	9 ستمبر	مشتری تریخ	10.06	15 اکتوبر	زہرہ تریخ	10.57
22 جولائی	زہرہ تریخ	18.57	15 اگست	مرخ عطیث	09.06	9 ستمبر	زحل عطیث	21.30	16 اکتوبر	مشتری تریخ	11.51
22 جولائی	مرخ عطیث	17.45	18 اگست	مرخ تریخ	00.11	11 ستمبر	عطارد مقابلہ	06.05	16 اکتوبر	مرخ مقابلہ	16.08
23 جولائی	شمس تریخ	10.01	18 اگست	زحل مقابلہ	08.47	11 ستمبر	مشتری عطیث	20.16	16 اکتوبر	شمس عطیث	21.13
23 جولائی	عطارد عطیث	02.34	19 اگست	عطارد عطیث	02.02	12 ستمبر	شمس مقابلہ	14.26	17 اکتوبر	زحل عطیث	09.25
24 جولائی	مشتری قرآن	02.19	19 اگست	شمس عطیث	09.12	13 ستمبر	زہرہ مقابلہ	06.45	17 اکتوبر	عطارد عطیث	10.21
25 جولائی	عطارد تریخ	18.11	19 اگست	زہرہ عطیث	10.52	13 ستمبر	مرخ عطیث	04.17	18 اکتوبر	مشتری عطیث	21.50
25 جولائی	زہرہ عطیث	13.44	20 اگست	مرخ عطیث	16.26	14 ستمبر	زحل مقابلہ	21.26	18 اکتوبر	زہرہ عطیث	02.58
26 جولائی	شمس عطیث	02.37	20 اگست	مشتری قرآن	14.13	15 ستمبر	مرخ تریخ	20.06	11 اکتوبر	مرخ عطیث	21.02
26 جولائی	زحل عطیث	20.35	21 اگست	عطارد تریخ	11.12	16 ستمبر	مشتری قرآن	20.26	12 اکتوبر	شمس مقابلہ	07.05
27 جولائی	مرخ قرآن	21.55	22 اگست	شمس تریخ	02.54	17 ستمبر	عطارد عطیث	03.34	12 اکتوبر	زحل مقابلہ	10.16
28 جولائی	عطارد عطیث	05.35	22 اگست	زہرہ تریخ	06.11	18 ستمبر	مرخ عطیث	12.08	13 اکتوبر	عطارد مقابلہ	05.08
28 جولائی	مشتری عطیث	21.50	23 اگست	عطارد عطیث	19.33	18 ستمبر	شمس عطیث	02.19	13 اکتوبر	زہرہ مقابلہ	17.21
29 جولائی	زحل تریخ	04.03	23 اگست	زحل عطیث	09.46	18 ستمبر	زہرہ عطیث	22.02	13 اکتوبر	مشتری قرآن	21.24
30 جولائی	زہرہ قرآن	15.03	24 اگست	شمس عطیث	17.22	19 ستمبر	زحل عطیث	23.20	14 اکتوبر	مرخ تریخ	12.54
30 جولائی	شمس قرآن	23.39	24 اگست	زہرہ عطیث	21.52	20 ستمبر	عطارد تریخ	02.29	17 اکتوبر	مرخ عطیث	04.05
31 جولائی	مشتری تریخ	02.22	25 اگست	زحل تریخ	17.58	20 ستمبر	شمس تریخ	18.38	17 اکتوبر	زحل عطیث	12.15
31 جولائی	زحل عطیث	08.09	25 اگست	مشتری عطیث	10.24	21 ستمبر	زہرہ تریخ	14.38	17 اکتوبر	شمس عطیث	18.36
			25 اگست	مرخ قرآن	18.04	21 ستمبر	مشتری عطیث	17.51	18 اکتوبر	عطارد عطیث	22.30
کیم اگست	مرخ عطیث	11.19	27 اگست	مشتری تریخ	14.44	22 ستمبر	زحل تریخ	08.37	18 اکتوبر	مشتری عطیث	19.31
کیم اگست	عطارد قرآن	15.28	27 اگست	زحل عطیث	22.06	22 ستمبر	عطارد عطیث	20.17	19 اکتوبر	زحل تریخ	22.21
2 اگست	مشتری عطیث	04.37	28 اگست	عطارد قرآن	04.48	23 ستمبر	مشتری تریخ	23.14	19 اکتوبر	زہرہ عطیث	05.59
3 اگست	مرخ تریخ	15.06	29 اگست	مشتری عطیث	15.57	23 ستمبر	شمس عطیث	06.22	20 اکتوبر	شمس تریخ	08.30
4 اگست	زہرہ عطیث	03.56	29 اگست	شمس قرآن	08.04	23 ستمبر	مرخ قرآن	11.24	21 اکتوبر	مشتری تریخ	02.37
4 اگست	شمس عطیث	10.04	29 اگست	زہرہ قرآن	14.10	24 ستمبر	زہرہ عطیث	01.49	21 اکتوبر	عطارد تریخ	12.57
4 اگست	زحل قرآن	11.53	30 اگست	مرخ عطیث	03.14	24 ستمبر	زحل عطیث	13.36	21 اکتوبر	زہرہ تریخ	18.25
5 اگست	عطارد عطیث	18.32	31 اگست	زحل قرآن	23.43	26 ستمبر	مشتری عطیث	00.47	22 اکتوبر	زحل عطیث	04.36
5 اگست	مرخ عطیث	19.26				27 ستمبر	عطارد قرآن	14.08	22 اکتوبر	شمس عطیث	17.34
6 اگست	زہرہ تریخ	10.57	کیم ستمبر	مرخ تریخ	05.27	27 ستمبر	شمس قرآن	16.08	22 اکتوبر	مرخ قرآن	01.11
6 اگست	شمس تریخ	16.08	کیم ستمبر	عطارد عطیث	08.24	27 ستمبر	مرخ عطیث	17.54	23 اکتوبر	عطارد عطیث	21.48
6 اگست	مشتری مقابلہ	08.51	2 ستمبر	مشتری مقابلہ	16.50	28 ستمبر	زہرہ قرآن	11.33	23 اکتوبر	مشتری عطیث	05.54
7 اگست	عطارد تریخ	20.53	2 ستمبر	شمس عطیث	15.40	28 ستمبر	زحل قرآن	14.36	24 اکتوبر	زہرہ عطیث	01.47
8 اگست	زحل تریخ	19.06	3 ستمبر	عطارد تریخ	13.03	29 ستمبر	مرخ تریخ	19.12	26 اکتوبر	مرخ عطیث	06.50
8 اگست	زہرہ عطیث	20.12	3 ستمبر	زہرہ عطیث	00.08	29 ستمبر	مشتری مقابلہ	23.12	26 اکتوبر	زحل قرآن	07.03
9 اگست	شمس عطیث	00.21	3 ستمبر	مرخ عطیث	09.10				27 اکتوبر	مشتری مقابلہ	04.53
10 اگست	مرخ مقابلہ	09.51	4 ستمبر	شمس تریخ	22.39	کیم اکتوبر	شمس عطیث	23.30	27 اکتوبر	شمس قرآن	00.55
10 اگست	عطارد عطیث	00.20	5 ستمبر	زہرہ تریخ	08.53	کیم اکتوبر	مرخ عطیث	22.29	28 اکتوبر	مرخ تریخ	07.56

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
28 اکتوبر	عطارد قرآن	07.08	22 نومبر	زحل قرآن	22.43	18 دسمبر	عطارد تدیس	22.24	24 دسمبر	شمس قرآن	23.06
28 اکتوبر	زہرہ قرآن	09.23	23 نومبر	مشتری مقابلہ	10.24	18 دسمبر	زہرہ تثلیث	07.28	26 دسمبر	زحل تریخ	18.35
30 اکتوبر	زحل تدیس	08.17	23 نومبر	مرخ تثلیث	16.30	20 دسمبر	شمس تریخ	12.17	26 دسمبر	مشتری تریخ	22.52
30 اکتوبر	مرخ تثلیث	11.03	25 نومبر	مرخ تریخ	18.06	20 دسمبر	مشتری مقابلہ	16.14	26 دسمبر	مرخ تثلیث	02.11
31 اکتوبر	شمس تدیس	10.33	25 نومبر	شمس قرآن	11.09	20 دسمبر	زحل قرآن	11.18	27 دسمبر	زہرہ قرآن	12.32
31 اکتوبر	مشتری تثلیث	06.19	26 نومبر	عطارد قرآن	15.02	20 دسمبر	زہرہ تریخ	14.48	28 دسمبر	عطارد تدیس	00.00
1 نومبر	زحل تریخ	13.14	27 نومبر	زحل تدیس	00.12	21 دسمبر	مرخ تدیس	19.56	29 دسمبر	مشتری تدیس	05.28
2 نومبر	مشتری تریخ	11.53	27 نومبر	مشتری تثلیث	11.01	22 دسمبر	زہرہ تدیس	20.53	29 دسمبر	شمس تدیس	18.56
2 نومبر	شمس تریخ	21.38	27 نومبر	مرخ تثلیث	21.22	23 دسمبر	مرخ تریخ	22.30	29 دسمبر	زحل تثلیث	01.09
2 نومبر	عطارد تدیس	00.55	29 نومبر	زہرہ قرآن	09.26	23 دسمبر	عطارد قرآن	08.09	30 دسمبر	عطارد تریخ	14.39
2 نومبر	زہرہ تدیس	01.59	29 نومبر	زحل تریخ	04.01	24 دسمبر	زحل تدیس	15.02	30 دسمبر	مرخ مقابلہ	18.37
3 نومبر	زحل تثلیث	22.05	30 نومبر	مشتری تریخ	14.49	24 دسمبر	مشتری تثلیث	19.23			
4 نومبر	عطارد تریخ	17.01	30 نومبر	شمس تدیس	01.08						
4 نومبر	زہرہ تریخ	17.32		عطارد تدیس	18.35						
4 نومبر	مشتری تدیس	20.55									
4 نومبر	مرخ مقابلہ	05.05									
5 نومبر	شمس تثلیث	13.04									
7 نومبر	عطارد تثلیث	12.15									
7 نومبر	زہرہ تثلیث	12.25									
8 نومبر	زحل مقابلہ	23.09									
9 نومبر	مرخ تثلیث	10.45									
9 نومبر	مشتری قرآن	20.19									
11 نومبر	شمس مقابلہ	01.16									
12 نومبر	مرخ تریخ	01.51									
13 نومبر	عطارد مقابلہ	02.21									
13 نومبر	زہرہ مقابلہ	03.14									
14 نومبر	مرخ تدیس	15.27									
14 نومبر	مشتری تدیس	18.22									
14 نومبر	زحل تثلیث	00.22									
16 نومبر	زحل تریخ	10.22									
16 نومبر	شمس تثلیث	09.03									
17 نومبر	مشتری تریخ	02.33									
18 نومبر	شمس تریخ	20.09									
18 نومبر	زحل تدیس	17.27									
18 نومبر	عطارد تثلیث	05.08									
18 نومبر	زہرہ تثلیث	08.59									
19 نومبر	مشتری تثلیث	07.50									
19 نومبر	مرخ قرآن	10.11									
20 نومبر	عطارد تریخ	11.51									
20 نومبر	زہرہ تریخ	17.54									
21 نومبر	شمس تدیس	03.21									
22 نومبر	عطارد تدیس	14.39									
22 نومبر	زہرہ تدیس	23.29									

قارئین امامیہ جتیزی اہم نظرات قمر برائے وظائف و عملیات

عالمین۔ تمام اوقات اسلام آباد کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔ کسی قسم کے تفاوت و وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ نظرات کے اوقات صرف درجہ مکمل نظر پر ہیں۔ اگر آپ عملیات و وظائف یا کسی بھی طرح نظرات قمر سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے وقت سے 2 گھنٹہ پہلے اپنا کام کا آغاز کر لیں اور دیے گئے وقت کے 2 گھنٹہ بعد تک انجام دیں۔ گل وقت 4 گھنٹہ ہر ایک نظر قمر کا ہے۔ تثلیث و تدیس کی نظرات سعد کاموں کے آغاز و انجام دہی کے لئے تریخ و مقابلہ کی نظرات شخص امور از قسم عملیات کے لئے استعمال کریں۔ قرآن سعد ستاروں کے ساتھ سعد کاموں کے لئے اور شخص ستاروں کے ساتھ شخص کاموں کے لئے مستعمل ہوگا۔ کسی بھی قسم کی مشاورت کے لئے رابطہ کریں۔ دُعا گو۔ رضا عسکری اعوان

## زائچہ سنوائیں

علم نجوم کی روشنی میں کارہائے زندگی میں آنے والی مشکلات، روزی، روزگار، ساڑھ ستی ستاروں کی نحوست جاننا، کسی کام کے آغاز سے پہلے ستاروں کی موافقت جانچنے، جادو ٹونہ بہاریاں اور دیگر امور کو جانچنے اور ان میں کامیابی کے حصول کے لئے علم نجوم کی روشنی میں پیدائشی، سالانہ، وقتی زائچہ، بنا کر

راہنمائی حاصل کریں۔ **استرو لوجر۔ غلام رضا عسکری اعوان**

مکان نمبر 2146/129 کی پ نمبر 2 کا مور کالونی نواب شاہ۔

بینظیر آباد، PC. 67450 فون: 0333 7014915

e mail: jafar\_e\_najaf@yahoo.com



# انسان کائنات اور رموز سیارگان

تحریر: شیخ زوار رضا جاوا

815/A سبزہ زار لاہور 0300+0321-9477284

کے طور پر آپ کو درود وظائف یا صدقات بتائے جاتے ہیں مگر یہ تمام باتیں اسی وقت ممکن ہوتی ہیں جب یہ شخصیں ہو کہ جو بات کیا ہیں مثلاً جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ قمر درمقرب ایک شخص وقت ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نومولود کے زائچے کے پہلے گھر قمر درمقرب ہو تو اس کے شخصی وقار کو متاثر کرے گا دوسرے ہوتو روپیہ پیسہ کا نقصان ہوگا یا حصول ہی مشکل ہوگا اگر تیسرے گھر ہوتو عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کرے گا اگر چوتھے ہوتو جائے رہائش یا والدہ کی جانب سے پریشانیوں لے کر آئے گا اگر پانچویں ہوتو اولاد کا حصول یا اولاد کی جانب سے قلبی سکون ممکن نہ ہوگا چھٹے گھر ہوتو صحت، ملازمت وغیرہ کو متاثر کرے گا اگر ساتویں ہوتو ازدواجی شراکتی زندگی اجیرن کر دے گا مختصر ہر گھر کے منسوبات کے مطابق اپنے اثرات کو ظاہر کرے گا اور یہ ہر ماہ ہوتا ہے اور تقریباً 24 گھنٹوں میں یہ زائچہ کے تمام حصوں کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر یہ بوقت پیدائش شرف یا دوج وغیرہ میں ہوتو اول الذکر تمام امور میں بہتری کا باعث بنتا ہے ایسا بھی ہر ماہ ہوتا ہے اسی طرح باقی سیارگان بھی آپ کی زندگی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ یہ جان لیں کہ کونسا ستارہ آپ کی زندگی کیا کردار ادا کر رہا ہے تو ان سے منسوب درود وظائف الواح یا صدقات سے آپ اسکے شخص اثرات سے پروردگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح علم نجوم کی بھی معالے میں فیصلہ کرتے وقت آپ کا معاون ہو سکتا ہے۔ کس وقت کونسا کام آپ کے لیے انجام دینا بہتر ہے اور کس وقت نہیں بالخصوص شادی بیاہ و منگنی وغیرہ سے قبل یہ دیکھ لینا کہ بیٹا بیٹی کیلئے یہ رشتہ، ازدواج کیسارے گا از حد ضروری ہے کہ تاکہ بعد کی قیامتوں سے بچا جاسکے کیونکہ زندگی کے کئی ایک اہم فیصلوں میں سے یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے اسی طرح غلط وقت پر کئی گئی شراکت داری یا سرمایہ کاری آپ کے مسائل میں اضافہ کا باعث ہو سکتی ہے علم نجوم زندگی کے تقریباً تمام امور میں آپ کی بہترین راہنمائی کر سکتا ہے۔

## اپنا زائچہ بنوائے

اپنی زندگی کے اہم ترین امور میں بہترین فیصلہ کرنے یا اپنے مسائل کی تشخیص و حل کیلئے آئمہ طاہرین کے پاک و پاکیزہ علم (علم جعفر و نجوم) سے راہنمائی حاصل کیجئے اور جاننے اپنے شخصی وقار، روپیہ پیسہ، کاروبار، صحت، ازدواجی خانگی معاملات، اولاد، پراپٹی، بیرون ملک سفر، ایمگریشن علی ہذا القیاس زندگی کے تمام امور اسکے علاوہ کئی نمبرز، بکنی سٹون، یا کس مقصد کیلئے کونسا پتھر کس طریقہ سے استعمال کرنا بہتر ہوگا۔ اس بارے تمام تفصیلات انتہائی مناسب زائچہ نویس ادا کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کی سہولت کیلئے ہر قسم کے ریکل سٹون، ایرانی شہرہ جزوالی انگوٹھیاں بھی دستیاب ہیں اسکے علاوہ حرا سیب اور نظر بد سے تحفظ کیلئے اپنا تیار کردہ ورد شدہ بخورد بھی دستیاب ہے۔

شیخ زوار رضا جاوا 815/A سبزہ زار لاہور 0300+0321-9477284

حمد و شاعر محمد و آل محمدؐ کی اور بے حد درود و سلام محمد و آل محمدؐ پر کہ بلاشبہ یہی لائق درود ہیں گذشتہ سال آپ کو سیارگان اور ان کے مراتب کے بارے ایک چارٹ کے ذریعے بتایا گیا یہ نظام قدرت ہے کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کے سیارگان حسب مراتب اس بچے پر سجد و خمس اثرات مرتب کرتے ہیں اور انہی مراتب کے زیر اثر بچہ بڑا ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے آپ نے اکثر افراد کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر صلہ نہیں ملتا دراصل انہیں یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کس شعبہ میں محنت کرنی چاہیے یہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ آپ کو لاہور سے راولپنڈی جانا ہے اور آپ ملتان کی ٹرین میں سوار ہو جائیں ہر آنے والے وقت میں آپ منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ قدرت نے آپ کو شرف الخلوقات بتایا ہے اور آپ کو علم سے نوازا ہے اب یہ آپ پر فرض ہے کہ علم کے ذریعے اپنی شرفی پوزیشن پر فائز ہوں نبی کریمؐ کا فرمان کہ (کوڈ سے گورنک علم حاصل کرو) اسی سلسلہ کی کڑی ہے کچھ افراد اس سے مراد صرف نصابی علم لیتے ہیں جبکہ خالق اکبر نے آپ کو شرف الخلوقات بنا کر تمام کائنات آپ کے تصرف میں دے دی اسکی ایک واضح مثال آپ کو آئمہ طاہرین کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی ملتی ہے آئمہ سے کائنات کے کسی بھی علم سے متعلقہ سوال کیا جاتا تھا تو فوراً جواب صاحب سوال کو مل جاتا تھا آئمہ کا جذبہ خدا کی میں ان تمام علوم کے بارے میں علم رکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی کوشش سے ان تمام علوم پر دسترس رکھ سکتا ہے مگر ان تمام علوم کا اچھا یا بڑا استعمال اسکی اپنی صوابدید پر ہے مختصر انسان کی سہولت کیلئے پروردگار نے جو علم آئمہ ہمیں کئی ایک علوم سے نوازا تاکہ انسان اپنے معاملات میں آگاہی حاصل کر سکے علم نجوم بھی ایسا ہی ایک علم ہے یہ آپ کو پیش آنے والے متوقع حالات سے آگاہی دیتا ہے یا کئی ایسے سوالات جن کا جواب عام حالات میں آپ کے لیے جاننا ممکن نہیں ہوتا ان میں علم نجوم کے ذریعے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے یہ نظام قدرت ہے کہ ہر انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے دوسرا ایک جیسے رہتے ہیں کوئی ترقی کرتا ہوا بہت اور پرچلا جاتا ہے تو کوئی تنزلی کا شکار ہو کر پیچھے چلا جاتا ہے جیسا کہ گذشتہ مضامین میں آپ کو بتایا گیا کہ تمام ستارے حکم خداوندی سے انسانی زندگی پر مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں کیا یہ حکمت خداوندی نہیں کہ ایک ہی ستارہ کبھی سجد اثرات مرتب کرتا ہے تو کبھی خمس اثرات مگر پروردگار عالم نے ہر مرض سے پہلے شفاء کا وعدہ بھی کیا ہے کیا یہ اس کا خاص لطف و کرم نہیں کہ وہ ہمیں بار بار اپنے آگے مٹھکے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمارے مانگنے پر خوش ہو کر عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے یہ تمام دعائیں و قرآنی آیات جو کہ ہمارے امور زندگی مثلاً رزق، اولاد، صحت، روپیہ وغیرہ کے حصول کیلئے بذریعہ آئمہ ہم تک پہنچائیں گئیں یہ تمام اسی سلسلہ کی کڑی ہیں آپ سب کیلئے ان چیزوں کا حصول ممکن ہے ایک اچھا منجھ آپ کے زائچہ میں ان وجوہات کو تلاش کرتا ہے جو آپ کی ترقی یا حصول مراد میں رکاوٹ ہوتی ہیں یا آپ کے لیے مسائل کا باعث ہوتی ہیں اور پھر علاج

## فالنماہ انبیاء علیہم السلام

جب کسی کو کوئی مشکل پیش آوے اور متردد ہو کہ اس امر میں کیا کرنا چاہئے تو نظر بخدا کر کے اس طریقہ پر فال دیکھئے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور آیۃ الکرسی مع اول و آخر و درود شریف پڑھ کر آنکھیں بند کر کے کلمہ کی انگلی اوپر اسمائے شریف انبیاء علیہم السلام کے رکھ کر دیکھئے۔

رنج پہنچے گا اور بعد چند روز کے خوشی ہوگی۔ دشمنان مقہور ہونگے اور دوستان مسرور۔

**فال حضرت شعیب علیہ السلام:** اے خداوند فال اگر خواہش نکاح ہے تو زن جمیلہ اور فرزند نیک پیدا ہو اور جس چیز کو تیرا جی چاہے وہ مل جائے اور جو کام کرے اس کا انجام اچھا ہو۔

**فال حضرت ایوب علیہ السلام:** اے خداوند فال بعد تھوڑے دنوں کے تجھے رنج پہنچے گا۔ اگر صبر کرے گا تو غم جلد دور ہو جائے گا اگر غائب ہے حاضر ہو۔

**فال حضرت خضر علیہ السلام:** اے خداوند فال خدائے تعالیٰ تجھ کو مال اور دولت عطا فرمائے اور تیری کھیتی اور باغ میں پیداوار اچھی ہو، روزانہ محتاجوں کو دیا کر۔

**فال حضرت دانود علیہ السلام:** اے خداوند فال تجھ کو غیب سے روزی ملے۔ حلال کے مال سے مالامال ہو اور جب کبھی کوئی کام سخت پیش آوے تو حل ہو جائے۔ کچھ غم نہ کر خدا کو یاد کر۔

**فال حضرت سلیمان علیہ السلام:** اے خداوند فال یہ فال تیری مبارک ہے۔ سب کام تیرے پورے ہوں اور دشمن پامال ہو جائیں۔

**فال حضرت عیسیٰ علیہ السلام:** اے خداوند فال تجھ کو بشارت ہے کہ مراد تیری بر آوے۔ دین اور دنیا کی نعمت ملے۔ مگر تجھ کو کچھ رنج نہ پہنچے گا صدقہ دیا کر رنج دور ہوگا۔

**فال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:** اے خداوند فال یہ فال بہت ہی نیک ہے۔ محبوب خلاق ہوگا۔ خوشی سے گزرے لوگ تیری عیب پوشی کریں۔ تیرے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور سب کے ساتھ تو نیکی کر تیرا انجام اچھا ہوگا، دین اور دنیا میں نیک نام ہوگا۔

نقشہ اسماء یہ ہے۔

حضرت آدمؑ	حضرت شیثؑ	حضرت ادریسؑ	حضرت صالحؑ	حضرت ابراہیمؑ
حضرت اسمعیلؑ	حضرت یعقوبؑ	حضرت یوسفؑ	حضرت شعیبؑ	حضرت ایوبؑ
حضرت خضرؑ	حضرت داؤدؑ	حضرت سلیمانؑ	حضرت عیسیٰؑ	حضرت محمد مصطفیٰؐ

**فال حضرت آدم علیہ السلام:** اے خداوند فال تجھ کو ایسے کام پیش آویں کہ خوش ہو جائے اور سب تیرے مطیع ہوں۔ فتوح غیب سے ہو۔

**فال حضرت شیث علیہ السلام:** اے خداوند فال جو کوئی تیرا دشمن ہو اس پر فتیحا ہو مگر چند روز صبر کر کہ اگر سفر کا ارادہ ہو چند روز کے بعد جانے پر آمادہ ہو۔ ابھی طالع میں نحوست ہے۔

**فال حضرت ادریس علیہ السلام:** اے صاحب فال اگر تجھ کو کچھ رنج ہو تو شاد ہو۔ اگر نکاح کی خواہش ہے عورت اچھی ملے، فرزند زینہ پیدا ہو، اگر سفر کا ارادہ ہے تو سفر مبارک ہوگا اور جو کچھ مراد ہوگی خدا بر لائے گا۔

**فال حضرت صالح علیہ السلام:** اے خداوند فال اگر تجھ کو کچھ رنج ہو تو راحت ہوگی۔ اگر تیرا کوئی بیمار ہے تو شفا پاوے گا۔ اگر تیرا کوئی غائب ہے تو حاضر ہوگا۔

**فال حضرت ابراہیم علیہ السلام:** اے خداوند فال جو نیت تیری ہو وہ مطلب بر آئے (پورا ہو) اور کچھ خوشی دیکھے، صدقہ دیا کر۔

**فال حضرت اسمعیل علیہ السلام:** اے خداوند فال جو مشکل ہے حل ہو اور کلفت دور ہو، حاصل سرور ہو۔ ایک مینڈھا زنج کر کے گوشت اُس کا محتاجوں کو دے دے۔

**فال حضرت یعقوب علیہ السلام:** اے خداوند فال تیرے اوپر کچھ رنج اور سخت پہنچی ہے۔ لیکن چند روز صبر کر، اپنے اوپر جبر کر بعد چند روز کے خوشی ہوگی۔ اگر تیرا کوئی عزیز غائب ہے حاضر ہوگا اور تجھ سے ملے گا۔

**فال حضرت یوسف علیہ السلام:** اے خداوند فال کچھ تجھے

امامہ حسینی کا مرکز بلتستان بک ڈپو نیسا بازار اسکردو



لینے سے گریز کریں۔

**سفر:** اس سال آپ کو کئی ایک قریبی سفروں سے واسطہ پڑے گا۔ سال کی پہلی سہ ماہی بالخصوص 22 فروری تا 9 مارچ سفر سے گریز کریں۔ اس دورانیہ میں گئے سفر آپ کو مطلوبہ نتائج نہ دے سکیں گے۔ اپریل تا ستمبر اختیار کئے گئے سفر انشاء اللہ بہترین نتائج کے حامل ہوں گے۔ بالخصوص بعد از جون نوکری یا کیریئر روزگار کے لئے اختیار کئے گئے سفر بہترین ثمرات کے حامل ہوں گے۔ 31 مارچ تا 23 اپریل، 3 اگست تا 27 اگست اور 24 نومبر تا 14 دسمبر آپ کے سفر کے طے شدہ پروگرام التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں اگر سفر اختیار کریں تو سفری دستاویزات کی درستگی و موجودگی کا یقین پہلے سے کر لیں۔ بیرون ملک سفر کے خواہشمند حملہ افرواد کو اس سال نوں کا حاکم مشتری حنفی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے خاصی دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ اس سال ویزہ یا امیگریشن اپلائی نہ کرنا بہتر ہوگا ورنہ ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر بالفرض بحالیہ مجبوری کوئی ایسا قدم اٹھانا ہو تو پہلے اس کا روحانی تدارک ضرور کر لیں۔

**تعلیمی کیریئر:** ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے بچوں کو سال کی پہلی سہ ماہی بالخصوص 22 فروری تا 9 مارچ ارتکاز کی کمی کا سامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ 31 مارچ تا 23 اپریل، 3 اگست اور 24 نومبر تا 14 دسمبر بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ اس دوران اپنے تحریری امتحانات پر خصوصی توجہ دیں۔ غلطی کے واضح امکانات موجود ہیں۔ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے حملہ افراد کے لئے یہ سال قطعی موافق نہ ہوگا۔ آپ کو اپنے مدارس و اساتذہ سے شکایات رہیں گی۔

**معنی و شادی:** اس سال گنتی کے حوالے سے سال کی پہلی سہ ماہی قطعی غیر مناسب وقت ہوگا۔ اپریل میں آپ کی نسبت طے پانے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ اور یہ سال کا بہترین وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ 21 جولائی تا 23 اگست ایک بار پھر آپ کی گنتی کے امکانات روشن ہوں گے۔ البتہ 23 ستمبر تا 23 اکتوبر ایسی تقریبات سے گریز کریں۔ یہ وقت قطعی مناسب نہ ہوگا۔ پہلے سے طے شدہ سنگینیاں بھی اس وقت خطرے سے دوچار ہوں گی۔ جنوری تا جون زحل آپ کے ساتویں گھر کے شرفی برج میں ہوگا مگر رجعت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کی شادی جیسی تقریبات کو التوا کا شکار کر سکتا ہے۔ اسی دورانیہ میں ساتویں کا حاکم زہرہ اپریل میں شرفیاب ہو کر آپ کے نکاح کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ مگر بوجہ رجعت زحل انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ بعد از جون حالات نکاح و حصص جیسی تقریبات کے لئے انتہائی موزوں ہوں گے۔ 22 اگست تا 15 ستمبر ایک بار پھر آپ کو مشکلات کا سامنا بوجہ ہبوط زہرہ ہوگا۔ 15 ستمبر تا 9 اکتوبر کے عرصہ کو نوٹ فرمائیں۔ یہ اس سال شادی وغیرہ کے لئے سال کا سب سے بہترین عرصہ ہوگا۔ باقی تمام سال بھی حالات موافق رہیں گے۔

**معیشت، کیریئر، روزگار:** آپ کے کیریئر کا حاکم ستارہ زحل اگرچہ گذشتہ سال اپنے شرفی برج میں آچکا تھا مگر ابتداء سے سال جنوری تا آخر مئی رجعت پذیر رہا

دسمبر کو لگنے والے گرہن، بہن بھائیوں کے ساتھ بالخصوص اور عزیز واقارب کے ساتھ بالعموم تعلقات میں کشیدگی کا باعث ہوئے۔ 11 مئی تا 21 جون طالع کا حاکم وبال پذیر رہے گا۔ اپنے معمولات کو محتاط روی سے چلائیں۔ تیزی اور جذباتیت سے قطعی گریز بہتر ہوگا ورنہ عزت و وقار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ستمبر اکتوبر نومبر بالترتیب آپ کے لئے سال کے بہترین ماہ ثابت ہوئے۔ عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ سابقہ زحمات دور ہو سکیں گی۔ مجموعی طور پر یہ سال سماجی تعلقات کے حوالے سے آپ کے لئے بہتری کا باعث ہوگا۔ جنتری میں سے رجعت عطارد کے ایام نوٹ فرمائیں۔ ان ایام میں گفتگو میں خصوصی احتیاط سے اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔

**شرکتی ازدواجی تعلقات:** حمل افراد کے شرکتی ازدواجی تعلقات اس سال بھی طے جملے اثرات کے حامل ہوں گے۔ اگرچہ زحل آپ کے ساتویں میں شرفی خصوصیات کا حامل ہے۔ مگر 26 جنوری تا 13 جون زحل کی رجعت آپ کے شرکتی ازدواجی معاملات کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی دورانیہ میں ساتویں کا حاکم زہرہ بارہویں میں شرفیاب ہوگا۔ آپ کو نئی شرکت داریوں کی آفر ہو سکتی ہے۔ مگر محتاط رہیں۔ یہ آپ کے خلاف کوئی خفیہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ 9 جون تا 4 جولائی ساتویں کا حاکم شرفیاب ہوگا۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کو سرمایہ کی آفر کر سکتا ہے۔ یہ وقت نئے شرکتی منصوبوں کی ابتدا کے لئے بہترین وقت ثابت ہوگا۔ اس وقت سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اب زحل مستقیم ہو کر آپ کے شرکتی ازدواجی تعلقات کو ایک نئی جہت دے رہا ہے۔ اب گذشتہ غلطیوں کی تلافی ہو سکے گی۔ 22 اگست تا 15 ستمبر اپنے شرکتی ازدواجی معاملات میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ 23 ستمبر تا 23 اکتوبر ساتویں شمس کا ہبوط شرکتی معاملات سے ہونے والی اضافی آمدن کو بند کر دے گا۔ آپ کے کسی بچے کی وجہ سے آپ کی شرکتی ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ سال کا باقی عرصہ آپ کے موافق نظر آ رہا ہے۔

**اولاد النعمانی بائٹ لائری:** آپ کے بیت الاولاد کا حاکم شمس سال کی پہلی سہ ماہی تک حنفی پوزیشن کا حامل رہتے ہوئے بچوں کی جانب آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوگا۔ یکے بعد دیگرے آپ کو بچوں سے وابستہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ آپ کو بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ 20 مارچ تا 21 اپریل کا عرصہ گذشتہ مشکلات کے خاتمہ کا عرصہ ہوگا۔ وہ حمل افراد جو خداوند تعالیٰ سے اولاد کے طلب گار ہیں تو انشاء اللہ ان کی مراد برآئے گی۔ اس سال آپ کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ آپ کی ترقی اور معیشت میں استحکام کا باعث بنے گی۔ یعنی انتہائی خوشخت ثابت ہوگی۔ 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا عرصہ ایک بار پھر آپ کی توجہ بچوں کے مسائل پر مبذول کر رہا ہے۔ محتاط رہیں۔ لگی ڈرا اور انعمانی بائٹ وغیرہ کے شوقین افراد کو اس سال کئی ایک مواقع میسر آئیں گے۔ البتہ سال کی پہلی سہ ماہی اور 23 ستمبر تا 23 اکتوبر بھی انعمانی سکیم میں حصہ

اس دوران آپ کے بنتے بنتے کام ایک بار پھر گناؤ کا شکار رہے ہیں۔ اس سال ایک بار پھر آپ کو اسی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ اگرچہ زلزلے اپنے شرعی بروج میں رہتے ہوئے بہترین اثرات کا حامل ہوگا مگر 26 جنوری تا 13 جون زلزلے کی رجعت ایک بار پھر آپ کی معیشت کی کیریئر کو متاثر کرنے کا باعث بنے گی۔ آپ کے کاروباری معاہدے ٹوٹ سکتے ہیں یا التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص وہ حمل افراد جو کہ شراکت داری میں کاروبار کر رہے ہیں انہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ تمام بروج میں آپ اور ڈور افراد وہ خوش نصیب ہیں جن کی کیریئر کا حاکم ستارہ زحل ہے جو کہ 30 سال کے بعد ایک بار پھر شرعی بروج میں آکر آپ کو سعداوتوں سے نواز رہا ہے۔ بعد از جون آپ کے لئے ترقی کی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ ملازم پیشہ حمل افراد کو حسب خواہش ترقی نصیب ہو گی۔ اپنے کاروبار کرنے والے حمل افراد کو نئے کاروباری مواقع میسر ہو سکتے۔ ایسے تمام افراد کے لئے بالخصوص یہ مشورہ ہے کہ طویل دورانیے کے منصوبوں پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ کے اس وقت کئے گئے درست اقدامات آپ کی آئندہ نسل کے بھی کام آسکیں گے۔ 12 تا 20 اکتوبر کی تواریخ نوٹ فرمائیں۔ ان ایام میں کئے گئے کاروباری معاہدے انتہائی سود مند ثابت ہو سکتے۔

**خصوصی احکامات**

یہ سال آپ کے لئے اپنے دامن میں کئی ایک نعمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ ستاروں کی روشنی میں صحیح وقت پر صحیح اقدامات کر کے آپ جہاں اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں وہیں بے اوقات میں صدقات و مناجات کے ذریعے نقصانات سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کے کیریئر اور خواہشات سے منسوب ستارہ زحل 30 سال بعد شریف ہو کر آپ کے کیریئر میں بہترین ترقی و وسعت اور خواہشات کی تکمیل کا باعث بن رہا ہے۔ مگر دوسری طرف نویں بارہویں کا حاکم مشتری جنوری تا جون طالع میں اور جون تا آخر سال خانہ مال میں منفی پوزیشن کا حامل رہتے ہوئے آپ کی شخصیت کو متاثر اور مالی معاملات کو دباؤ کا شکار کر رہا ہے۔ سال کی پہلی سہ ماہی آپ کو بچوں کی جانب سے مشکلات کا شکار رکھے گی۔ مارچ اپریل میں یکے بعد دیگرے طالع میں نوروز اور شرف محسوس مشتری کے شخص اثرات میں کمی کا باعث بنیں گے۔ بچوں کی جانب سے کوئی خوشخبری میسر آئے گی۔ 12-13 جنوری کیریئر کے گھر مریخ کا شرف کاروباری حلقوں میں آپ کی عزت افزائی کا باعث بنے گا۔ آپ ایک نئی لگن سے کاروباری معاملات میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ملازم پیشہ حمل افراد کی ترقی کے امکانات روشن ہوں گے۔ یکم مارچ عطارد کا ہبوط جہاں آپ کی صحت کو متاثر کر رہا ہے۔ وہیں آپ کے خفیہ دشمنوں کی ذلت و رسوائی کا بھی باعث بنے گا۔ بہن بھائیوں اور قریبی عزیز واقارب سے کسی قسم کی اختلاف سے گریز کریں۔ 18 اپریل زہرہ شریف ہو کر ایک بار پھر آپ کے خلاف خفیہ دشمنی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ زہرہ کا شرف آپ کی مالی پوزیشن میں استحکام لا رہا ہے۔ 11 مئی تا 21 جون طالع کا حاکم خانہ مال میں منفی پوزیشن کا حامل ہوگا۔ مالی معاملات میں جلد بازی سے قطعی

گریز کریں۔ بالخصوص مشتری کہ مفادات کے تحت کام کرنے والے افراد کو انتہائی محتاط روی اختیار کرنا ہوگی ورنہ نقصان کے واضح امکانات موجود ہیں۔ 27 جون کو ہونے والا اوج زہرہ آپ کے مالی استحکام میں مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کی شادی میں کوئی قریبی عزیز معاون ہوگا۔ 11 جولائی اوج شمس آپ کے خانگی اور بچوں کے معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا۔ آپ فیملی لائف کو کو بھر پورا نچوائے کر رہے ہیں۔ 12 ستمبر کو زہرہ کا ہبوط ہونے سے آپ کے مالی ازدواجی معاملات بری طرح متاثر ہو گئے۔ کسی حاسد کی وجہ سے آپ کی طے شدہ شادی خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ 14 تا 16 ستمبر طالع کا حاکم مریخ چوتھے بھوٹ پندیر ہونے سے گھر اور خاندان میں آپ کی عزت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ خود کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کی جذباتیت کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوگی۔ اپنے شراکتی معاملات کی نگرانی کریں۔ مالی لین دین کی وجہ سے آپ کا وقار مجروح ہو سکتا ہے۔ وہ حمل افراد جن کے وراثی مقدمات خاندان یا عدالت میں چل رہے ہیں انہیں بھی نقصان کا سامنا ہوگا۔ 17 ستمبر تیسرے کا حاکم چھٹے شریف ہونے سے بسلسلہ ملازمت زد کی سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی محتاط رہیں آپ کے ظاہری مخالف مضبوط ہو رہے ہیں۔ 11 اکتوبر کو ہونے والا شمس بھوٹ بچوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا باعث ہوگا۔ اضافی آمدن کی وجہ سے شراکت داری متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ 12 تا 20 اکتوبر کیریئر خواہشات کا حاکم زحل عین شرعی درجات پر رہتے ہوئے کاروبار میں وسعت و ترقی اور خواہشات کی تکمیل کا باعث ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کا کوئی دوست بھر پور معاون ہوگا۔ 16 اکتوبر اوج عطارد ہونے سے آپ کے وراثی و شراکتی مالی مسائل کے حل میں کوئی عزیز معاون ثابت ہوگا۔ 19 تا 21 اکتوبر اوج مریخ وراثی مقدمات میں کامیابی اور شراکتی معاملات میں بہترین اضافی آمدن کا باعث بنے گا۔ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 6-5 نومبر عطارد کا وبال نادیں گھر ہونے سے بیرون ملک سفر ملتی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز اس کا سبب بن رہا ہے محتاط رہیں۔ اپنے کاغذات کی ایک بار پھر جانچ پڑتال کر لیں۔ ان کے اصلی ہونے کا یقین ضروری ہے۔ اس سال ہونے والے شمس قمری گرنہن آپ کے کیریئر، قریبی عزیز داری، بچوں اور خانگی و بیرون ملک سفر جیسے معاملات کو متاثر کرنے کا باعث ہوں گے۔ گرنہن کے اوقات میں نماز آیات و صدقہ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ ان کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔

**ورد خاص:** روزانہ ۳۰۰ مرتبہ سورہ یوسف کی آیت ۶۳ رو کر کریں جمع اول اور آخر 11-11 مرتبہ درود پاک۔

**صدقہ:** بروز منگل 900 گرام دال مسور کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈالیں۔

**جادو شکن کیسٹ و CD** قاری منیر حسین محمدی کی آواز لئے کا پتہ: افتخار بینک ڈپو اسلام پورہ لاہور

برقرار رکھنے کے لئے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ زحل سے منسوبہ صدقہ دینے سے حالات میں بہتری آسکتی ہے۔ 16 جون کو لگنے والا قمری گرہن بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے اختلافات کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے خانگی معاملات متاثر ہو رہے ہیں گوکہ زہرہ کی اوجی کیفیت آپ کے وقار میں اضافہ کر رہی ہے مگر احتیاط لازم ہے۔ یکم جولائی کا گرہن ایک بار پھر حالات کو پہلے جیسی منج پر لے جائے گا۔ کسی بہن بھائی یا عزیز کی وجہ سے والدہ سے اختلاف یا گھر بیلو جگہ کا تنازعہ سامنے آسکتا ہے۔

اگست ستمبر کا مہینہ آپ کے لئے کسی کڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ مرخ اور زہرہ کی بیک وقت پہنچ گھر موجودگی آپ کے شراکتی، ازدواجی معاملات اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ آپ کسی الزام کی زد میں آسکتے ہیں محتاط رہیں یہ مہینہ آپ کے شخصی وقار کے لئے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دسمبر میں ہونے والا قمری گرہن بوجہ لین دین عزیز و اقارب کے ساتھ اختلافات ظاہر کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ سال کسی امتحان سے کم نہ ہوگا۔

**شراکتی و ازدواجی تعلقات:** جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے شراکتی ازدواجی تعلقات کا حاکم ستارہ مرخ اسماں دو مثبت اور دو منفی حالتوں سے گزرتے ہوئے آپ کو دونوں طرح کے حالات کا سامنا کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ابتدائے سال تا 23 فروری مرخ شرفی گھر رہتے ہوئے آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات میں تیزی سے بہتری کا باعث ہوگا۔ آپ ازدواجی زندگی میں نیا جوش و خروش محسوس کر رہے ہیں۔ نئے شراکتی منصوبے زیر غور ہوں گے۔ مگر بوجہ رجعت زحل التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 11 مئی تا 21 جون مرخ کی طالع میں بحالت وہاں موجودگی آپ کے مزاج میں تیزی پیدا کر رہی ہے۔ زوچین کے مابین اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ شراکتی معاملات میں بھی آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہوگا۔ 3 اگست تا 19 ستمبر مرخ کی پہنچ گھر موجودگی گزشتہ خراب حالات میں مزید تیزی لا رہی ہے۔ اب حالات آپ کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات میں انتہائی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ خود کو کنٹرول میں رکھیں وگرنہ مابین نوبت علیحدگی تک جاسکتی ہے۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز اس میں منفی رول پلے کر رہا ہے۔ 19 ستمبر تا 11 نومبر مرخ کی اوج کے گھر موجودگی حالات میں بہتری کا باعث بنے گی۔ والدہ یا خاندان کا کوئی فرد آپ کے مابین ٹل کا کردار ادا کر رہا ہے۔

**تعلیمی کیریئر:** ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے ٹور بچوں کو 16 جون اور 10 دسمبر کو ہونے والے قمری گرہن متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ آپ کے لئے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے ٹور افراد کو 26 جنوری تا 13 جون بوجہ رجعت زحل کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ سال اعلیٰ تعلیمات کے حوالے سے آپ کی زندگی کے لئے نئی تہمتیں متعین کرے جو کہ بہتر ہوں گی۔

**سیارہ: زہرہ** **TAURUS** **ثور**

رنگ: \_\_\_\_\_ گہرائیلا  
 عنصر: \_\_\_\_\_ خاکی  
 جواہر: \_\_\_\_\_ الماس، نیلم، فیروزہ  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_ سنبلہ، جدی  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ اسد، عقرب، دلو

بیماریاں: حلق اور کانوں کے عوارض، پھوڑے پھسلیاں، تولیدی مسائل

دن: جمعہ 21 Apr to 21 May 21 عرصہ: 21

**اہم نکات:** گذشتہ سال ٹور افراد اپنے کیریئر روزگار جاب وغیرہ اور بچوں کی جانب سے خاصے مشکل حالات کا سامنا کر چکے ہیں۔ اگرچہ اسماں حالات گذشتہ سال سے بہتر ہوں گے مگر بارہویں اور طالع میں مشتری کی پوزیشن آپ کو پریشانیوں سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس سال کی ایک اور خاص بات ساتویں بارہویں کے حاکم مرخ کا شرف و بہبوط اوج اور وہاں چاروں کیفیات سے گزر رہے۔ اسماں آپ کو تیزی کے ساتھ بدلتے مثبت و منفی صورتحال کا سامنا کرے گا۔ زانچ کے چھٹے گھر کو زحل شرفی گھر ہوگا۔ مگر جنوری تا جون زحل کی رجعت آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار رکھے گی۔ آپ کے ظاہری دشمنوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسماں کثیر تعداد میں لگنے والے گرہن آپ کے بیرون ملک سفر، مال، خاندان سے تعلقات، گھریلو حالات اور وراثتی امور کو متاثر کر رہے ہیں محتاط رہیں۔ تفصیلات اگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**صحت:** زحل ابتدائے سال سے آپ کے بیت الصحت میں موجود ہے۔ مگر 26 جنوری تا 13 جون زحل کی رجعت آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار رکھے گی۔ اس دورانیے میں 27 مارچ تا 21 اپریل بیت الصحت کا حاکم زہرہ شرفی گھر رہتے ہوئے آپ کی صحت میں بہتری کا باعث ہوگا۔ اس طرح جون تک آپ کو طے جملے حالات کا سامنا ہوگا۔ 9 جون تا 4 جولائی زہرہ کی اوج کے گھر موجودگی گذشتہ صحت کے مسائل کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ آپ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ 22 اگست تا 15 ستمبر اور 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا عرصہ ایک بار پھر بوجہ بہبوط زحل زہرہ آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار رکھے گا۔ مجموعی طور پر اسماں آپ کو صحت کی جانب خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی آپ کو بڑی مشکل سے دوچار کر سکتی ہے۔

**سماجی تعلقات:** اسماں آپ کو سماجی تعلقات کے حوالے سے بھی ملے جملے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ابتدائے سال سے طالع کا حاکم زہرہ منفی پوزیشن کا حامل ہوگا۔ اس پر مزید 4 جنوری کو لگنے والا گرہن آپ کے خاندانی و مذہبی معاملات میں ابتری کا باعث بنے گا۔ جس سے آپ کی شہرت متاثر ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ والدہ کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے آپ کے چھٹے گھر زحل کی موجودگی آپ کے مخالفین کو مضبوط اور ان میں اضافہ کر رہی ہے۔ اگرچہ جنوری تا جون زحل کی رجعت انہیں ابھارتے رکھے گی۔ مگر پھر بھی اپنی سماجی حیثیت

**اولاد انعامی بانڈ لائٹری:**

ٹورافرا گذشتہ کی سال سے پانچویں زحل کی منگی پوزیشن کی وجہ سے اولاد کی جانب سے پریشان رہے ہیں۔ اسام انشاء اللہ آپ کی مراد بر آئے گی۔ البتہ حاملہ خواتین کو 22 فروری 9 تا 22 اگست 15 تا ستمبر اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر کا عرصہ خاص احتیاط کرنا ہوگی۔ یہ عرصہ آپ کے ہونے والے بچے اور آپ کی صحت کے لئے مضر ہو سکتا ہے۔ انعامی بانڈ لائٹری کے شائق افراد جو کہ گذشتہ کی سال سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ انشاء اللہ اس سال ان کی امید بھی بر آئے گی۔ آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔

**سفر:** گذشتہ سال کی طرح اسام بھی آپ کو کئی ایک نزدیکی سفر اختیار کرنا پڑ سکتے ہیں جیسا کہ گذشتہ سال بھی گذراش کی منگی تھی۔ قرد و مقرب اور گرنہن کے ایام میں سفر سے گریز کریں اور صدقہ ضرور ادا کریں۔ اسام 3 اگست 19 تا ستمبر سفر سے گریز کریں وگرنہ حادثہ کا امکان ہوگا۔ پروردگار عالم آپ کو امان میں رکھے۔ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ٹورافرا اسام حسب خواہش اعلیٰ تعلیم اور کاروبار کے لئے سفر اختیار کر سکیں گے۔ البتہ 4 جنوری کا گرنہ اور 26 جنوری تا 13 جون زحل کی رجعت آپ کے سفر میں رکاوٹ یا التوا کا باعث بن سکتی ہے۔ زحل کا روحانی تدارک آپ کو اس صورتحال سے بچا سکتا ہے۔ سال کا باقی عرصہ آپ کے لئے بہترین موافق ہوگا۔ انشاء اللہ۔

**منگنی و شادی:**

وہ ٹورافرا جن کی منگنیاں تا حالات التوا کا شکار چلی آ رہی تھیں یہ سال انشاء اللہ ان کے لئے خوشی کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ البتہ 22 فروری تا 9 مارچ اور 22 اگست 15 تا ستمبر منگنی وغیرہ سے گریز کریں۔ اس دوران نہ صرف پہلے سے طے شدہ نسبتیں خطرے میں ہوں گی بلکہ اب طے کی گئیں منگنیاں بھی دیرپا ثابت نہ ہوں گی۔ سال کی ابتدا سے ہی آپ کی شادی کی فضا ہوا نظر آ رہی ہے مگر بوجہ ایام عزایا ایسی تقریبات سے گریز کریں۔ اسی طرح 11 مئی تا 21 جون اور 3 اگست تا 19 ستمبر ایسی تقریبات سے قطعی گریز کریں وگرنہ آپ کی خوشی اختلافات کی نظر ہو جائے گی۔ 19 ستمبر تا 11 نومبر تک کا عرصہ اس سال کا شادی کے حوالے سے بہترین وقت ہوگا۔ سال کا باقی عرصہ بھی آپ کے موافق نظر آ رہا ہے۔

**معیشت، کیرئیر، روزگار:**

یہ سال آپ کے کیرئیر، روزگار اور معیشت کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے کیرئیر کا حاکم زحل تمام سال شرنی برج میں رہتے ہوئے آپ کی معیشت میں استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ جنوری تا جون کو زحل رجعت پذیر رہتے ہوئے۔ آپ کے منصوبوں کو التوا کا شکار کر رہا ہے۔ مگر پھر بھی صورتحال گذشتہ سالوں سے کہیں بہتر ہوگی۔ آپ اپنے کاروبار کو ازسر نو مرتب کر رہے ہیں۔ اب کئے گئے اقدامات آپ کو آئندہ کئی سال تک فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ ملازم پیشا افراد کو ترقی نصیب ہوگی۔ آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ بالخصوص وہ ٹورافرا جو کسی بھی حوالے سے جوتا سازی، کچی دھات، کان گنی، سیسہ، کولڈ، سینٹ، لاکھ ٹائر، کالا چٹا اور تیل کی صنعت یا ٹریڈنگ سے منسلک

ہیں۔ خاصہ منافع حاصل کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کر سکیں گے۔ پر اپنی سے منسلک افراد بھی خاصا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت کا درست استعمال آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔

**خصوصی احکامات:**

سال 2011ء کو کہ آپ کے کیرئیر روزگار کے لئے ایک بہترین سال ثابت ہوگا مگر آپ کی ظاہری و باطنی مخالفین اور شرکاتی ازدواجی معاملات آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہوں گے۔ آٹھویں اور گیارہویں گھر کا حاکم مشتری بھی جون تک باہر ہوگا اور آخر سال تک طالع میں منگی پوزیشن کا حامل ہوگا۔ جس میں آپ کو شرکاتی معاملات میں نقصان کا سامنا ہوگا۔ اب آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے مبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دوستوں سے تعلقات میں احتیاط سے کام لیں ورنہ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست درپردہ آپ کے خلاف مصروف عمل ہے۔ 13-12 جنوری نوں گھر مریخ کا شرف آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ ہوا کر رہا ہے۔ آپ مذہبی امور اور تقابلی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ 8 فروری کو دہانہ شمس والدہ کی جانب سے کسی پریشانی کا مظہر ہے۔ افسران بالا یا مالکان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ غیر متوقع طور پر رہائشی گھر تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ یکم مارچ عطارد کا بہبوط آپ کو بچوں اور ان کے ازدواجی معاملات کی شادی کی جانب سے پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کسی دوست کی وجہ سے مالی نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ 8 اپریل کا شرف شمس جہاں آپ کے خفیہ دشمنوں کو مضبوط کر رہا ہے وہیں والدہ و خاندان کی جانب سے آسودگی فراہم کرے گا۔ ایکسپنشن کے لئے ایلہائی کیے گئے کیسز میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ وہ افراد جن کے خلاف کیسز زیر سماعت ہیں انہیں سزا ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ 18 اپریل کا شرف زہرہ آپ کی خوشی میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں دوستوں کا بھرپور تعاون ہوگا۔ 6 جون کو طالع میں مریخ کا دہانہ شرکاتی امور میں بگاڑ اور حراج میں تیزی لا رہا ہے۔ 27 جون کو خانہ مال میں زہرہ کا ادج آپ کی معیشت میں بہتری کا باعث ہوگا۔ مگر محتاط رہیں آپ کے مخالفین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 11 جولائی کو شمس کا ادج قریبی عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا رہا ہے۔ آپ کسی بڑے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ خانگی معاملات میں بہتری آ رہی ہے۔ 12 ستمبر کو زہرہ کا بہبوط آپ کی اضافی آمدن کی راہ مسدود کر دے گا۔ آپ بچوں کی جانب سے بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچوں کے مسائل آپ کو ڈپریشن کی جانب لے جا رہے ہیں۔ 14 تا 16 مریخ بھونٹی درج سے گزرے گا۔ ان تواریخ میں آپ کے شرکاتی ازدواجی معاملات انتہائی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ خود کو کنٹرول کریں۔ جذباتیت آپ کے معاملات کو بگاڑ سکتی ہے۔ نوبت مائین علیحدگی تک جاسکتی ہے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ بھی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ نزدیکی سفر کو ملتوی کرنا بہتر ہوگا وگرنہ حادثہ کا خطرہ ہوگا۔ 17 ستمبر شرف عطارد آپ کے مالی

ہے اور مشتری کی برج حمل اور ثور میں موجودگی ہے۔ اسماں حالات گذشتہ سال کی نسبت قدرے مشکل ہوں گے۔ گو کہ آپ خود تیز اور مصروف زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی یہ آپ کے اعصاب کا امتحان ہوگا۔ کیونکہ باقی تمام سیارگان یعنی عطارد۔ مریخ۔ شمس و قمر اور زہرہ بھی شرف و ہبوط، اوج و وبال جیسی کیفیات کے حامل ہوتے ہوئے اپنے سعد و خس اثرات سے آپ کو متاثر کریں گے۔ اسماں لگنے والے گرہن زائچہ کے اہم اور نازک ترین حصوں پر لگیں گے۔ آپ کو ہر لحاظ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ تفصیلات اگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**صحت:** آپ کی صحت کا حاکم ستارہ مریخ اسماں شرف و ہبوط اوج اور وبال جیسی کیفیات سے گزرتے ہوئے آپ کی صحت پر اچھے اور بُرے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرے گا۔ ابتدائے سال 16 تا جنوری مریخ شرف کے گھر ہونے سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مگر اسی دوران 4 جنوری کو لگنے والا شمس گرہن زائچہ کے آٹھویں گھر کو متاثر کرے گا۔ آپ کی صحت شدید خیرات کی زد میں ہوگی۔ صدقہ ضرور بالضرور ادا کریں۔ 12 اپریل تا 11 مئی مریخ کی برج حمل میں موجودگی آپ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرے گی مگر 11 مئی تا 21 جون آپ کو ایک بار پھر صحت کے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اس دوران 2 جون کو لگنے والا شمس گرہن عزیز و اقارب کے ساتھ شیدائی کی وجہ سے آپ کے اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ ان ایام میں محتاط رہیں۔ سر پر چوٹ کا خطرہ ہوگا۔ 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ آپ کی صحت کے حوالے سے سال کا مشکل ترین عرصہ ہوگا۔ محتاط رہیں۔ اس عرصہ میں آپ کو سرجری کروانی پڑ سکتی ہے۔ 19 ستمبر تا 11 نومبر آپ کی صحت تیزی سے بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ 10 دسمبر کا گرہن ایک بار پھر آپ کے نروس سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے۔ جس سے آپ کی صحت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔

**سماجی تعلقات:** گذشتہ کی طرح یہ سال بھی آپ کے لئے ملاحظا ثابت ہوگا۔ آئیے آپ کو ماہ بہ ماہ حالات سے آگاہ کرتے ہیں۔ سال کی پہلی سہ ماہی بالخصوص 22 فروری تا 9 مارچ تک کا عرصہ آپ کو بہت احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ آپ کے اپنے برج کا حاکم ستارہ عطارد اسی دوران ہبوطی درجات سے گزرے گا۔ گھر بالخصوص خاندان میں دوران گفتگو غلطی کا امکان ہے۔ آپ کی ذات پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ 21 مارچ تا 21 اپریل کئی ایک تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ اگر آپ کے حالات پہلے سے کشیدہ ہیں تو خاندان کا کوئی بڑا آپ کے مابین صلح صفائی کروا سکتا ہے۔ جون میں عطارد طالع میں آجانے سے آپ کی شخصیت میں ایک نیا نکھار آ رہا ہے۔ آپ کا شخصی وقار بلند ہوگا۔ جولائی تا ستمبر آپ کا ستارہ عروج پر ہوگا۔ مگر اسی دوران 3 تا 27 اگست عطارد ایک بار پھر رجعت یافتہ ہوگا۔ اس دوران محافل میں گفتگو میں اعتدال پسندی بہتر ہوگی۔ کسی بھی قسم کے زبانی وعدے یا تیریری معاہدے سے گریز کریں۔

معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا۔ آپ کا کوئی کئی ڈرائنگل سکتا ہے۔ 11 اکتوبر کو چھٹے شمس کا ہبوط ہوگا۔ خاندان کا کوئی فرد شدید مخالفت کر رہا ہے۔ مگر اسے کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ والدہ کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ 12 تا 20 نوبتوں میں حاکم کا زحل عین شرفی درجات سے گزرے گا۔ آپ کے کیریئر روزگار میں بہتری آ رہی ہے۔ بوجہ کاروباری مصروفیت یا اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سفر ممکن ہوگا۔ اس دوران کیے گئے معاہدے خاصے منافع بخش ثابت ہوں گے۔ 16 اکتوبر ساتویں شرف عطارد شراکتی معاملات میں مالی فائدہ کا باعث بنے گا۔ بچوں کو قریبی سفر سے فائدہ حاصل ہوگا۔ 19 تا 21 اکتوبر کو ساتویں بارہویں کا حاکم مریخ اوج پڑے گا۔ آپ کے خلاف خفیہ دشمنی ایک بار پھر عروج پر ہوگی۔ خاندان کا کوئی فرد اس میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ آپ کے گھریلو حالات میں بہتری آئے گی۔ آپ ازدواجی زندگی میں نئی گرم جوشی محسوس کر رہے ہیں۔ 6-5 نومبر آٹھویں عطارد کا وبال مالی بے قائدگی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کو بچوں پر زیادہ اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اسماں ہونے والے شمس و قمری گرہن آپ کی خانگی زندگی اور عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کے اثرات کی وجہ سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے جو آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر دے گا۔ 25 نومبر کے شمس گرہن کو بالخصوص ذہن نشین کر لیں۔ یہ زائچہ کے خطرناک ترین حصہ میں لگ رہا ہے۔ صدقہ اور نماز کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ مجموعی طور پر اسماں آپ کو تیزی سے بدلنے والے حالات کا سامنا ہوگا۔ ان تواریخ کو اپنی ڈائری میں نوٹ فرمائیں۔ امید کرتا ہوں ان کے پیش نظر آپ بہتر فیصلہ کر کے حالات کو کنٹرول کر سکیں گے۔

**روح خاص:** روزانہ بعد از فجر ۲۷۲ مرتبہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 تلاوت کریں۔ بیخ ازل و آخر 11-11 مرتبہ درود پاک۔

**صدقہ:** بروز ہفتہ 800 گرام کالے ماش یا کالے چنے کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈالیں۔

**برج: جوزا GEMINI سیارہ: عطارد**

رنگ: \_\_\_\_\_ بیلا زرد  
 عنصر: \_\_\_\_\_ مادی  
 جواہر: \_\_\_\_\_ زمرہ، زبرجد، زرد شیش  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_ میران، دلو  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ سنبلیله، قوس، صحت

**بیماریاں:** نمونیہ، سینے کے عوارض، ہکراور سانس کی تکالیف، اعصابی تکالیف

**دن:** بدھ **عدت:** ۵ **May to 21 Jun 22** **حروف:** ق، ہ، ک

**اہم نکات:** 2011ء آپ کے لئے اپنے دامن میں کئی ایک اچھے بُرے حالات لے کر آ رہا ہے۔ اس سال کی خاص بات زحل کا شرف جو کہ اپنے آٹھویں نوبتوں کا حاکم



13 اکتوبر تا 22 نومبر جیسے گھر عطار کا دواج آپ کے ظاہری مخالفین کو مضبوط کر رہا ہے۔ محتاط رہیں۔ ڈسبر کا مہینہ آپ کے لئے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا۔ آپ پر قنوطیت طاری ہو رہی ہے۔

**شرکتی و ازدواجی تعلقات:** اس سال آپ کے شرکتی و ازدواجی تعلقات آپ کی خصوصی توجہ کے طالب ہوں گے۔ ابتدائے سال سے ہی ساتویں کا حاکم مشتری گیا رہوں گھر منفی پوزیشن میں چلا جائے گا۔ آپ کے شرکتی و ازدواجی معاملات آپ کی توقعات کے برعکس ہو رہے ہیں۔ حالات کو قابو میں رکھنے کے لئے آپ کو اپنی جلد با طبیعت پر قابو رکھنا ہوگا۔ جون میں مشتری آپ کے بارہویں گھر میں آجائے گا۔ جو کہ آپ کے لئے پہلے سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں بیرونی مداخلت حد سے بڑھ رہی ہے۔ اس سال کسی بھی قسم کے شرکتی معاہدوں سے گریز کریں۔ بالخصوص نومبر دسمبر میں شرکتی و ازدواجی حوالے سے کسی بھی قسم کے فیصلے سے گریز کریں۔

**تعلیمی کیریئر:** ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے جواز بچوں کو یکم جنوری تا 21 مارچ اور 23 ستمبر تا 23 اکتوبر تعلیمی میدان میں مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جواز بچوں کے والدین کو چاہیے کہ رجعت عطار کے دنوں کو جنتری میں سے نوٹ کر لیں۔ ان ایام میں بچوں پر خصوصی توجہ دیں۔ آپ کے بچوں میں ارتکاز کی کمی اور منفی رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے جواز افراد کے لئے یہ سال ایک بہترین سال ثابت ہوگا۔ البتہ 26 جنوری تا 13 جون زحل کی رجعت آپ کے کاموں میں التواء اور کاوٹ کا باعث ہوگی۔

**اولاد انعامی بائٹل لٹری:** آپ کے پانچویں گھر کا حاکم ستارہ زہرہ 27 مارچ تا 21 اپریل اپنے شرنی برج میں رہتے ہوئے آپ کی حصول اولاد کی خواہش میں تکمیل کا باعث ہوگا۔ 16 مئی تا 22 اگست حالات ایک بار پھر موافق ہوں گے۔ اکتوبر سے لے کر بیت الاولاد کا حاکم زہرہ منفی پوزیشن میں ہوگا مگر آپ کے پانچویں گھر ابتدائے سال سے زحل بحالت شرف موجود ہے اور تمام سال رہے گا۔ زحل کی یہ شرنی کیفیت انشاء اللہ آپ کے بچوں پر انتہائی سدا اثرات مرتب کرے گی۔ اس سال تولد ہونے والے جواز افراد کے بچے خود بھی جواز افراد کے لئے انشاء اللہ خوش نصیب ہوں گے۔ وہ جواز افراد جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کے لئے یہ سال انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ زحل کی شرنی کیفیت آپ کو مالا مال کر سکتی ہے۔ تمام سال آپ کے لئے آپشن کھلی ہیں۔

**منگنی و شادی:** یوں تو زحل کے آپ کے پانچویں گھر آجانے سے آپ کی منگنی کے لئے حالات سازگار ہو چکے ہیں مگر آپ باقی سیارگان کو بھی مد نظر رکھیں تو بہتر ہوگا۔ سال کے پہلے ڈھائی ماہ ایسی تقریبات سے قطعی گریز کریں۔ 27 مارچ تا 21 اپریل زہرہ شرف کے گھر ہونے سے آپ کی بات بن سکتی ہے۔ یہ وقت سال کا بہترین

وقت ہوگا۔ مگر زحل سے منسوب صدقات ضرور ادا کریں وگرنہ بات بنتے بنتے بگڑ سکتی ہے۔ 21 اپریل تا 16 مئی تک گریز کریں۔ اس دوران کی گئی سنگتیاں آپ کے لئے وبال بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ 22 اگست تا 15 ستمبر اور 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا وقت بھی قطعی مناسب نہ ہوگا۔ اس دوران طے کی گئی نسبتیں دیر پانہ ہوں گی۔ آپ کو مالی نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ ان ایام کے علاوہ سال کا باقی عرصہ مناسب ہوگا۔ اس سال جواز افراد کی رکی ہوئی نسبتیں بھی طے پا جائیں گی۔ مگر آپ کی عمر میں کافی اقتصاد ہو سکتا ہے۔ اس سال جواز افراد کو قطعی طور پر نکاح و رخصتی جیسی تقریبات کے انعقاد سے منع کیا جاتا ہے۔ ساتویں کا حاکم مشتری سارا سال موافق نہ ہوگا۔ لہذا شادی سے گریز کریں۔ اگر ہا امر مجبوری ایسا کرنا پڑے تو پہلے مشتری کی اثرات سے بچاؤ کی روحانی تدبیر ضرور اختیار کریں۔

**معیشت، کیریئر، روزگار:** آپ کے گذشتہ دو سال کا رو باری حوالے سے کافی بہتر رہے ہیں۔ مگر اس سال حالات قطعی مختلف ہوں گے۔ آپ کے کیریئر سے منسوب ستارہ مشتری 22 جنوری تا 4 جون برج حمل میں اور 4 جون تا آخر سال برج ثور میں ہوگا۔ سال کے پہلے چھ ماہ تو قطعی طور پر موافق نہ ہوں گے۔ حالات آپ کی خواہشات کے بالکل برعکس ہوں گے۔ محتاط رہیں۔ جون تا دسمبر حالات کو کہ بالکل درست نہ ہوں گے مگر سسٹم چلتا رہے گا۔ ملازم پیشہ جواز افراد کو خاص احتیاط کرنا ہوگی۔ وگرنہ آپ کی جاب خطرے میں ہوگی۔ اس صورتحال سے بچاؤ کے لئے زانچہ کے آخر میں آپ کو درد خاص بتایا جائے گا۔ اسے معمول بنائیں تاکہ پروردگار کی امانت میں رہیں۔ اس کے علاوہ مشتری سے منسوب صدقات کی ادائیگی اور روحانی سدا باب بھی اس صورتحال سے نجات کا باعث ہوگا۔

**خصوصی احکامات:** جیسا کہ آپ گذشتہ مہینوں میں پڑھ چکے ہیں یہ سال آپ کے لئے طے جلے اثرات کا حامل ہوگا۔ آپ کو اپنی صحت، شخصیت اور کیریئر روزگار پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سال لگنے والے تمام گریز سب سے زیادہ آپ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ گریز آپ کی شخصیت، عزت و وقار، آپ کے شرکتی و ازدواجی اور مالی مسائل کو بڑھا دیں گے۔ بالخصوص 4 جنوری کو لگنے والا شنی گریز انتہائی احتیاط کا متقاضی ہوگا کیونکہ یہ گریز براہ راست آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ان ایام میں صدقہ اور نماز سکون و خسوف ضرور ادا کریں۔ اس سال کی دوسب سے اہم باتیں کیریئر کے حاکم مشتری کی منفی پوزیشن اور آٹھویں نویں کے حاکم زحل کی شرنی برج موجودگی ہے۔ مشتری کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو کاروباری و شرکتی و ازدواجی معاملات میں شدید دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ آپ کو خصوصی احتیاط کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ خود کو تنزول میں رکھیں وگرنہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب آپ کے دوست بھی آپ کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل مشکل ہوگی۔ دوسری طرف پانچویں زحل کی شرنی کیفیت جہاں آپ کو بچوں کی جانب سے

**16-11** اکتوبر اور جنوری کے مابین عطار درجہ جہاں آپ کے ظاہری مخالفین کو مضبوط بنا رہا ہے وہیں آپ کی صحت میں بہتری کا باعث ہوگا۔ بچوں کی جانب سے مالی آسودگی میسر آئے گی۔ آپ کی توقیر میں اضافہ ہوگا۔ **19-21** اکتوبر اور جنوری کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا رہا ہے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بحالی میں کوئی دوست مددگار ہوگا۔ محتاط رہیں۔ آپ کو مخالفین کا بھی سامنا ہوگا۔ **6-5** نومبر ساتویں عطار دو کا وبال شراقتی ازدواجی معاملات میں بہتری پیدا کر دے گا۔ ان ایام میں کسی بھی بڑے فیصلے سے گریز کریں وگرنہ آپ کے کیریئر روزگار و شراقتی ازدواجی معاملات آپ کی بدنامی کا باعث ہوں گے۔ جو افراد کو مسائل خصوصی طور پر کسی بھی کاروباری یا شراقتی معاملے میں چیک وغیرہ دینے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس سال ہونے والی چیدہ چیدہ تبدیلیوں سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیش نظر اپنے معمولات کو ترتیب دیں اور اس سال کے اچھے مواقع سے بھرپور فائدہ اور برے اوقات سے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر۔

**ورد خاص:** روزانہ بعد از فجر سورہ شوریٰ کی آیت (19) ۳۸۷ مرتبہ تلاوت کریں صبح اول و آخر **9-9** مرتبہ درود پاک۔

**صدقہ:** ہر جمعرات کم از کم **300** گرام بڑے گوشت پر ہلدی مل کر جانوروں کو ڈالیں۔

**برہ: سرطان CANCER سیارہ: قمر**

رنگ: \_\_\_\_\_ سیدہ رودصیا  
 منبر: \_\_\_\_\_ آبی  
 جواہر: \_\_\_\_\_ بکرا، موتی، زہرہ موتی  
 بہترین شریک حیات: \_\_\_\_\_ مغرب، صحت  
 ناموافق ساتھی: \_\_\_\_\_ حمل، جدی، میزان

**بیماریاں:** بچھڑوں اور اسرار کی تکلیف، مہرہ، گردوں اور پیٹھ کی تکلیف

**دن:** \_\_\_\_\_ **تاریخ:** 22 June to 23 July **حروف:** ح، ہ

**اہم نکات:** سال **2011**ء اپنے دامن میں آپ کے لئے کئی ایک آثار چڑھاؤ لے کر آیا ہے۔ آپ کے چھٹے نوں کا حاکم مشتری آپ کے کیریئر کے گھر مثنیٰ پوزیشن میں جون تک رہے گا۔ بعد از جون بھی یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کی راہ میں نکاٹ ہوگا۔ آپ کے چوتھے گھر زحل کی شرفی کیفیت آپ کے خانگی ازدواجی معاملات میں بہتری کا باعث بن رہی ہے۔ آپ کے کیریئر کا حاکم ستارہ مریخ امسال شرف و ہبوط اور وبال چاروں کیفیات سے گزرتے ہوئے آپ کے روزگار پر مثبت و منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب کرے گا۔ تقصیلات اگلی طور میں ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے مریخ کا حاکم ستارہ قمر ہے اور خانہ مال کا حاکم ستارہ شمس ہے۔ امسال لگنے والے چھ گھر بن آپ کی شخصیت، مال، ازدواجی تعلقات اور صحت کو مریخ طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کے ایام میں صدقہ اور نماز

آسودگی فراہم کر رہی ہے وہیں آپ کی اضافی آمدن کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے۔ آپ انعامی ایکسوں میں حصہ لے رہے ہیں اور متوقع طور پر آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ائمہ زو غیرہ میں انوالو ہو رہے ہیں۔ آپ کو والدہ کی جانب سے مالی مدد مل سکتی ہے۔ وہ جو افراد جن کے وراثتی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ آپ کے مذہبی رجحانات بہتر ہو رہے ہیں۔ سال کی ابتداء بوجہ حقیقت شمس آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ بہن بھائی بن رہے ہیں۔ **13-12** جنوری شرف مریخ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں کسی دوست کے تعاون کو ظاہر کر رہی ہے۔ آپ کی صحت میں بہتری آ رہی ہے۔ **8** فروری وبال شمس ہونے سے آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ میں کوئی قریبی عزیز رکاوٹ بن رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں ٹھکر سے پرہیز کریں۔ یکم مارچ آپ کے طالع کا حاکم عطار کیریئر کے گھر ہبوط پذیر ہوگا۔ اپنی جاب اور کیریئر کے بارے میں فیصلے سے گریز کریں۔ اگر مجبوراً کو فیصلہ کرنا ہو تو کسی مخلص سے مشاورت کریں اور مائیں۔ آپ کو اپنی جاب سے یا تھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ **18** اپریل میاں ہویں شرف شمس آپ کا کوئی قریبی عزیز یا دوست آپ کی خواہشات کی تکمیل کا باعث بن رہا ہے۔ **18** اپریل کا شرف زہرہ جہاں بچوں کی جانب سے خوشی لا رہا ہے وہیں آپ کے کئی ذرا کے امکانات کو بھی روشن کر رہا ہے۔ مگر احتیاط بھی لازم ہوگی۔ کیونکہ آپ کے خلاف سفید سازشیں بھی مروج پر ہوں گی۔ اپنے پارٹنر پر نظر رکھیں۔ **4-6** جون مریخ کا وبال آپ کے ظاہری دشمنوں کے لئے وبال کا باعث ہوگا۔ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ **27** جون اونج زہرہ آپ کی سحر انگیز پرستانگی میں مزید کشش پیدا کر دے گا۔ آپ کسی ائمہ زو غیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اپنی رومانٹک طبیعت کو کنٹرول کریں۔ **11** جولائی خانہ مال میں شمس کا اونج آپ کی معاشی صورتحال میں بہتری کا باعث ہوگا۔ **12** ستمبر ہبوط زہرہ والدہ یا خاندان کے ساتھ بچوں کی وجہ سے اختلافات کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کے خفیہ دشمن زیر ہوں گے۔ **14 تا 16** خانہ مال میں مریخ کا ہبوط کسی دوست کی جانب سے مالی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ آپ کے مخالف آپ کو مالی نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ آپ کے بچوں کو بھی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ **17** ستمبر کا شرف عطار خانہ مال میں آپ کی عزت و توقیر کا باعث بنے گا۔ بہتر رہائش کے لئے کوئی اقدام کرنا بھی کوئی پلاٹ یا بڑا گھر لینا سود مند ہوگا۔ **11-11** اکتوبر ہبوط شمس ہونے سے آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کی اضافی آمدن میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان ایام میں بچوں کی وجہ سے عزیز و اقارب سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ احتیاط کریں۔ اسی طرح اضافی آمدن کے لئے کسی عزیز پر سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ وگرنہ قطعی نقصان کا اندیشہ ہے۔ **12 تا 20** اکتوبر زحل عین اپنے شرفی درجات سے گزرے گا۔ گذشتہ طور میں آپ کو اس حوالے سے مفصل معلومات فراہم کی گئی ہیں انہیں مدنظر رکھیں۔

کسوف و خسوف بالضرور آکر ہیں۔

**صحت:** سال کی ابتدا میں ہی 22 جنوری کو آپ کے بیت الصحت کا حاکم ستارہ مشتری منفی پوزیشن میں جانے سے آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوں گے جو کہ 4 جون تک جاری رہیں گے۔ بعد ازاں 4 جون تا آخر سال تک گوکہ مشتری قدرے بہتر پوزیشن میں ہوگا مگر 30 اگست تا 26 دسمبر مشتری کی رجعت آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار رکھے گی۔ اسی دورے میں 25 نومبر کو آپ کے صحت کے گھر مٹس گرہن ہوگا۔ جو کہ آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب کرے گا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ کو اس سال وقتاً فوقتاً صحت کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ مشتری کے گھس اثرات سے بچاؤ کی تدبیر کر کے آپ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔

**سماجی تعلقات:** آپ کے سماجی تعلقات گذشتہ کئی سال سے متاثر چلے آ رہے تھے۔ زحل کے منفی اثرات نے آپ کی کافی کردار کشی کی ہے۔ اس سال حالات قدرے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ مگر دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ 22 فروری 9 تا مارچ تیسرے کا حاکم عطارد بھولتی گھر ہونے سے عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ 16 مئی تا 3 جون حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اسی دوران 2 جون کو ہونے والا قمری گرہن کو کہ آپ کو خفیہ دشمنوں پر فتح یاب کرے گا مگر آپ کے لئے بھی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی سماجی حیثیت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کا ستارہ ہر ماہ شرفیاب ہوتا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر ماہ قمر کو ہبوط بھی ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کو ہر قدم احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ وسط جون تا 26 ستمبر آپ کے حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ سماجی تقریبات و عزیز و اقارب میں مقبول ہو رہے ہیں۔ 27 ستمبر تا 13 اکتوبر آپ کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ خاندان اور بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس سال کی ایک اور خاص بات آپ کے طالع میں مریخ کا ہبوط ہے۔ 3 اگست تا 19 ستمبر آپ کے مزاج میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کا کوئی افیئر آپ کے لئے بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی عرصہ معتدل ہوگا۔ قمری گرہنوں اور قمر در عقرب کے ایام میں صدقہ دے کر آپ اپنی سماجی حیثیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

**شرکتی و ازدواجی تعلقات:** گذشتہ سال آپ کے شرکتی و ازدواجی تعلقات زحل کی منفی پوزیشن رجعت اور راہو کی جھٹکے گھر موجودگی کی وجہ سے انتہائی ناگفتہ بہ رہے ہیں۔ اکثر سرطان افراد کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ اس سال انشاء اللہ آپ کے حالات میں واضح بہتری آ رہی ہے۔ گوکہ جنوری تا جون زحل رجعت میں ہوگا مگر زحل کی شرفی کیفیت ہر حال آپ کے لئے سود مند رہے گی۔ آپ نئے شرکتی معاہدے کر سکیں گے۔ آپ نئے سرے سے اپنے ازدواجی تعلقات تعمیر کر رہے ہیں۔ گذشتہ غلطیوں کی تلافی ممکن ہوگی۔ نئے شرکتی معاہدوں کے لئے بعد ازاں جون کا عرصہ بہتر ہوگا۔ اگر

مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑے تو زحل سے منسوبہ صدقہ دے کر کر سکتے ہیں۔

**اولاد و انعامی بانڈ لائبریری:** بچوں کے حوالے سے یہ سال آپ کے لئے ایک بار پھر خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ وہ سرطان افراد جو تاحال بے اولاد ہیں انشاء اللہ اس سال صاحب اولاد ہوں گے۔ اس سال آپ کے بچوں کے حوالے سے کئی ایک اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا۔ جنوری میں مریخ کا شرف آپ کو اولاد کی خوشی سے مالا مال کر دے گا۔ آپ بڑے بچوں سے بھی کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ 11 مئی تا 21 جون آپ کو بچوں کی جانب خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ انتہائی قفل اور ہمت سے گزاریں۔ بچوں کے حوالے سے آپ کے مزاج میں تیزی آ رہی ہے۔ آپ کی برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حاملہ خواتین کے لئے یہ وقت انتہائی مشکل ثابت ہوگا۔ عین ممکن ہے آپ کو سرجری کروانی پڑے۔ بعد ازاں 19 ستمبر انشاء اللہ حالات میں تیزی سے بہتری آئے گی۔ انعامی بانڈ وغیرہ کے شائق افراد کے لئے سال کی پہلی ماہ مئی اور اگست ستمبر کا عرصہ بہتر ہوگا۔ مئی جون اور اگست تا وسط ستمبر ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں، سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

**سفر:** آپ کو اس سال کئی ایک نزدیکی سفروں سے واسطہ رہے گا۔ 22 فروری 9 تا مارچ اور 16 مئی تا 3 جون اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر سفر سے گریز کریں ورنہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بیرون ملک سفر کے خواہشمند افراد کو اس سال شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آپ کے نوے گھر کا حاکم مشتری آپ کے کیریئر کے گھر منفی پوزیشن میں ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم اور کاروباری امور کے لئے سفر میں کامیابی مشکل ہوگی۔ بعد ازاں جو کہ حالات قدرے بہتر ہوں گے مگر آپ کے موافق اب بھی نہ ہوں گے۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل مشکل ہے۔ آپ کو روحانی سذب کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے اس سال سفر سے گریز کریں ورنہ روپہ اور وقت کے ذریعے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

**تعلیمی کیریئر:** سرطان بچوں کو اس سال 11 مئی تا 21 جون 3 اگست تا 19 ستمبر مشکلات پیش آئیں گی۔ اس کے علاوہ عطارد کی رجعت کے ایام آپ کے لئے مشکل ثابت ہوں گے۔ آپ باوجود کوشش کے تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ ارتکاز کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے سرطان افراد کو تقریباً سارا سال بالخصوص 30 اگست تا 26 دسمبر مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے حالات بالکل آپ کے مخالف ہوں گے۔ کئی سرطان افراد کو تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑ سکتی ہے۔ روزانہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر ۱۲۹ تا ۱۹۲ مرتبہ ورد کریں۔

**منگنی و رشاوی:** سال کی ابتدا میں ہی آپ کی منگنی وغیرہ کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ 23 فروری تک کا عرصہ قطعی طور پر موافق نظر آ رہا ہے۔ وہ سرطان افراد جن کی نسبت تاحال طے نہیں ہوئی۔ انشاء اللہ اب جو جائے گی 11 مئی تا 3 اگست بالعموم اور 3 اگست تا 19 ستمبر ایسی کسی بھی تقریب کے انعقاد یا بات طے کرنے سے گریز

گی۔ 8 فروری کو شمس کا وبال آپ کو مالی بحران کا شکار کر رہا ہے۔ یکم مارچ کو نوں گھر عطار دکا ہوو آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ ایسٹرن کے لئے ایلانی کئے گئے کیسز ریجٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے خفیہ دشمنوں پر یہ ہوو بھاری پڑے گا۔ عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ان ایام میں غلطی سے بھی جعلی یا ناقص سفری دستاویزات استعمال نہ کریں۔ 8 اپریل کو ہونے والا شرف شمس آپ کے کیریئر کے گھر لگے گا۔ کاروبار میں بہتری کے علاوہ خاصہ منافع متوقع ہے۔ آپ کے مالی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ 18 اپریل کا شرف زہرہ آپ کی خانگی زندگی میں بہتری لا رہا ہے۔ آپ گھر کی تزئین و آرائش میں مصروف ہیں۔ آپ کی خوش بختی میں اضافہ ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات عروج پر ہیں۔ 4-6 جون مریخ کا وبال آپ کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ٹکرا سے گریز کریں وگرنہ اختلافات بڑھ جائیں گے۔ کاروباری معاملات تنزیلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچوں کی صحت یا ازدواجی معاملات پریشانی کا باعث ہوں گے۔ 27 جون اور زہرہ بارہویں گھر ہوگا۔ خاندان کا کوئی فرد آپ کے خلاف درپردہ سازش میں مصروف ہے۔ آپ کا کوئی دوست بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ 11 جولائی کو اوج شمس آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ 17 ستمبر کا شرف عطارد جہاں عزیز واقارب سے تعلقات میں بہتری کا باعث بن رہا ہے وہیں آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بھی زور پکڑ رہی ہیں۔ 11 اکتوبر کو چوتھے شمس کا ہوو گھر یا خاندان پر اٹھنے والا اضافی اخراجات کی جانب اشارہ دے رہا ہے۔ محتاط رہیں وگرنہ مالی صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ 12-20 زحل میں اپنے شرفی درجات سے گزرے گا۔ آپ کے وراثتی جائداد کے معاملات جو عرصہ دراز سے آپ کے لئے پریشانی کا باعث تھے اب سلجھ جائیں گے۔ آپ کو زہرہ کی طرف سے مالی معاوضت حاصل ہو سکتی ہے۔ نکاح شادی کے لئے یہ سب سے بہترین وقت ہوگا۔ 16 اکتوبر کو بچا چھپیں گھر عطار دکا اوج ہوگا۔ کسی دوست کی جانب سے زر پے پیسے کا حصول ممکن ہوگا۔ اولاد کی جانب سے کوئی خوشخبری نصیب ہوگی۔ عزیز واقارب سے تجدید تعلقات ہوگا۔ 19-21 اکتوبر مریخ کا اوج آپ کے کاروبار، ملازمت میں ترقی کا باعث ہوگا۔ آپ کے مالی حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ 5-6 نومبر دشمنوں کی جانب سے آپ کی صحت کو متاثر کرنے کے لئے سحر جادو کا خدشہ ہے۔ وہ اصحاب جنہوں نے ایسٹرن ایلانی کیا ہوا ہے انہیں مایوسی ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک مقیم حضرات کو رہائش کی پر اہم ہوگی۔ جیسا کہ گذشتہ طور میں بتایا جا چکا ہے۔ اسلٹشس قمری گرہن کثیر تعداد میں لگ رہے ہیں۔ گرہن کی تاریخ کو جنزری میں سے نوٹ فرمائیں۔ ان ایام میں صدقہ اور نمازی کی ادائیگی ضرور کریں۔ یہ گرہن پر گرہن آپ کی شخصیت اور مالی پوزیشن کو متاثر کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ سال گذشتہ سالوں کی نسبت بہتر ثابت ہوگا۔

کریں۔ ان ایام میں طے پانے والے معاہدے اختلافات کی نظر ہو جائیں گے۔ محتاط رہیں۔ آپ کے بیت الزوج کا حاکم زحل ابتدائے سال سے شرفی گھر رہتے ہوئے آپ کی شادی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے۔ دوسری شادی کے خواہشمند سرطان افراد کو بھی اس سال کامیابی نصیب ہوگی۔ اکثر سرطان افراد کے لئے اپنے بڑی عمر کے رشتے آئیں گے۔ جنوری تا جون نکاح سے قبل زحل سے منسوب صدقہ ضرور ادا کریں تاکہ رجعت زحل کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ معیشت، کیریئر، روزگار: آپ کے کیریئر کا حاکم ستارہ مریخ اس سال شرف و اوج ہوو اور وبال ہمیشہ چاروں کیفیات سے گزرے گا۔ 23 فروری تک حالات قطعی طور پر موافق نظر آ رہے ہیں۔ جنوری میں ہونے والا شرف مریخ آپ کے روزگار کے لئے انتہائی سہج ثابت ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو حسب خواہش ترقی میسر ہو سکتی ہے۔ 23 فروری تا 2 اپریل نئے اقدامات سے گریز کریں۔ 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ کاروباری حوالے سے خاصہ مشکل ثابت ہوگا۔ آپ کسی وعدے تلے آسکتے ہیں۔ نئے کاروبار کے آغاز یا معاہدوں سے قطعی گریز کریں۔ ان ایام میں اپنے مزاج پر قابو رکھیں ورنہ آپ کے کاروبار یا نوکری کو خاصہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 19 ستمبر کے بعد حالات ایک بار پھر تیزی سے معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سال کا باقی عرصہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ آپ کے خاندان مال کے حاکم شمس کو اس سال چار مرتبہ گرہن لگے گا۔ یہ گرہن آپ کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنی فائصل صورتحال کی بھلا کے لئے ان ایام میں صدقہ اور نمازی کی ادائیگی ضرور کریں۔

**خصوصی احکامات:** اس سال آپ کو تین اہم تبدیلیوں کا سامنا ہوگا۔ جو تھے زحل کی شرفی کیفیت کیریئر کے حاکم کی شرف و ہوو اوج اور وبال کی کیفیت اور چھنے، نوں کے حاکم مشتری کی منفی پوزیشن اور وہ بھی کیریئر کے گھر مشتری کی یہ پوزیشن آپ کی صحت، اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر، قرض اور مالی پوزیشن کو متاثر کرے گی۔ مریخ کی تیزی سے بدلتی صورتحال آپ کو کاروباری اتار چھاؤ سے دوچار رکھے گی۔ آپ کو اچھی بری دونوں طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ زحل کی شرفی کیفیت جہاں آپ کے خاندانی معاملات میں بہتری کا باعث ہوگی وہیں آپ کی ازدواجی شراکتی زندگی کو ایک نیا موڑ دے گی۔ جو کہ بہتری کی طرف جائے گا۔ آپ کو شراکت داری میں خاصے منافع کی توقع ہے۔ سرطان افراد کے لئے حصول وراثت ممکن ہوگی۔ آئیے اب ماہہ اثرات ستارگان کا جائزہ لیتے ہیں۔

یکم جنوری کو شمس کا ضعیف شراکتی حوالے سے کسی نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ 12-13 جنوری کیریئر کا حاکم مریخ ساتویں گھر شرفیاب ہونے سے آپ کے کیریئر پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ ملازم پیشہ افراد کو ترقی میسر ہوگی۔ ان ایام میں ہونے والی شادیاں آپ کے کیریئر اور روزگار کے لئے سبک میل ثابت ہوں

شریاب ہونے سے آپ مذہبی امور میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں آپ کی نیک نامی ہو رہی ہے۔ مگر 21 اپریل تا 16 مئی ایسی محافل سے گریز کریں بالخصوص ایسی تقریبات جن کا انعقاد عزیز واقارب کی جانب سے کیا جا رہا ہو۔ 2 جون کا گریہ دوستوں کے ساتھ اختلافات کو ہوا دے رہا ہے۔ محتاط رہیں آپ کا وقار مجروح ہو سکتا ہے۔ 9 جون تا 4 جولائی جہاں عزیز واقارب کے ساتھ تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا وہیں آپ کے کچھ دوست درپردہ سازشوں میں مصروف ہیں۔ مگر یکم جولائی کو ہونے والا گریہ عنائتین کی کوششوں کو ناکام بنا دے گا۔ 22 اگست تا 15 ستمبر کے عرصہ میں آپ کو قطعی طور پر محتاط رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ عزیز واقارب سے کسی بھی قسم کے اختلاف سے گریز کریں۔ ان ایام میں کسی بھی قسم کے تحریری یا زبانی معاہدے سے گریز کریں۔ 23 ستمبر تا 23 اکتوبر آپ کا حکم ستارہ بیوط پر زیر رہے گا۔ آپ کو عزیز واقارب کی طرف سے الزام تراشیوں کا سامنا ہوگا۔

**شراتی ازدواجی تعلقات:** آپ کے شراتی ازدواجی تعلقات گذشتہ مئی سال سے متاثر چلے آ رہے ہیں۔ بالخصوص گذشتہ سال جولائی تک آپ کے معاملات شدید ابتری کا شکار تھے۔ اسال صورتحال زحل کے تیسرے گھر شرعی کیفیت کی وجہ سے یکسر آپ کے حق میں ہوگی۔ آپ کے ازدواجی شراتی معاملات آپ کے لئے قلبی سکون کا باعث بن رہے ہیں۔ مگر جنوری تا جون رجعت زحل کی وجہ سے ہلکی پھلکی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ نئے شراتی معاہدوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ کسی قریبی عزیز کی جانب سے سرمایہ کاری کی آفر ہو سکتی ہے۔ یہ سال ایسے اقدامات کے لئے بہترین وقت ہوگا۔ اسال آپ کو شراتی امور سے کسی خاص منافع کی توقع نہیں ہے۔ آپ کے آٹھویں کا حکم مشتری اسال بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ طویل دوری کے منصوبوں پر عمل کریں۔

**اولاد انعامی بانڈ لائبریری:** جیسا کہ گذشتہ طور میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ کے پانچویں گھر کا حکم ستارہ مشتری تمام سال نئی پوزیشن میں ہوگا۔ بالخصوص پہلے چھ ماہ قطعی آپ کے موافق نہ ہوں گے۔ تمام سال آپ کو بچوں کے مسائل سے واسطہ رہے گا۔ اولاد کے خواہشمند اسد افراد کو بھی اسال مشکلات کا سامنا اس حوالے سے بارگاہ الہی میں خصوصی مناجات اور مشتری کے شخص اثرات سے بچاؤ کارروائی سدباب آپ کی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ وہ اسد خواتین جو اسال امید سے ہیں انہیں خصوصی احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے۔ انعامی بانڈ اور لگی ڈراز کے شائق افراد کے لئے یہ سال قطعی غیر موافق ہوگا۔ اسال آپ کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں گی۔

**سفر:** اسال بھی آپ کو کوئی ایک نزدیکی سفروں سے واسطہ رہے گا۔ سال کی پہلی سہ ماہی اختیار کئے گئے حصول مقصد سے خالی ہوں گے۔ آپ کے پروگرام بنتے بنتے بگڑ سکتے ہیں۔ 27 مارچ تا 21 اپریل کا عرصہ نزدیکی سفروں کے لئے بہترین وقت ہو گا۔ 21 اپریل تا 18 مئی آپ کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ 9 جون تا 4

**ورد خاص:** روزانہ ۲۶ مرتبہ **اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰقُ ذُو الْقُوَّةِ** **اَلْمَتِّينِ** ورد کریں بمعاذل و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک۔  
**صدقہ:** بروز جمعرات 300 گرام بڑے گوشت پر ہلدی مل کر دیرانے میں ڈالیں۔

**برج: اسد** **LEO** **سیارہ: شمس**

رنگ: کولن، نارنجی  
منصور: آتش  
جواہر: میراہینیا  
بہترین شوبک حیات: حمل قوس، ثور  
ناموافق ساتھی: عقرب، دلو

بیماریاں: ہالی بلڈ پریشر، بڑی بڑی، کمر کی تکلیف، دل کی تکلیف

دن: اتوار، عدد: 1، 24 July to 23 Aug، شریف: ۴، ۵

سال 2011ء بالخصوص اسد افراد کے لئے نیک شگون ثابت ہوگا۔ گو کہ آپ کی ساڑھ سنی ختم ہو چکی ہے۔ مگر گذشتہ سال زحل کی رجعت اور دوبارہ خانہ مال میں واپسی آپ کو شند مایلی بحران کا شکار کر چکی ہے۔ اب آپ کی صحت اور شراتی ازدواجی تعلقات تیسرے زحل کی شرعی پوزیشن کی وجہ سے بہترین پوزیشن کی جانب گامزن ہوں گے۔ پانچویں، آٹھویں کا حکم مشتری اسال نویں دسویں منفی اثرات مرتب کرے گا۔ آپ کو بچوں، ورثاتی امور، بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم سے متعلقہ معاملات میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ چوتھے نویں کے حکم مریخ کی تیزی سے بدلتی پوزیشن بھی آپ کے خانگی رہائشی اور بیرون ملک مذہبی امور سے متعلقہ معاملات میں اتنا چڑھاؤ کا باعث ہوگی۔ باقی ستارگان اسال آپ پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔

**صحت:** گذشتہ سال زحل اور راہو کی وجہ سے آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ اسال زحل تمام سال شرعی برج میں رہتے ہوئے آپ کی صحت کو بہتری کی طرف مائل رکھے گا۔ البتہ کچھ عرصہ آپ کو بوجہ رجعت زحل ہلکے پھلکے مسائل کا سامنا ہوگا۔ 4 جنوری کا شمسی گریہ آپ کی صحت پر مضر اثرات مرتب کر رہا ہے۔ صدقہ ضرور ادا کریں۔ مارچ کے آخر میں راہو بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ باقی کا تمام سال انشاء اللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی۔

**سماجی تعلقات:** سال کی ابتدا سے ہی آپ کے تعلقات عزیز واقارب کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ سارا سال گو کہ زحل کی تیسرے شرعی کیفیت کی وجہ سے بہتر رہے گا۔ مگر جون تک رجعت زحل کی وجہ سے پھر بھی اپنے تعلقات کو محتاط روی سے آگے بڑھائیں۔ جنوری فروری میں دوران محافل خود کو ریزورڈ کرنا بہتر ہوگا۔ 27 مارچ تا 21 اپریل آپ کے سماجی وقار میں اضافہ ہوگا۔ عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے جاری اختلافات کا خاتمہ ہوگا۔ اسی دوری میں آپ کا اپنا ستارہ شمس

روزگار کے لئے کڑا وقت ثابت ہوگا۔ ان ایام میں کسی بھی نئے اقدام یا فیصلے سے گریز کریں ورنہ حالات آپ کی حسب نشانہ ہوں گے۔ اسی طرح 26 تا 2 نومبر بھی محتاط روی اچھی ثابت ہوگی۔

**خصوصی احکامات:** سال 2011ء گزشتہ سال کی نسبت بہتر نظر آ رہا ہے۔ زل

کی تیسرے شرعی کیفیت آپ کی صحت اور شراکتی ازدواجی زندگی پر بہترین اثرات مرتب کرے گی۔ گزشتہ شکایات کا ازالہ ممکن ہوگا۔ مگر مشتری کی نویں منفی پوزیشن بچوں، اعلیٰ تعلیم اور شراکتی وراثتی معاملات کو متاثر کر دے گی۔ آپ کے انجمن زاب نشت ازہام ہوں گے۔ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا حاکم ستارہ ٹیس سال کی پہلی سہ ماہی منفی پوزیشن کا حامل ہوگا۔ آپ کے دشمن آپ کی ازدواجی زندگی متاثر کرنے کے درپے ہیں۔ گوکہ زل شرعی گھر موجود ہے مگر زل کی رجعت آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ 12-13 جنوری کو نویں کا حاکم مرغ شریفاب ہو کر آپ کے بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم کے اسباب بنا رہا ہے۔ اسد افراد کو بسلسلہ نوکری سفر اختیار کرنا پرمسکتا ہے۔ آپ کے دوسرے گیارہویں کا حاکم آٹھویں یک مارچ کو ہبوط پذیر ہوگا۔ آپ کو شراکتی یا وراثتی معاملات میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ خواہشات کی تکمیل نہ ہونے سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ٹھکر اور ادا ردارد دینے سے گریز کریں۔ 8 اپریل کو طالع کا حاکم نویں شریفاب ہوگا۔ آپ مذہبی محافل میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 18 اپریل کو تیسرے دسویں کا حاکم آٹھویں شریفاب ہو کر عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی طرف گامزن کر دے گا۔ کسی قریبی عزیز کی جانب سے روزگار میں مدد یا نوکری کی آفر ہو سکتی ہے۔ مشترکہ مفادات سے منافع کا حصول ممکن ہوگا۔ 2 جون کو ہونے والا سٹسی گرہن دوستوں کے ساتھ اختلافات پیدا کر رہا ہے۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن نہ ہوگی۔ 4 تا 6 جون مرغ کو کیریز کے گھر دہال ہونے سے آپ کے کاروباری معاملات تیزی سے متاثر ہوں گے۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کے کاروباری معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ان ایام میں ویزہ وغیرہ اہلائی کرنے سے گریز کریں۔ 16 جون کو لگنے والا قمری گرہن دشمنوں کی جانب سے آپ کے وقار پر حملے کی کوشش کو ظاہر کر رہا ہے۔ محتاط رہیں۔ 27 جون کو اوج زہرہ آپ کی کاروباری مصروفیات میں اضافہ کر دے گا۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں کوئی عزیز مدد فراہم کر رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ تجدید تعلق ہو رہی ہے۔ یکم جولائی کو لگنے والا سٹسی گرہن دشمنوں کے ارادوں کو ناکام بنانے میں مددگار ہوگا۔ مگر محتاط رہیں آپ کی اپنی عزت بھی داؤ پر ہوگی۔ 11 جولائی کو بارہویں اوج شمس خفیدہ دشمنوں پر مکمل فتح جانی کی دلیل ہے۔ وہ اسد افراد جنہوں نے انیگریشن اہلائی کیا ہے یا جو بیرون ملک بہتر رہائش کے متمنی ہیں انہیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ 19 ستمبر کو زہرہ کا ہبوط خانہ مال میں ہونے سے کسی دوست یا عزیز کی جانب سے آپ کو مالی نقصان پہنچانے کا اندیشہ

جولائی کسی دوست کے ساتھ اچانک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے۔ 22 اگست 15 تا ستمبر سفر سے قطعی طور پر گریز کریں۔ سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آنے گا۔ بیرون ملک سفر کے خواہشمند افراد کو بے جلع حالات کا سامنا ہوگا۔ مشتری پہلے چھ ماہ آپ کے تاویں گھر بیٹھ کر منفی اثرات مرتب کرے گا۔ مگر اسی دوران کچھ وقت آپ کو بہتر بھی ملیں گے۔ ابتدائے سال 15 تا جنوری، 2 اپریل تا 11 مئی، 19 ستمبر تا 11 نومبر کا عرصہ ویزہ اہلائی کرنے یا بیرون ملک سفر کے حوالے سے قدرے بہتر ہوگا۔ البتہ 11 مئی تا 3 اگست بالعموم 3 اگست 19 تا ستمبر ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں۔ ان ایام میں اہلائی کے گئے کیمونر ٹیکٹ یا التوا کا شکار ہو سکتے ہیں محتاط رہیں۔

**تعلیمی کیرئیر:** ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے اسد بچوں کو 21 اپریل تا 16 مئی اور 22 اگست 15 تا ستمبر اور 26 تا 2 نومبر مشکل حالات کا سامنا ہوگا۔ باقی سال بہتر رہے گا۔ البتہ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے افراد کو مشتری کی پوزیشن اور 11 مئی 19 تا ستمبر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ان ایام میں جذباتی ہو کر کسی بھی فیصلے سے گریز کریں۔ روزانہ 9 مرتبہ دعائے رخصت سیارگان ورد کریں اور مرغ سے منسوب صدقہ ادا کریں۔

**منگنی و شادی:** اسامی آپ کی منگنی وغیرہ کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پانچویں کا حاکم مشتری منفی پوزیشن کا حامل رہتے ہوئے آپ کی کوششوں کو ناکامی سے دوچار کر دے گا۔ پہلے سے طے شدہ نسبتیں بھی اسامی خطرے میں ہوں گی۔ ایسی کسی بھی تقریب کے انعقاد سے گریز بہتر ہوگا۔ آپ کے ساتویں گھر کا حاکم ستارہ زل اسامی بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کی شادی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دوسری شادی کے خواہشمند اسد افراد کے لئے بھی آپشنز کھل گئی ہیں۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی۔ یوں تو یہ تمام سال اس حوالے سے بہترین ہے مگر اکتوبر کا مہینہ سال کا بہترین وقت ہوگا۔ سال کے پہلے چھ ماہ اگر ایسی تقریبات کریں تو زحل سے منسوب صدقات ضرور ادا کریں۔

**معیشت، کیرئیر، روزگار:** آپ کے کیرئیر کا حاکم ستارہ زہرہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے۔ اس طرح ایک سال میں جہاں آپ کے کیرئیر میں ترقی کے امکانات ہوتے ہیں وہیں تنزیل و نقصان کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ 27 مارچ تا 21 اپریل زہرہ کی شرعی گھر موجودگی آپ کے کیرئیر میں ترقی کا باعث ہوگی۔ آپ کو بہتر جاب کی آفر ہو سکتی ہے۔ روزگار بہتر ہونے سے آپ کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ مگر اس کے فوراً بعد 21 اپریل تا 11 مئی حالات موافق نہ ہوں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ دنوں کا فیصلہ کریں یا چل کر مظارہ کریں۔ 16 مئی تا 22 اگست حالات ایک بار پھر آپ کو موافق ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اب جاب کی تجدیلی بہتر ہوگی۔ نئے کاروباری ابتدا کے لئے 9 جون تا 4 جولائی کا عرصہ بہتر وقت ہوگا۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی۔ 22 اگست تا 15 ستمبر کا دورانہ آپ کے کیرئیر

**برج: سنبلہ VIRGO سیارہ: عطارد**

**رنگ:** گہرا زرد، پیلا  
**منصوب:** خانگی  
**جواہر:** گومدیک زرد، جنتیق، فیروزہ  
**بہترین شریک حیات:** جدی، ثور  
**ناموافق ساتھی:** قوس، جدوت، جوزا



**بیماریاں:** معدہ، جگر، آنسوؤں کی بیماریوں، اسر، کان کی تکالیف

**دن:** بدھ **عدد:** ۵ **24 Aug to 23 Sep** **حروف:** پ، غ

**اہم نکات:**

سنبلہ افراد ساڑھ سنی کا تیسرا اور آخری دور گزار رہے ہیں جیسا کہ گذشتہ سال بتایا گیا تھا کہ زحل آپ کے خاندان مال میں شرفی کیفیت کا حامل ہوگا مگر اس صورت حال سے بھرپور فائدہ صرف وہ سنبلہ افراد اٹھا سکیں گے جن کے زائچہ پیدائش میں زحل بحالت سعد ہوگا ان کے لئے حالات ساڑھ سنی سے قطعی مختلف ہوں گے چوتھے ساتویں کا حاکم مشتری جنوری سے برج حمل میں منفی پوزیشن کے ساتھ آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ بعد از جون مشتری نائیں آجائے سے آپ کے مذہبی معاملات میں تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی اور بیرون ملک سفر میں رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ باقی سیارگان یعنی عطارد، زہرہ، مریخ اور شمس و قمر آپ کے زائچہ پر امسال کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اگلی سطروں میں ملاحظہ فرمائیں۔

**صحت:**

آپ کے بیت الصحص کا حاکم سیارہ زحل تمام سال اپنے شرفی برج میں رہتے ہوئے آپ کی صحت پر سعد اثرات مرتب کرتا رہے گا گوکہ مجموعی طور پر امسال آپ کی صحت کا کافی بہتر نظر آتی ہے مگر 26 جنوری تا 13 جون بوجہ رجعت زحل آپ کو پھر بھی اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینا ہوگی الغرضی سے گریز کریں۔ انچوکا پاؤں کے پٹھوں ناگھوں کی کمزوری اور نچھنے میں موج وغیرہ جیسے مسائل کا سامنا ہوگا۔

**سامانی تعلقات:**

جنوری میں تیسرے کا حاکم مریخ شرفیاب ہونے سے عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات عروج پر ہونگے 22 فروری تا 9 مارچ عطارد کے ہوٹلی برج ہونے سے آپ کو گفتگو اور تحریر میں حد درجہ محتاط رہنا ہوگا ورنہ آپ کی سامانی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے۔ 2 اپریل تا 11 مئی سامانی تقریبات عروج پر ہونگی 11 مئی تا 21 جون کا عرصہ احتیاط طلب ہوگا سراسر انی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں اس میں آپ کا اپنا کوئی عزیز انتہائی منفی رول ادا کر رہا ہے 21 جون تا 3 اگست عزیز و اقارب اور کاروباری معاملات آپ کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں یہ عرصہ آپ کو انتہائی تدبیر سے گزارنا ہوگا ورنہ آپ کی سامانی حیثیت متاثر ہو سکتی ہے۔ 3 اگست تا 19 ستمبر تیسرے آٹھویں کا حاکم مریخ گیارہویں ہو پوز پندیر ہونے سے دوستوں اور عزیز و اقارب سے واسطہ توقعات پوری نہ ہونے سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ جھگڑے سے گریز کرنا بہتر ہوگا کیونکہ بوجہ رجعت عطارد آپ سے دوران گفتگو قطعی کے قوی امکانات ہونگے 9 ستمبر تا

ہے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں وگرنہ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 14 تا 16 ستمبر بارہویں مریخ کا ہبوط والدہ کی جانب سے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ عین ممکن ہے آپ کو رہائشی جگہ تبدیل کرنا پڑے۔ اپنے خانگی معاملات کو تحمل اور بردباری سے نمٹائیں۔ اسد افراد کے ایگریگیشن کیسز رجسٹرکٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مذہبی معاملات میں جذباتیت سے گریز کریں۔ 17 ستمبر کو خاندان مال میں ہونے والا شرف عطارد آپ کی مالی صورتحال میں خاصی بہتری لے آئے گا۔ آپ کو دوستوں کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ آپ کافی خوش نظر آرہے ہیں۔ 11 اکتوبر کو آپ کے طالع کا حاکم تیسرے گھر ہبوط پذیر ہوگا۔ عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آرہی ہے۔ آپ کے سماجی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ ان ایام میں کسی بھی قسم کے زبانی یا تحریری معاہدے سے گریز کریں۔ 12 تا 20 اکتوبر آپ کے تیسرے گھر زحل کا شرف ہوگا۔ عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آرہی ہے۔ محتاط رہیں۔ آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ خاصے مضبوط ہوں گے۔ آپ کوئی شراکت داریوں کی آفر مل رہی ہے۔ ازدواجی تعلقات عروج پر ہیں۔ 16 اکتوبر کو عطارد آپ کی مالی پوزیشن میں استحکام پیدا کر رہا ہے۔ آپ حسب خواہش رہائشی گھر یا زمین خرید سکیں گے۔ 19 تا 21 اکتوبر طالع میں مریخ اور جیون یافتہ ہوگا۔ خاندان میں آپ کی عزت افزائی کا باعث ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ 5-6 نومبر کو خاندان مال کا حاکم پانچویں گھر و بال پذیر ہوگا۔ آپ کو بچوں کے معاملات پر اضافی اخراجات کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ان ایام میں کسی بھی طرح کی انعامی اسکیم میں اضافی آمدن کی خاطر حصہ نہ لیں آپ کی خواہشات کی تکمیل ممکن نہ ہوگی۔ آپ کی منگنی اختلافات کی نظر ہو رہی ہے۔ انواہوں پر یقین نہ کرنا بہتر ہوگا۔ 25 نومبر کا مکی گرنہ آپ کو بچوں کی جانب سے مشکلات کا شکار کر رہا ہے۔ آپ کے افسیر زآپ کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 10 دسمبر کا قمری گرنہ آپ کے خفیہ دشمنوں پر بھاری پڑے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ دوستوں سے وابستہ مالی امیدوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔

ممکنہ طور پر آپ کو اس سال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امور کو ترتیب دیں اور بہتر طور پر اپنے ماہ و سال گزاریں۔ پروردگار آپ کا حامی ہو۔

**شارٹ کورسز**  
 اسٹریولوجی  
 علم الاحیاء  
 پامسٹری  
 شائقین علوم منجلی کے لئے دلچسپ اور معلوماتی کورسز  
 "قوس نجوم"  
 زائچہ سازی کے لئے قواعد و کلیات پر مبنی منفرد اور جامع کتاب بذریعہ  
 ڈی۔ پی۔ منگوا سکتے ہیں۔ راپلہ: 0300 8410024

سے قبل مشتری کے اثرات سے بچاؤ کا روحانی تدارک ضرور کریں۔ گوکہ بعد از جون مشتری اگلے برج میں چلے جانے سے حالات تبدیل ہونگے مگر یہ وقت بھی سعادت کا حامل نہ ہوگا۔

**سفر:** اس سال آپ کو کئی ایک نزدیکی سفر اختیار کرنا ہونگے لیکن سال کا کچھ عرصہ سفر کیلئے قطعی موافق نہ ہوگا۔ 11 مئی 19 تا ستمبر سفر سے ہر ممکن گریز کریں اگر مجبوراً سفر اختیار کرنا پڑے تو مریخ سے منسوبہ مدد سفر سے قبل ضرور ادا کریں ورنہ دوران سفر جھگڑے یا حادثہ کا قوی امکان ہوگا۔ بیرون ملک سفر کے خواہشمند افراد 21 اپریل تا 16 مئی 22 اگست 15 تا ستمبر اور 2 نومبر تا سفر یا بیرون ملک سفر کیلئے ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں ورنہ ناکامی ہوگی اس سال بیرون ملک سفر کیلئے 27 مارچ تا 21 اپریل اور 9 جون تا 4 جولائی 15 ستمبر اور 9 اکتوبر کا عرصہ بہترین وقت ہونگے ان ایام میں اختیار کئے گئے سفر وسیلہ نفع ثابت ہونگے (انشاء اللہ)۔

**معیشت، کیریئر، روزگار:** گوکہ آپ ساڑھ سنی کے تیسرے اور آخری دور سے گزر رہے ہیں اور اس دور میں انتہائی سخت حالات کا سامنا ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ دور آپ کے لیے قدرے آسائش لے کر آ رہا ہے ذل تمام سال آپ کے خاندان مال میں شرفی کیفیت کا حامل رہتے ہوئے آپ کی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے اور ذل کی تیسری نظر تثلیث آپ کے دسویں یعنی کیریئر کے گھر پر ہوگی اس طرح آپ کے کیریئر روزگار پر انتہائی سعادت اثرات مرتب ہونگے اس صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ وہ احباب اٹھا سکیں گے جن کے زائچہ پیدائش میں زحل بحالت سعد ہے۔ اسکے علاوہ آپ کے کیریئر اور مال کے حاکم سیارگان بالترتیب عطارد اور زہرہ انفرادی طور پر جو اثرات مرتب کریں گے آئیے انکا جائزہ پیش کرتے ہیں! آپ کے کیریئر کے حاکم عطارد فروری کے آخری اور مارچ کے لیے پہلے عشرے میں بیٹھی گھر ہوگا اس دوران کاروباری معاملات میں جذباتیت سے گریز کریں نئے معاہدے نقصان کا باعث ہونگے۔ 18 اپریل کو خانہ مال کا حاکم شرفیاب ہو کر آپ کی معیشت میں بہتری کا باعث ہوگا۔ 27 جون کو خانہ مال کا حاکم کیریئر کے گھر اور جن پدیر ہو کر دہرے فوائد کا باعث ہوگا۔ 12 ستمبر کو طالع میں خانہ مال کا حاکم ہو پڑ پدیر ہونے سے مالی معاملات میں غلط فیصلے کا امکان ہے محتاط رہیں 9 ستمبر تا 26 ستمبر آپ کے کیریئر کا حاکم طالع میں شرفیاب ہونے سے حسب خواہش ترقی اور کاروباری وسعت کے راستے کشادہ ہونگے 13 اکتوبر تا 2 نومبر کا عرصہ بھی آپ کے لیے عروج کا باعث ہوگا مگر 2 نومبر تا آخر سال کا عرصہ آپ کے لئے کاروباری لحاظ سے ایک مشکل دور ثابت ہوگا۔

**خصوصی احکامات:** سال 2011ء آپ کے لیے ایک ملاحظہ سال ثابت ہوگا گوکہ آپ ساڑھ سنی کے تیسرے آخری اور مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں مگر گذشتہ سال سے ذل آپ کے خاندان مال میں شرفی کیفیات کا حامل موجود ہے اور آپ کے مالیاتی نظام میں بہتری کا باعث بن رہا ہے یوں سمجھیں کہ یہ کسی نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے اس

26 ستمبر آپ کا ستارہ عروج پر ہوگا آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ 26 ستمبر 13 اکتوبر آپ ایک بار پھر مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات کیوجہ سے آپ کی شخصیت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ نومبر کا مہینہ آپ کے موافق نظر آ رہا مجموعی طور پر اس سال آپ کو طے بلے حالات کا سامنا ہوگا۔

**اولاد انخالی یا نالاشی:** گوکہ گذشتہ سال سے آپ کے بیت اولاد کا حاکم ستارہ زحل بہترین پوزیشن میں ہے مگر پانچویں راہ کی موجودگی نے آپ کو بچوں کے مسائل سے دوچار رکھا ہے۔ اس سال انشاء اللہ راہ کے برج قوس میں چلے جانے سے گذشتہ جاری مسائل کا خاتمہ ہوگا وہ سنبھلے افراد جو تاحال اولاد جیسی نعمت خداوندی سے محروم تھے اب انشاء اللہ انکی دعائیں بار آور ثابت ہونگی البتہ آپ کو 26 جنوری تا 13 جون بوجہ رجعت زحل بچوں کی جانب سے ملکی پھلکی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ انعامی سیکسوں میں حصہ لینے کے خواہشمند حضرات کیلئے سال کا آخری نصف حصہ زیادہ بہتر ثابت ہوگا بالخصوص اکتوبر کے مہینے میں آپ کا کوئی بڑا انعام کھل سکتا ہے۔

**تعلیمی کیریئر:** ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے سنبھلے بچوں کو 11 مئی 31 اگست ہالوم اور 4 اگست 9 ستمبر بالخصوص مشکل حالات کا سامنا ہوگا باقی سال انشاء اللہ بہتر رہے گا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کیلئے یہ سال طے بلے اثرات کا حامل ہوگا آپ کے لیے 21 اپریل تا 16 مئی اور 22 اگست 15 ستمبر کا عرصہ مشکل ثابت ہوگا اور 27 مارچ تا 20 اپریل اور 9 جون تا 4 جولائی کا عرصہ بہترین ثابت ہوگا

**شرائی ازدواجی تعلقات:** اس سال آپ کو اپنے شرکائی ازدواجی معاملات انتہائی تحمل اور بردباری سے نبھانے ہونگے ابتدائے سال یعنی 22 جنوری تا 4 جون آپ کے ساتویں کا حاکم مشتری برج حمل میں منفی پوزیشن کا حامل ہوگا آپ اپنے شرکائی ازدواجی معاملات کیوجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں اس عرصہ میں کسی بھی قسم کی نئی شراکت داری سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے آپ کو گذشتہ شراکت داری کو بھی محتاط روی سے چلانا ہوگا آپ کے ازدواجی تعلقات میں آپ کے خاندان کے افراد خندا انداز کر رہے ہیں کسی بھی بہکاوے میں مت آئیں۔ بعد از جون گوکہ مشتری اگلے برج میں چلا جائے گا اور آخر سال تک یہیں رہے گا مگر حالات میں بہتری متوقع نہیں ہے۔ کیونکہ 30 اگست تا 26 دسمبر مشتری رجعت پدیر رہے گا لہذا اپنے معاملات میں حد درجہ احتیاط کریں۔

**عقبنی و شادی:** بعد از فروری آپ کی معنی و نسبت وغیرہ طے ہونے کے قوی امکانات ہونگے وہ سنبھلے افراد جو تاحال کسی بھی بندھن میں نہیں بندے تھے اب انشاء اللہ انکی نسبت طے ہو جائے گی البتہ اگلا سال آپ کی شادی کے حوالے سے قطعی مناسب نہ ہوگا آپ کے ساتویں کا حاکم مشتری بحالت حقیض جون تک رہے گا ان ایام میں کی گئی شادیاں بہتر ثمرات کی حامل نہ ہونگی پہلے سے طے شدہ شادیاں بھی التوا شکار ہو سکتی ہیں اگر باوجود مجبوری نکاح رخصتی جیسی تقریبات کا انعقاد ضروری ہو تو اپنی تقریبات



سلامتی سے بڑھ کر کوئی لباس زیادہ خوبصورت نہیں اور استقامت سے بڑھ کر کوئی راستہ زیادہ سلامت نہیں۔ (حضرت علیؓ)

2011

طور پر آپ کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے خوشی نصیب ہوگی۔ کسی ملازم کی وجہ سے مالی فوائد کا حصول ممکن ہوگا۔ 16 اکتوبر کو تیسرے گھر عطار کا اوج عزیز واقارب میں آپ کی عزت کا باعث ہوگا کاروباری معاملات کے حصول کے لئے نزدیکی کامیاب سفر کا امکان ہے۔ 19-21 اکتوبر کا عرصہ انتہائی محتاط روی سے گزریں عزیز واقارب میں سے کوئی آپ کے خلاف کامیاب سازش کر رہا ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ 6-5 نومبر کو چوتھے عطار کی منفی پوزیشن خانگی معاملات میں اختلافات کی مظہر ہے والدہ کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے آپ کے خانگی معاملات آپ کی کاروباری مصروفیات کو متاثر کر رہے ہیں۔ اسماں ہونے والے قمری گرہن آپ کے خانگی کاروباری معاملات کے علاوہ بچوں اور خواہشات کو متاثر کر رہے ہیں ان ایام میں صدقہ نماز سکوف و خسوف کی ادائیگی کے بعد اگلے اثرات سے بچاؤ ممکن ہوگا۔

**ورد خاص:** روزانہ ۲۳۳ مرتبہ سورۃ بقرہ آیت ۱۲۵ تلاوت کریں بمعدہ اول

آخر ۱۲۔۱۱ مرتبہ درود پاک۔

**صفت:** بروز جمعرات کم از کم 300 گرام بڑے گوشت پر تھوڑی ہلدی مل کر جالوروں کو ڈالیں۔

برج: میزان	LIBRA	سیارہ: زہرہ
دنک:	_____	_____
عنصر:	_____	_____
جواہر:	_____	_____
بہترین شریک حیات:	_____	_____
ناموافق ساتھی:	_____	_____
بیماریاں:	_____	_____
دن: جمعہ	24 Sep to 23 Oct	شرف: رت و ط

**اہم نکات:** آپ گذشتہ سال سے ساڑھے تہی کے دوسرے دور سے گذر رہے ہیں اور 2011 بھی آپ کے اسی دور کا حصہ ہوگا ذیل گذشتہ سال سے آپ کے طالع میں شرفی کیفیت کا حامل موجود ہے اور آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کے باعث ہے ساڑھے تہی کے باوجود آپ کے حالات میں بہتری کی امید ہوگی مگر صرف ان افراد کیلئے جنکے زائچہ پیدائش میں زحل بحالت سعد یعنی بہتر پوزیشن میں ہوگا باقی افراد اس صورتحال سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکیں گے آپ کے بیت الاقرباء اور بیت الصحت کا حکم ستارہ مشتری آپ کے زائچہ کے ساتویں گھر یعنی طالع کے بالکل مقابل منفی پوزیشن کا حامل ہوگا اور چونکہ تک عزیز واقارب پارٹنرز اور زمین کے مابین اختلافات کا باعث ہوگا اسکے علاوہ آپ کی صحت پر انتہائی معثر اثرات مرتب ہو سکتے۔ اسماں ہونے والے گرہن آپ کے کاروبار خواہشات اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں محتاط رہیں باقی سیارگان شرف و ہبوط سے گذرتے ہوئے کیا اثرات مرتب کریں گے اسکا جائزہ

سال کچھ دوسرے مسائل بھی آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہو گئے۔ آپ کے چوتھے اور ساتویں گھر کا حاکم مشتری آپ کے زائچہ کے آٹھویں گھر منفی پوزیشن کا حامل رہتے ہوئے سال کے پہلے نصف حصہ آپ کے خانگی ازدواجی پرابرٹی اور وراثت سے متعلقہ معاملات کی جانب سے پریشان رکھے گا جبکہ باقی نصف حصہ بھی مشتری کی پوزیشن کچھ بہتر نہ ہوگی۔ بہر حال حالات پہلے سے بہتر ہو گئے۔ ابتدائے سال یعنی یکم جنوری کو شمس خفیف میں ہونے سے آپ کو بچوں کی جانب سے پریشانی ہو سکتی ہے اگلے ازدواجی تعلقات و شادی بیاہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو گئے 12-13 جنوری کو پانچویں گھر مریخ کا شرف اولاد کے خواہشمند افراد کے لئے خوشخبری لے کر آ رہا ہے بہن بھائیوں اور عزیز واقارب سے تعلقات میں بہتری آئے گی مشتری کہ مفادات میں مالی فائدہ حاصل ہوگا یا سسرال کی جانب سے مالی معاونت مل سکتی ہے۔ 8 فروری کو ہونے والا شمس کا وبال جہاں آپ کے ظاہری و باطنی دشمنوں پر بھاری پڑے گا وہیں آپ کی صحت کو بھی متاثر کرے گا یکم مریخ کو طالع کیرتیر کا حاکم ہبوط پذیر ہوگا اس تاریخ پر خصوصاً توجہ رکھیں۔ اپنے کاروبار، نوکری یا مستقبل کے حوالے سے آپ سے کوئی غلط فیصلہ یا تحریر ہو سکتی ہے جو آپ کیلئے خاصی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ 18 اپریل کا شرف شمس آپ کے خلاف خفیہ سازشوں کو ہوا دے گا محتاط رہیں آپ کے وراثت کے معاملات بہتری کی طرف مائل ہو گئے 18 اپریل کو دوسرے نائوں کا حاکم شریف ہونے سے آپ کے مالی معاملات میں بہتری آئے گی آپ کا ازدواجی معاملہ جو کہ مشتری کی پوزیشن کی وجہ سے متاثر تھا انشاء اللہ اس میں بہتری آئے گی۔ 4-6 جون نائوں کا وبال آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دے گا آپ کا کوئی عزیز آپ کے لئے شدید دشمنی دباؤ کا باعث ہوگا 27 جون کو خانہ مال کا حاکم کیرتیر کے گھر اندر پڑے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن میں استحکام پیدا کرے گا۔ اس عرصہ میں کاروباری مقاصد کے تحت بیرون ملک سفر اختیار کرنا بہترین ثمرات کا حامل ہوگا۔ 11 جولائی کا اوج شمس آپ کی خواہشات کی تکمیل کا مظہر ہے دوستوں اور چچا یا تایا کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا 12 ستمبر کو ہونے والا ہبوط زہرہ آپ کے سماجی وقار کو مجروح کر سکتا ہے اپنے مالی اور مذہبی امور کو احتیاط سے انجام دیں ان ایام میں بیرون ملک سفر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا لین دین نہ کریں۔ 14-16 ستمبر مریخ گیارہویں ہبوط پذیر ہوگا عزیز واقارب کی وجہ سے دوستوں سے اختلاف سے گریز کریں شراکت داری میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ 17 ستمبر کو کیرتیر کا حاکم ستارہ عطار جو کہ آپ کے برج کا بھی حاکم ہے طالع میں شریف ہوگا۔ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا کاروبار میں متوقع طور پر اضافہ ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے۔ 11 اکتوبر کو بارہویں کا حاکم خانہ مال میں ہبوط پذیر ہونے سے خفیہ دشمنوں کی وجہ سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے 12-20 اکتوبر پانچویں جھے کا حاکم خانہ مال میں بین شرفی درجات سے گزرتے ہوئے آپ کی اضافی آمدن کے اسباب پیدا کرے گا۔ متوقع

انگی سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**صحت:** آپ کے بیت الصحت کا حاکم مشتری 22 جنوری تا 4 جون حنیض میں رہتے ہوئے آپکی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے آپکو پاؤں جگر اور مادہ تولید کے علاوہ نوذی پوائزنگ کی شکایت ہو سکتی ہے بعد از جون مشتری کے اگلے برج چلے جانے سے اگرچہ حالات میں بہتری آئے گی مگر 30 اگست تا 26 دسمبر صحت مشتری کی وجہ سے آپکی صحت ایک بار پھر متاثر ہو سکتی ہے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں ورنہ ڈپریشن کی وجہ سے آپکو صحت سے متعلقہ مختلف مسائل کا سامنا ہوگا۔

**سامانی تعلقات:** جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے زحل تمام سال آپکے طالع میں رہتے ہوئے آپکی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث ہوگا مگر دیگر سیارگان آپکی شخصیت اور تعلقات پر کیا اثرات مرتب کریں گے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 22 جنوری سے بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ مشتری بحالت حنیض رہتے ہوئے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے اگرچہ اسی دوران 27 مارچ تا 21 اپریل طالع کا حاکم زہرہ شرفی برج میں رہتے ہوئے آپکے مورال اور توقیر میں اضافہ کا باعث ہوگا مگر 4 جون تک مشتری کی پوزیشن بہر حال آپکی سامانی تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔ 21 اپریل تا 16 مئی آپکا حاکم ستارہ زہرہ وبال یافتہ رہے گا۔ اس دوران گفتگو اور سامانی تقریبات میں خصوصاً احتیاط کریں آپکی شخصیت کسی الزام کی زد میں آسکتی ہے۔ 9 جون تا 4 جولائی آپکا ستارہ مردوخ پر ہوگا آپ مذہبی تقریبات میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ سسرالی عزیز و اقارب کی جانب سے مفقہ تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ 22 اگست تا 15 ستمبر زہرہ کا ہبوط ہونے سے آپ پر قنوطیت طاری ہو رہی ہے گوکہ آپکے خفیہ دشمنوں کو کامیابی نہ ہوگی مگر ان ایام میں انکی جانب سے محتاط رہیں اسی دوران 30 اگست تا 26 دسمبر مشتری کی رجعت ایک بار پھر عزیز و اقارب کیساتھ کشیدگی پیدا کر رہی ہے محتاط رہیں آپکا سامانی وقار مجروح ہو سکتا ہے بالخصوص 2 تا 26 نومبر کسی بھی قسم کی تکرار سے گریز کریں۔

**تعلیمی کیے میرزا:** ابتدائی تعلیمات یعنی میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے والے میزبان بچوں کو اس سال بوجہ اثرات مشتری جون تا ستمبر کے علاوہ تقریباً تمام سال مشکلات کا سامنا ہوگا اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے میزبان افراد کو 16 مئی تا 3 جون ، 26 ستمبر تا 13 اکتوبر بالعموم اور 22 فروری تا 9 مارچ بالخصوص مشکل حالات کا سامنا ہوگا ان ایام میں تعلیمی حوالے سے کسی بھی جذباتی فیصلے سے گریز کریں۔

**شرائقی و ازدواجی تعلقات:** یکم 16 جنوری آپکے شراقتی ازدواجی معاملات اپنے عروج پر ہونگے مگر 16 کے بعد آپکے بیت الذوج کا حاکم مریخ 23 فروری تک بحالت حنیض اور 2 اپریل تک حالت طرح میں رہتے ہوئے آپکے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے دوسری طرف 22 جنوری تا 4 جون مشتری کی آپکے بیت الذوج میں موجودگی بھی حالات میں ابتری کا باعث ہوگی آپکا کوئی قریبی عزیز آپکے

تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ 2 اپریل تا 11 مئی بیت الذوج کے حاکم مریخ کے اپنے گھر موجودگی آپکو ان معاملات میں سنبھلنے کا موقع فراہم کرے گی بعد از 11 مئی تا 3 اگست گوکہ مریخ منفی پوزیشن ہی میں ہوگا مگر حالات پھر بھی قابو میں ہونگے البتہ 13 اگست تا 19 ستمبر مریخ کے ہبوطی گھر ہونے سے آپکے شراقتی ازدواجی تعلقات آپکے قابو سے باہر ہونگے اگر آپ نے اعتدال سے کام نہ لیا تو آپکے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے ان ایام میں کسی بھی قسم کی نئی شراکت داری سے گریز کریں۔ 19 ستمبر تا 11 نومبر آپکے شراقتی ازدواجی معاملات میں بہتری آئے گی یہ وقت گذشتہ خرابیوں کا ازالہ کرنے کیلئے بہترین وقت ہوگا آپکو نئی شراکت داری کی آفر ہو سکتی ہے مجموعی طور پر اس سال آپکے شراقتی ازدواجی تعلقات آپکے لیے مسائل کا باعث ہونگے محتاط رہیں۔

**اولاد و انعامی بانڈ لائٹری:** سال 2011ء بچوں کے حوالے سے مجموعی طور پر آپکے لئے خاصہ موافق ثابت ہوگا و ہوا میزبان افراد جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں اس سال انشاء اللہ کامیابی نصیب ہوگی آپکو بلند مرتبہ اولاد نصیب ہوگی البتہ حاملہ میزبان خواتین کو 26 جنوری تا 13 جون بوجہ رجعت زحل خاص احتیاط کرنا ہوگی۔ آپکے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے پہلے سے صاحب اولاد میزبان افراد کو بھی ان ایام میں بچوں کی جانب سے ضد یا قنوطیت کا سامنا ہوگا۔ انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے افراد کے لیے یہ سال کسی نعمت سے کم نہ ہوگا آپکا بذریعہ قرضہ اندازی کوئی پلاٹ یا بڑا انعام لکھنے کے قوی امکانات ہیں بالخصوص سال کے آخری چھ ماہ انتہائی سعادت وقت ہوگا۔

**منگنی و شادی:** گوکہ آپ کا حاکم ستارہ زحل سارا سال شرفی برج میں رہتے ہوئے آپکی منگنی وغیرہ کی راہ ہموار کر رہا ہے مگر 26 جنوری تا 13 جون آپکی منگنی بلاوجہ تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے یا بات بننے بنتے جگڑ سکتی ہے اکثر میزبان افراد اپنی پسند کی جگہ شادی کی کوشش کریں گے اور انکی یہ کوشش کامیاب بھی ہوگی۔ اس سال آپکو شادی کے کئی ایک بہترین مواقع میسر ہونگے جن تک آپکا کوئی قریبی عزیز آپکی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے محتاط رہیں۔ جنوری میں ساتویں کا حاکم مریخ شرفیاب ہوگا یہ شادی کیلئے ال کا سب سے بہترین وقت ہوگا اپریل میں ساتویں شرف شمس ایک بار پھر آپکے لئے موافق وقت ثابت ہوگا البتہ 11 مئی تا 3 اگست بالعموم اور 3 اگست تا 19 ستمبر نکاح و شادی جیسی تقریبات سے گریز کریں ان ایام میں طے پانے والی شادیاں اختلافات کی نذر ہو کر ختم ہو سکتی ہیں۔ 19 ستمبر تا 11 نومبر ساتویں کا حاکم مریخ عروج یافتہ ہونے سے آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی یہ وقت بھی شادی نکاح لیے انتہائی سجد ہوگا سال کا باقی عرصہ بھی آپکے موافق رہے گا۔

**سفر:** اس سال جون تک آپکو نئی سفر کی سہولت کے حوالے سے خاصی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ آپکے بننے بنائے پروگرام ملتوی ہونگے بعد از جون حالات میں قدرے بہتری آئے گی۔ بیرون ملک سفر کے خواہشمند میزبان افراد کو 22 فروری تا 9 مارچ شدید مشکلات کا سامنا ہوگا ان ایام میں ویزہ یا امیگریشن ہرگز پلائی نہ کریں ان ایام میں

پہلے سے اپلائی کئے گئے کیمبر کا فیصلہ بھی آپ کے مخالف آسکتا ہے۔ ایسے اقدامات کیلئے 9 ستمبر تا 26 ستمبر اور 13 اکتوبر تا 22 نومبر کا عرصہ سال کے بہترین ایام ہونگے۔

**معیشت، کیمبر، روزگار:**

آپ کے کیمبر روزگار کا حاکم ستارہ قمر ایک تیز رفتار ستارہ ہے جو کہ ہر ماہ شرف و بہوٹ چھپی تمام حالتوں سے گزرتے ہوئے آپ کے کیمبر پر سحد و عس اثرات مرتب کرتا ہے ہر ماہ ہونے والا قمر و عقرب اور ہر سال ہونے والے قمری گرہن آپ کے کیمبر روزگار پر بدترین اثرات مرتب کرتے ہیں ان ایام میں قمر سے منسوبہ صدقہ دے کر آپ اپنا کیمبر روزگار کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم ستارہ مرغ اسماں جنوری، اپریل اور ستمبر تا دسمبر بہترین اثرات کا حامل رہتے ہوئے آپ کی مالی پوزیشن میں استحکام کا باعث ہوگا اور 11 مئی تا 31 اگست منفی پوزیشن میں رہتے ہوئے اخراجات میں تیزی لائے گا جس سے آپ کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ 3 اگست تا 19 ستمبر خانہ مال کا حاکم عین آپ کے کیمبر کے گھر ہوگی کیفیت میں رہتے ہوئے آپ کے روزگار پر منفی اثرات مرتب کرے گا ان ایام میں کسی بھی نئے کاروبار کی ابتدا یا تبدیلی سے گریز کریں ملازم پیشہ میزبان افراد ان ایام میں جاب وغیرہ چھوڑنے یا تبدیل کرنے سے گریز کریں جلد بازی نقصان کا باعث ہوگی۔

**خصوصی احکامات:**

تمام بروج میں آپ وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کے برج میں زحل کو شرف ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہے جو کہ ہر 30 سال بعد میسر آتا ہے اور خاندان میں آپ کی عزت و توقیر میں چار چاند لگانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپرٹی، بہترین رہائش اور بچوں جیسی نعمتوں سے نوازنے کا باعث بنتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بہترین وقت سے مستفید ہو سکیں گے۔ اسماں آپ کو عزیز واقارب صحت اور کیمبر روزگار پر خصوصی توجہ دینا ہوگی ایسے اسماں ہونے والے شرف و بہوٹ۔ اوج و بال سیارگان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاسکے۔ یکم جنوری کو حوض شمس آپ کے گھریلو حالات میں گڑبڑ کی نشاندہی کر رہا ہے حالات آپ کی خواہشات کے برعکس ہونگے۔ 12، 13 جنوری کو دوسرے ساتویں کا حاکم شرفیاب ہونے سے آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہوگی آپ کو شراکت داری کی آفر خاندان کے کسی فرد کی جانب سے متوقع ہے۔ 8 فروری کو وبال شمس بچوں سے واسطہ توقعات کو شکستہ کر دے گا دوستوں سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کے اخیر زیادہ خفیہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ یکم مارچ کو بارہویں کا حاکم چھٹے گھر بہوٹ پذیر ہونے سے آپ کی صحت کو خطرات لاحق ہونگے دوسری طرف یہی بہوٹ آپ کے ظاہری باطنی دشمنوں کیلئے تباہی کا باعث ہوگا۔ 8 اپریل کو ساتویں شرف شمس آپ کی شادی کی راہ ہموار کر رہا ہے دوستوں کا پھر پور تعاون شامل حال ہوگا کسی دوست کی جانب سے شراکت داری کی آفر ہو سکتی ہے۔ 18 اپریل کو شرف زہرہ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث ہوگا شراکت داری میں مالی فائدہ کا امکان ہے وراثتی معاملات میں بھی یہ شرف آپ کو کامیابی کے قریب کر دے گا۔ 2 جون کو ہونے والا شمس گرہن آپ کے بیرون ملک سفر

میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ 6 تا 4 جون دوسرے ساتویں کا حاکم مرغ آٹھویں وبال پذیر ہونے سے شراکتی امور میں مالی نقصان کا اندیشہ ہے آپ کو ہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ 16 جون کا قمری گرہن آپ کے کیمبر روزگار کیلئے خطرناک ثابت ہوگا خلاف توقع دوستوں سے واسطہ توقعات پوری نہ ہوگی یہ گرہن آپ کے کاروباری معاملات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 27 جون کو طالع کا حاکم نادیں اوج یافتہ ہوگا آپ مذہبی شہرت حاصل کر رہے ہیں بیرون ملک سفر کی راہ ہموار ہو رہی ہے کم جولائی کو ایک بار پھر شمس گرہن کا رو بار سے منسوبہ خواہشات کو شکستہ کر دے گا دوستوں سے اختلافات سے گریز کریں۔ آپ کی خوش قسمتی کی تیغ ہو سکتی ہے۔ 17 ستمبر کو شرف عطارد ہوگا بیرون ملک سفر اور ایگریکیشن اپلائی کرنے کیلئے یہ سب سے بہتر وقت ہوگا وہ میزبان افراد جکے ایگریکیشن کیمبر الٹوا کا شکار تھے اب انشاء اللہ انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ محتاط رہیں آپ کے خلاف خفیہ دشمنی ہو سکتی ہے جس میں آپ کا کوئی سرالی عزیز ملوث ہوگا۔ 11 جولائی کا اوج شمس کیمبر کے گھر آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا نئے کاروباری معاہدوں کیلئے یہ بہترین وقت ہوگا دوستوں کا پھر پور تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 12 ستمبر کو بارہویں زہرہ کا بہوٹ شراکتی معاملات میں مالی نقصان کا باعث ہوگا وہ افراد جکے مقدمات چل رہے ہیں انہیں سزا ہو سکتی ہے محتاط رہیں۔ 14 تا 16 ستمبر مرغ آپ کے کیمبر کے گھر عین ہوگی درجعات پہ ہوگا ان ایام میں کاروباری گھمراہ یا اختلافات سے قطعی گریز کریں ملازم پیشہ افراد کو بھی خاص احتیاط سے کام لینا ہوگا ورنہ آپ کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ 11 اکتوبر کو طالع میں شمس کا بہوٹ دوستوں کی جانب سے آپ پر الزامات کو ظاہر کر رہا ہے معاملات آپ کی خواہشات کے بالکل برعکس ہونگے آپ کا وقار داؤ پر ہوگا۔ 12 تا 20 اکتوبر طالع میں زحل عین اپنے شرفی درجعات پر ہوگا جو کہ انشاء اللہ صرف آپ کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچائے گا بلکہ خاندان میں آپ کا وقار بلند کرے گا بچوں کے حوالے سے خوشخبری نصیب ہوگی آپ کی اضافی آمدنی کے اسباب بن رہے ہیں۔ 16 اکتوبر کو خانہ مال میں عطارد کا اوج آپ کے مالی معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا کسی بیرون ملک مقیم دوست کی جانب سے مالی معاونت کا حصول ممکن ہوگا۔ ویزہ، ایگریکیشن یا بیرون ملک سفر کرنے کیلئے بھی یہ وقت معاون ثابت ہوگا۔ 19 تا 21 اکتوبر مرغ کا اوج ایک بار پھر آپ کو مالی استحکام کی جانب گامزن کر دے گا نئے شراکتی معاہدے ہو سکتے ہیں دوستوں کا پھر پور تعاون حاصل رہے گا حسب خواہش شادی یا نکاح ہو سکتا ہے ایسی تقریبات کیلئے یہ بہترین وقت ہے۔ 5، 6 نومبر کو عطارد بحالت وبال تیسرے گھر ہونے سے قمری عزیز واقارب سے اختلافات ہو سکتے ہیں تکرار سے گریز کریں 25 نومبر کا شمس گرہن عزیز واقارب سے جاری اختلافات کو بڑھادے گا آپ کا کوئی دوست منفی رول پلے کر رہا ہے محتاط رہیں۔ 10 دسمبر کو نادیں قمری گرہن بیرون ملک سفر کی راہ میں رکاوٹ ہوگا بالخصوص کاروباری معاملات کیلئے ان ایام میں

حالتوں سے گزرتے ہوئے آپ کے عزت و وقار میں کمی بیشی کا باعث بنے گا اسکے علاوہ زل کے بیت القریاء کو ترجیح کی نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو انتہائی محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ 16 جنوری تک طالع کا حاکم مریخ بیت الاقرباء میں شرفی کیفیت کا حامل رہے گا قریبی عزیز و اقارب سے تعلقات بہترین چل رہے ہیں مگر یہ صورتحال زیادہ دن برقرار نہیں رہے گی۔ 26 جنوری سے زحل کی رجعت آپ کے تعلقات کو خرابی کی جانب دھکیل دے گی جون تک زحل کی رجعت آپ کے تعلقات کو متاثر کرتی رہے گی۔ 2 اپریل تا 11 مئی کو کہ آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا اگر آپ کی ظاہری مخالفتیں بڑھ جائیں گی۔ بعد ازیں تا اگست آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات خراب ہونے سے آگے قریبی و باطنی اضافہ ہوگا آپ کی جانب انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ آپ کے لئے انتہائی سخت ثابت ہوگا آپ تو طبیعت کا شکار ہو رہے ہیں لوگوں میں آپ کا بیچ تیزی سے متاثر ہوگا آپ کے ایسے اقدامات کا زلٹ بھی برا کھل رہا ہے ان ایام میں بالخصوص مذہبی شہرت کے حامل افراد کیلئے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ بعد ازاں ستمبر آپ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے دوسری جانب سے بعد ازاں جون بیت الاقرباء کا حاکم زحل مستقیم ہو چکا ہے خاندان اور عزیز و اقارب کیساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ اکتوبر میں زحل کا شرف ان تعلقات کو مزید عروج فراہم کر دے گا آپ کے سماجی تعلقات بہترین ہو جائیں گے۔

**تعلیمی کیے تیز:** عقرب بچوں کیلئے یہ سال انشاء اللہ بہترین ثابت ہوگا (بالخصوص سال کا دوسرا نصف حصہ) اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے افراد کیلئے یہ ایک ملاحظا سال ثابت ہوگا آپ کو جون اور دسمبر کے قریبی گریہن اور 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ بوجہ ہبوط مریخ آپ کے لئے خاصہ مشکل ثابت ہوگا جذباتیت سے گریز کریں۔

**شراکتی ازدواجی تعلقات:** آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات اس سال مجموعی طور پر بہتر نظر آ رہے ہیں۔ 27 تا 2 مارچ آپ کو بھگتا رہنا ہوگا 27 مارچ تا 21 اپریل آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات اپنے عروج پر ہونگے آپ کو نئے شراکتی معاہدوں کی آفر ہو سکتی ہے آپ ازدواجی تعلقات کو بھر پور انجوائے کر رہے ہیں۔ 21 اپریل تا 16 مئی آپ کے تعلقات میں غلطی پیدا ہو جائے گا ان ایام توکل اور بردباری سے گزاریں بعد از 16 مئی اچھا وقت شروع ہو رہا ہے بالخصوص 9 جون تا 4 جولائی کا عرصہ آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات میں ایک نیا نیاں پیدا کر دے گا۔ آپ نئے شراکتی منصوبوں پر غور کر رہے ہیں مگر محتاط رہیں یہ آپ کے خلاف کوئی خفیہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ 22 اگست تا 15 ستمبر کا عرصہ آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات کیلئے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا ان ایام میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ ضروری ہوگا ورنہ مابین اختلافات بڑھنے سے بات چیلجنگی تک پہنچ سکتی ہے بعد ازاں ستمبر حالات انشاء اللہ بہتر ہو جائیں گے۔

**اولاد انجالی یا نڈ لاری:** اس سال پہلے چھ ماہ بالخصوص اور آخری چھ ماہ بالخصوص بچوں کے حوالے سے آپ کے لئے مشکل ثابت ہوئے مگر مریخ کی منفی پوزیشن آپ کو بچوں


سفر سے گریز کریں اس سال ہونے والے تقریباً تمام بڑے اور اہم واقعات سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے امید ہے ان کی روشنی میں آپ اپنے معمولات کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے۔

**ولاد خاص:** روزانہ ۳۹۹ مرتبہ درز کریں بمحصول ۱۲۱۴ مرتبہ درود دیاک و لعد مکنکم فی الارض و جعلنا لکم فیہا معایش۔ (الارواء آیت 10)۔

**صدقہ:** ہر روز مشکل 9 عدد کے ایک روپے والے (کا پرے) بیکشت کسی مستحق کو دین

**برج: عقرب SCORPIO سیارہ: مریخ**

رنگ:	چٹا سرخ
عنصر:	آبی
جواہر:	کھراج، تیش، موتی
بہترین شریک حیات:	حوت، سرطان
ناموافق ساتھی:	دلو، ثور، اسد



**بیماریاں:** سرطان و ناک کی بیماریاں، بچپن، بزلہ، معدہ

دن: شگل عدد: 9 24 Oct to 22 Nov حروف: ن، ز، س، ظ

**اہم نکات:** جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گذشتہ سال سے آپ ساڑھ ہی جیسے سخت درود کا شکار ہیں یہ سال آپ کے کیلئے خاصہ سخت ثابت ہوگا دونوں بڑے ستارے زحل اور مشتری اس سال آپ کے زائچہ کے اہم ترین حصوں میں رہتے ہوئے آپ پر اثر انداز ہو رہے ہیں اگرچہ اس سال زحل شرفیاب ہوگا مگر آپ کے زائچہ کے بارہویں یعنی خفیہ دشمنی کے گھر رہتے ہوئے اور مشتری جو کہ خانہ مال کا حاکم ستارہ ہے جون تک انتہائی منفی پوزیشن کا حامل رہتے ہوئے آپ کو شدید مشکلات سے دوچار کریں گے اس سال لگنے والے 4 ششی گریہن آپ کے کیریئر کو خاصہ متاثر کریں گے باقی سیارگان شرف و ہبوط اوج و وبال میں آپ پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں اسکا جائزہ اعلیٰ سطور میں لیتے ہیں۔

**صحت:** آپ کے بیت الصحت کا حاکم ستارہ مریخ اس سال جنوری میں شرف یاب ہو کر آپ کی صحت پر انتہائی سدا اثرات مرتب کرے گا گذشتہ جاری صحت کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ 11 مئی تا 21 جون مریخ کا وبال آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار کر دے گا۔ 3 اگست تا 19 ستمبر کا عرصہ آپ کی صحت کے حوالہ سے اس سال کا اہم ترین عرصہ ہوگا آپ کو صحت کی جانب خصوصی توجہ دینا ہوگی ان ایام میں عقرب افراد کو سرجری کروانی پر سکتی ہے آپ کے قانونی معاملات بھی آپ کی صحت میں ابتری کا باعث ہونگے۔ 19 ستمبر تا 11 نومبر مریخ اوج کے گھر ہونے سے صحت کے مسائل کا خاتمہ ہوگا آپ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ مریخ کی منفی پوزیشن کے ایام میں آپ کو احتیاطی، تیزاب لوہے فولاد اور آتشیں ہتھیار، آگ وغیرہ سے محتاط رہنا ہوگا۔ عقرب افراد کو اس سال سردرد، تیز بخار، زخم اور جلنے جیسے امراض کا سامنا ہوگا۔

**سماجی تعلقات:** 2011ء آپ کے سماجی تعلقات کے حوالے سے بہت سے آثار چڑھاؤ لے کر آ رہا ہے آپ کے اپنے برج کا حاکم ستارہ مریخ اس سال کئی ایک اچھی بڑی

کے مسائل سے دوچار رکھے گی بچوں کے بیرون ملک سے متعلقہ اور مذہبی معاملات آپکی پریشانیوں کا باعث ہونگے اولاد کے خواہشمند افراد کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا پہلے سے حاملہ خواتین کو بالخصوص جون تک خاص احتیاط سے کام لینا ہوگا انعامی سکیموں میں حصہ لینے والے عقرب افراد کو اس سال مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے ایسی اسکیموں میں شمولیت سے گریز بہتر ہوگا حالات آپکے موافق نہیں ہیں۔

**منگنی ریشادی** سال 2011ء آپکی منگنی و نسبت جیسے معاملات کیلئے موافق نہ ہوگا اس سال منگنی سے گریز بہتر ہوگا بالخصوص جون تک کا عرصہ قطعی مناسب نہ ہوگا بلکہ پہلے سے طے شدہ نسبتیں بھی خطرے میں ہوگی البتہ آپکی شادی کے حوالے سے اس سال کئی ایک بہترین مواقع آپکو میسر ہونگے وہ عقرب افراد جنکی شادیاں تا حال کسی بھی وجہ سے التوا کا شکار تھیں انشاء اللہ اس سال انجام پا جائیں گی۔ 27 مارچ تا 21 اپریل، 16 مئی تا 4 جولائی اور 15 ستمبر تا 9 اکتوبر کا عرصہ بالخصوص شادی کیلئے بہترین اوقات ہونگے البتہ 2 تا 26 مارچ، 21 اپریل تا 16 مئی بالعموم اور 22 اگست تا 15 ستمبر بالخصوص ایسی تقریبات سے قطعی گریز کریں ان ایام میں کئی شادیاں بعد ازاں مشکلات کا شکار ہوگی۔

**سفر** اس سال آپکو کئی ایک نزدیکی سفر کرنے پڑ سکتے ہیں بالخصوص عزیز واقارب سے ملاقات اور سماجی تقریبات میں شمولیت کیلئے اختیار کئے گئے سفر خاصے بہتر نتائج کے حامل ہونگے البتہ جون تک سفروں میں التوا کا رجحان بھی پایا جائے گا۔ اس سال آپکو کثرت سے بیرون ملک سفر کے مواقع میسر آئیں گے آپکے بیت السفر کا حاکم قمر ہے اس لئے قمر در عقرب اور قمری گرہن کے ایام میں سفر سے قطعی گریز کریں 3 اگست تا 19 ستمبر نایاب مریخ بیوی گھر ہوگا ان ایام میں بیرون ملک سفر یا ویزہ وغیرہ اہلائی کرنے سے گریز کریں۔ گرہن کے ایام میں صدقہ اور نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی ضرور کریں تاکہ آپکے بیرون ملک سفر کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔

**معیشت، کیرئیر، روزگار** چونکہ آپ ساڑھتی سے گزر رہے ہیں اس لئے آپکے لیے اپنی معاشی صورتحالت اور روزگار کو برقرار رکھنا ایک مسئلہ ہوگا ابتدائے سال میں ہی آپکے کیرئیر کا حاکم 20 جنوری تا 19 فروری بحالت وبال ہونے سے آپکے روزگار پر اچھائی مضرا اثرات مرتب ہونگے۔ 21 مارچ سے شمس کے شرعی گھر آجانے سے صورتحال میں تیزی سے بہتری آئے گی یہ وقت نئے کاروبار کی ابتدا کیلئے بہترین ثابت ہوگا ذیل کی تیسری نظر آپکے خاندان مال اور کیرئیر کے گھر پر ہونے سے آپ پر دباؤ بہر حال برقرار رہے گا ساکارو حاتی تذکر ضرور کریں۔ 21 جون تا 23 جولائی کیرئیر کا حاکم اوج میں اور 23 جولائی تا 23 اگست اپنے گھر مضبوط ہونے سے آپکے کیرئیر روزگار پر موجود دباؤ میں کمی واقع ہوگی ملازم پیشہ عقرب افراد کو اس وقت ترقی نصیب ہو سکتی ہے آپ روزگار کی تلاش میں بیرون ملک سفر کا ارادہ کر رہے ہیں۔ 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کیرئیر کا حاکم بیوی گھر ہونے سے آپکی ملازمت، کاروبار دباؤ ہونگے ان

ایام میں جذباتیت سے گریز کریں۔ جاری منصوبہ جات ملتوی یا ختم ہو سکتے ہیں باقی عرصہ بہتر ہوگا۔

**خصوصی احکامات:** 2011ء آپکے لیے ایک ملاحظہ سال ہوگا آپکو آجھ سے بڑے دنوں طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس سال آپکے لیے سب سے بڑا چیلنج آپکے مالی بچوں اور صحت سے وابستہ معاملات ہونگے جیسا کہ آپکے علم ہے آپ ساڑھ سنی جیسے سخت دور کے پہلے حصہ سے گزر رہے ہیں لہذا آپکو انتہائی محتاط روش اختیار کرنا ہوگی یکم جنوری کو کیرئیر کا حاکم حسیض میں جانے سے روزگار کی جانب سے پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ 13، 12 جنوری طالع کا حاکم بیت الاقرباء میں شرفیاب ہونے سے عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں کیساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی مگر یہی شرف آپکے ظاہری دشمنوں کو بھی مضبوط کر دے گا۔ 8 فروری کو شمس کا وبال گذشتہ کاروباری مسائل میں مزید خرابی کا باعث ہوگا ملازم پیشہ افراد کو نوکری سے تھوڑا ہونا پڑ سکتے ہیں یکم مارچ کو پانچویں عطارد کا ہبوط بچوں سے وابستہ خواہشات کی تکلیفی آپکو شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر دے گی وراثتی مقدمات کا فیصلہ آپکے خلاف ہو سکتا ہے ان ایام میں قرضہ کی ادائیگی کیلئے کسی بھی قسم کے معاہدے یا چیک وغیرہ لکھنے سے پرہیز کریں۔ 8 اپریل کو چھٹے شمس کا شرف آپکے کیرئیر روزگار سے وابستہ مسائل کے خاتمہ کا باعث ہوگا آپ از سر نو کاروبار ترتیب دے رہے ہیں ملازم پیشہ افراد کو بہتر ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ 18 اپریل کو زہرہ کا شرف آپکی شادی کی راہ ہموار کر دے گا آپکی اضافی آمدن کی راہ ہموار ہو رہی ہے ان ایام میں آپکے فیملی سے متعلقہ افراد آپکے خلاف خفیہ سازشیں کر سکتے ہیں محتاط رہیں۔ 6 تا 4 جون کو طالع کا حاکم ساتویں وبال یافتہ ہوگا اپنے شرارتی ازدواجی معاملات پر خصوصی توجہ دیں آپکے مابین کشیدگی بڑھ رہی ہے محتاط رہیں ان ایام میں آپکی صحت کو بھی خطرات لاحق ہونگے کسی بھی قسم کی الغرض نقصان کا باعث ہوگی۔ 27 جون کا اوج زہرہ جہاں آپکے لئے شرارتی ازدواجی معاملات میں مالی فائدہ کا باعث ہوگا وہیں آپکے خفیہ دشمنوں کو بھی متحد و مضبوط بنا رہا ہے آپکو انتہائی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپکے بارہویں گھر زحل بھی شرعی کیفیت کا حامل موجود ہوگا عزیز واقارب اور خاندان کی جانب سے آپکے خلاف بھڑپو طرح آزمائی کی جائے گی۔ 11 جولائی کو کیرئیر کا حاکم نویں اوج یافتہ ہوگا آپکو بیرون ملک سے بہتر نوکری کی آفر ہو سکتی ہے یہ وقت بیرون ملک سفر یا ویزہ اہلائی کرنے کیلئے بھی بہترین ہوگا۔ 12 ستمبر کو زہرہ کا ہبوط آپکے شرارتی ازدواجی معاملات میں بگاڑ پیدا کر دے گا ان ایام کو تحمل سے گزاریں معاملات آپکی خواہشات کے بالکل برعکس ہونگے دوستوں کیساتھ اختلافات سے گریز کریں۔ یہی ہبوط آپکے خفیہ دشمنوں کیلئے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ 14-16 ستمبر کو نویں مریخ کا ہبوط ہوگا ان ایام میں بیرون ملک یا طویل سفر سے گریز کریں ورنہ آپکی صحت کو شدید خطرات لاحق ہونگے اسکے علاوہ مذہبی معاملات پر گفتگو آپکی شخصیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ 17 ستمبر کو عطارد کا

زناچہ میں خاصہ اہم کردار ادا کر رہا ہے مریخ کو اس سال شرف و ہبوط اوج و وبال چاروں کیفیات سے گزرنا پڑے گا بچوں کے علاوہ آپ کے انجیر زائچہ و شمسیاں آپ کے لیے شدید پریشانیوں کا باعث ہوں گی اسکے علاوہ باقی سیارگان اور اس سال ہونے والے کثیر تعداد میں گرہن آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کریں گے یا گلی سطوری میں ملاحظہ فرمائیے۔

**صحت:** سال کی ابتدا یعنی 16 جنوری تک آپ کی صحت بہترین نظر آ رہی ہے بعد از 16 جنوری تا 2 اپریل آپ کو وقتاً فوقتاً صحت کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ 2 اپریل سے جاری صحت کے مسائل کا خاتمہ ہوگا مگر یہ عارضی ہوگا۔ 11 مئی سے بیت الصحت کا حاکم و بال پذیر ہونے سے صحت کے مسائل ایک بار پھر برسر اٹھارے ہیں۔ آپ کو گلے اور گردن سے وابستہ امراض کا سامنا ہوگا۔ 3 اگست سے 19 ستمبر تک کا عرصہ آپ کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا آپ کی صحت کو شدید خطرات کا سامنا ہوگا ان ایام میں اسلحہ وغیرہ کے استعمال سے قطعی گریز کریں اسکے علاوہ آپ کو آتش زنی یا حادثات وغیرہ سے واسطہ پر دستا ہے کیمیکل وغیرہ سے وابستہ افراد کو بھی ان ایام میں خصوصی احتیاط کرنا ہوگی پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بعد از 19 ستمبر صحت سے متعلقہ جاری مسائل کا تیزی سے خاتمہ ہوگا آپ رو بہ صحت ہیں۔

**سماجی تعلقات:** اس سال آپ کو اپنے سماجی تعلقات کو انتہائی محتاط انداز میں بڑھانا ہوگا طالع کا حاکم مثنیٰ پوزیشن میں ہونے سے آپ کی طبیعت میں قنوطیت کا عنصر غالب ہوگا عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی مگر آپ کے اچھے اقدامات کا انجام بھی بڑا نکل سکتا ہے خود کو محتاط رکھنا بہتر ہوگا۔ دوسری طرف آپ کے پرسنل انجیر زہمی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اکثر افراد کے انجیر زاب خفیہ نہیں رہیں گے آپ کے قوار مجروح ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں سال کا پہلا نصف حصہ بالخصوص آپ کو ہر لحاظ سے محتاط انداز میں گزارنا ہوگا اسکے علاوہ شروع اگست تا وسط ستمبر آپ کی مگنی وغیرہ ٹوٹنے سے بھی آپ کے سماجی تعلقات بڑی طرح متاثر ہو سکتے ہیں سال کا باقی حصہ قدرے بہتر ہے۔

**تعلیمی کیریئر:** ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے قوس بچوں کو جون تک قدرے مشکل حالات کا سامنا ہوگا باقی سال بہترین موافق رہے گا۔ البتہ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے قوس افراد کیلئے یہ ایک ملا جلا سال ثابت ہوگا آپ کے لیے جنوری، فروری، 19 مئی، 20 جون اور 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا عرصہ مشکل ثابت ہوگا ان ایام میں دیئے گئے امتحانات کا نتیجہ آپ کی توقعات کے خلاف نکل سکتا ہے آپ روزانہ سورۃ آل عمران کی آیت ۱۲۶ ایک تسبیح پڑھیں۔

**شراکتی و ازدواجی تعلقات:** اس سال آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات طے جلتے رہیں گے۔ 22 فروری تا 9 مارچ ان معاملات میں بدگمانی اور بدگوئی سے گریز کریں مابین علیحدگی ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی افواہ پر بغیر تصدیق یقین نہ کریں نہ ہی ان ایام میں نئے شراکتی معاہدے قائم کریں ایسے معاہدے دیر پا ثابت نہ ہونگے۔ 16 مئی

شرف آپ کی خواہشات کی تکمیل کا باعث ہوگا کسی شراکتی مقدمے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ 11 اکتوبر کو کیریئر کا حاکم شمس ہبوط پذیر ہونے سے خواہشات کے برعکس نوکری سے جواب ہو سکتا ہے کاروباری معاہدوں کی منسوخ ہو سکتی ہے ان ایام میں کسی بھی نئے معاہدے سے گریز بہتر ہوگا۔ 12-20 اکتوبر بارہویں زحل کا شرف عزیز و اقارب اور خاندان سے وابستہ معاملات میں انتہائی بہتری لا رہا ہے مگر آپ کو درجہ محتاط رہنا ہوگا آپ کے خلاف خفیہ سازشوں کا بازار گرم ہوگا آپ بہتر رہائش میں منتقل ہو رہے ہیں اکثر افراد ان ایام میں رہائشی پلاٹ کے حصول میں کامیاب ہونگے (انشاء اللہ)۔ 16 اکتوبر کو طالع میں عطارد کا اوج آپ کی عزت افزائی کا باعث ہوگا دوست احباب کیساتھ تعلقات عروج پر ہونگے آپ کی کسی دیرنیہ خواہش کا حصول ممکن ہوگا۔ 19-12 اکتوبر کیریئر کے گھر مریخ کا اوج آپ کے لئے ترقی کے دروازے کھول دے گا۔ 5-6 نومبر آپ کی غلط سوچ کی وجہ سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے شراکت داری میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اپنے پارٹنر پر نظر رکھیں اس سال ہونے والے قمری گرہن آپ کے کیریئر بیرون ملک سفر اور شراکتی، وراثتی معاملات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور شمشیر گرہن کیریئر کو بالخصوص اور بہن بھائیوں کیساتھ تعلقات اور مالی معاملات میں خرابی کا باعث ہونگے ان ایام میں صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں تاکہ ممکنہ نقصانات سے محفوظ رہ سکیں۔

**وادخاص:** روزانہ بعد از نماز پنجگانہ دعائے رنج و حسرت سیارگان 9 مرتبہ ضرور درود کریں بمحہ اول و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک۔

**صدقہ:** ہر جمعرات کم از کم 300 گرام بڑے گوشت پر ہلدی مل کر جانوروں کو ڈالیں، بروز ہفتہ 800 گرام کالے ماش یا کالے پنے کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈالیں۔

## برج: قوس SAGITARIUS سیارہ: مشتری

رنگ: سفید، سبز  
منصر: آتش  
جواہر: فیروزہ، حجر القمر  
بہترین شریک حیات: حمل، اسد  
ناموافق ساتھی: حوت، جوزا، سنبلہ



بیماریاں: عرق النساء، حادثات کی جویش، ہاضمے کی خرابیاں

دن: جمعرات عدد: ۳ 23 Nov to 22 Dec حروف: ف

**اہم نکات:** سال 2011ء بنیادی طور پر آپ کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہوگا آپ کے برج کا حاکم ستارہ مشتری آپ کے بیت الاولاد میں بحالت حقیضہ جون تک شمس اثرات مرتب کرے گا دوسری جانب خانہ مال کا حاکم زحل گیارہویں شرفیاب ہونے سے مالی معاملات پر موجود باوجود ختم ہوگا۔ بارہویں پانچویں کا حاکم مریخ اس سال آپ کے

3 تا جون حالات ایک بار پھر پہلے کی طرح خرابی کی طرف گامزن ہونگے البتہ 3 تا 17 جون حالات ایک بار پھر آپ کے موافق ہونگے۔ اگرچہ اسی دوران 27 تا 3 اگست عطاردار رجعت آپ کے مابین غلط فہمیوں کو بھی بڑھا سکتا ہے مگر بہر حال آپ کے منصوبے مکمل ہونگے اور یہ سال کا بہترین وقت ہوگا۔ 26 ستمبر تا 13 اکتوبر آپ کو انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا غلط فہمیوں کو مابین جگہ نہ دیں۔ اگرچہ معاملات آپ کی حسب خواہش نہیں چل رہے بعد از 13 اکتوبر حالات ایک بار پھر موافق ہونگے اور ہیں گے۔

**اولاد النعمی بانڈ لاشری:**

اس سال آپ کو بچوں کے معاملات میں خاص دلچسپی لینا ہوگی وسط جنوری تک آپ کے بچوں سے منسوب ستارہ مریخ بہترین پوزیشن میں ہوگا مگر 22 جنوری تا 4 جون مشتری پانچویں بحالت حقیض ہوگا بچوں کے ساتھ آپ کے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں اپنی سوچ کو ثبت رکھیں اور تحمل سے یہ وقت گزاریں دوسری طرف 16 جنوری تا 2 اپریل مریخ کی منفی پوزیشن آپ کو متاثر کر رہی ہے بچوں کی عیب عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات کشیدہ ہونگے گھر کا ماحول بڑی طرح متاثر ہو رہا ہے۔ 2 اپریل تا 21 اپریل آپ کو حالات میں بہتری محسوس ہوگی مگر یہ عارضی ہوگا۔ 11 مئی تا 3 اگست بالعموم اور 3 اگست تا 19 ستمبر بالخصوص آپ کو بدترین حالات کا سامنا ہوگا آپ بچوں کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں گے بے اولاد قوس افراد کو انشاء اللہ 19 ستمبر کے بعد اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے وہ قوس خواتین جو اس سال امید سے ہیں انہیں وسط ستمبر تک اپنی صحت پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ لاپرواہی بدترین نقصان کا باعث ہوگی النعمی بانڈ کے خواہشمند افراد کیلئے آخری سہ ماہی بہتر ہوگی۔

**سفر:**

اس سال قوس افراد کو کئی ایک نزدیکی سفروں سے واسطہ رہے گا اور انشاء اللہ یہ سفر آپ کے مطلوبہ مقاصد کے حصول میں معاون ہونگے۔ 16 جنوری تا 23 فروری دوران سفر تیز رفتاری یا جھگڑے وغیرہ سے گریز کریں بیرون ملک سفر کرنے کے خواہشمند افراد کو ملی جلی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ یکم جنوری تا 1 فروری، 21 مئی تا 21 جون اور 23 ستمبر تا 23 اکتوبر بیرون ملک سفر یا ویزہ وغیرہ پلاننگی کرنے سے گریز کریں ایسے اقدامات کیلئے 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست اور 22 نومبر تا 23 ستمبر تک کا عرصہ موافق ثابت ہوگا۔ ان تواریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مسائل سے بچ سکتے ہیں۔

**منگنی وشادی:**

سال 2011ء کا زیادہ تر حصہ آپ کی منگنی وغیرہ کے لیے قطعی موزوں نہ ہوگا صرف 2 اپریل تا 11 مئی، 19 ستمبر تا آخر سال کے علاوہ باقی عرصہ آپ کی منگنی کے حوالے سے حالات آپ کے مخالف ہونگے۔ آپ کی بات بٹنے بٹنے بگڑ سکتی ہے بلکہ 3 اگست تا 19 ستمبر گزشتہ طے شدہ نہایتیں بھی خفہ میں ہوگی۔ اس سال آپ کو شادی کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے وہ احباب جنگلی شادیاں تا حال زیر التوا نہیں اس سال انشاء اللہ انجام پذیر ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے 29 مارچ، 21 مارچ، 3 تا 17 جون،

28 جولائی تا 26 ستمبر اور 13 اکتوبر تا 2 نومبر کا عرصہ اس سال شادی کیلئے بہترین اوقات ہونگے البتہ آپ کو 22 فروری تا 9 مارچ بالخصوص اور 16 مئی تا 3 جون اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر ایسی تقریبات کے انعقاد سے قطعی گریز کرنا ہوگا ان ایام میں کی گئی شادیاں دیر پانہ ہوگی۔

**مہینہ شہادت، کیرئیر، روزگار:**

گذشتہ کئی سال ستارہ زحل کی وجہ سے آپ کے کیرئیر پر شدید دباؤ رہا ہے گزشتہ سال اگست سے زحل آپ کے کیرئیر کے گھر کو چھوڑ چکا ہے اس سال حالات انشاء اللہ گزشتہ سال کی نسبت بہترین ہونگے ستارہ زحل جو کہ آپ کے خاندان مال کا بھی حاکم ہے آپ کی خواہشات کے گھر شرفیاب ہو کر آپ کی معاشی پوزیشن کو مستحکم کرے گا۔ 22 فروری تا 9 مارچ کسی بھی قسم کے نئے شرارتی معاہدے یا نئے کاروبار کی ابتداء سے قطعی گریز کریں۔ 9 مارچ تا 16 مئی آپ اضافی آمدن کے لئے نئی کاروباری لائنوں پر کام کر رہے ہیں اسی طرح 17 تا 3 جون شرارتی کاروبار کے حوالے بہترین وقت ہوگا اسی طرح 13 اکتوبر تا 2 نومبر بھی آپ کو کاروبار کی آفر ہو سکتی ہے مگر محتاط رہیں یہ آپ کے خلاف کوئی خفیہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس سال آپ کو 16 مئی تا 3 جون، 26 ستمبر تا 13 اکتوبر اور عطاردار رجعت کے ایام میں کاروباری تحریری یا ذاتی معاہدوں سے گریز کریں یہ ایام آپ کے لیے مناسب نہ ہونگے آپ کی گفتگو یا تحریر آپ کے لئے مسائل کا باعث ہوگی۔

**خصوصی احکامات:**

سال 2011ء آپ کے لیے طے جملے اثرات کا حامل ہوگا ستارہ زحل جو کہ آپ کے خاندان مال اور بیت القرباء کا حاکم ہے آپ کے زائچہ کے گیارہویں گھر شرفیاب ہونے سے عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں کے تعلقات کے علاوہ آپ کی معاشی پوزیشن میں بہتری کا باعث ہوگا دوسری طرف طالع کا حاکم مشتری بحالت حقیض ہونے سے خاندان اور گھریلو معاملات میں اتہری پیدا کر دیگا۔ اس سال آپ کے سماجی تعلقات بری طرح متاثر ہونگے آپ کے مثبت اقدامات بھی آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہونگے۔ یکم جنوری کو خاندان مال میں شہی کو حقیض آپ کی مالی مشکلات میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ ان ایام میں ویزہ یا امیگریشن کیلئے کسی کورپے نہ دیں۔ 12 تا 13 جنوری خاندان مال میں مریخ کا شرف جاری مالی مسائل کا خاتمہ کا باعث ہوگا۔ بیرون ملک مقیم کوئی دوست یا عزیز آپ کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ 8 فروری کو شمس کا دباؤ آپ کے بیرون ملک سفر میں التوا یا تاخیر کا باعث ہوگا۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز اس معاملے میں منفی کردار ادا کر رہا ہے۔ یکم مارچ کو عطاردار کا ہبوط خاندان میں والدہ یا خاندان کیساتھ اختلافات کا باعث بنے گا۔ کسی بھی قسم کی بحث و تکرار سے گریز کریں ان ایام میں اپنے کاروباری معاملات پر خصوصی توجہ دیں۔ ملازم پیشہ قوس افراد کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ 8 اپریل کا شرف شمس آپ کے بیرون ملک سفر کی راہ ہموار کر رہا ہے ویزہ پلاننگی کرنے کیلئے یہ بہترین ایام ہونگے۔ بچوں کی جانب سے خوشی مل سکتی ہے۔ 18 اپریل کا

## برج: جدی CAPRICORN سیارہ: زحل

رنگ: سرخ، جمود، خاک  
 عنصر: خاکی  
 جواہر: سیدرنگ سلیمانی، یاقوت  
 بہترین شریک حیات: ثور، سنبلہ  
 ناموافق ساتھی: حمل، سرطان، میزان



بیماریاں: دانتوں کی بیماریاں، اعصابی تازہ مردود، نظام ہضم

دن: ہفتہ عدد: ۸ 23 Dec to 20 Jan حروف: ج، ہ، گ

**اہم نکات:** اس سال آپ کا ستارہ عروج پر ہے یہ وقت 30 سال بعد آتا ہے وہ افراد جو کسی بھی طرح زحل سے نسبت رکھتے ہیں انکے لیے ایسے مسائل کا ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے اسی طرح آسائش کا دورانیہ بھی طویل ہوتا ہے اور گذشتہ اگست سے یہ وقت شروع ہو چکا ہے آسمانی کونسل کا دوسرا بڑا ستارہ مشتری جو کہ آپ کے بارہویں، تیسرے کا حاکم ہے اس سال کا زیادہ عرصہ منفی پوزیشن کا حامل رہتے ہوئے جہاں آپ کے خفیہ دشمنوں کو زیر کرنے کا باعث ہوگا وہیں عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات بگاڑ دے گا۔ اس سال ہونے والے گرہن آپ کے زائچہ کے اہم ترین حصوں کو متاثر کریں گے اسکے علاوہ باقی سیارگان شمس و قمر، عطارد، زہرہ اور مریخ مختلف فلکی مراتب سے گزرتے ہوئے آپ کی ذات پر کیا اثرات مرتب کریں گے یہ اگلی سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔

**صحت:** آپ کی صحت کا حاکم ایک تیز رفتار ستارہ عطارد ہے جو کہ انتہائی تیزی سے سعد و خس اثرات مرتب کرتا ہے اس سال آپ کو 22 فروری تا 9 مارچ اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر بالخصوص اور 16 مئی تا 3 جون بالعموم اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو دمہ، بازوؤں، کندھوں اور نمونہ سے متعلقہ شکایات ہو سکتی ہیں اسکے علاوہ آپ کو دوران ذرا نیونگ تیزی سے قطعی گریز کرنا ہوگا ورنہ حادثہ کے قوی امکانات ہونگے پروردگار آپ کو اپنی امان میں رکھے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نقصان دہ ہوگی۔

**سامی تعلقات:** گذشتہ ٹی سال سے زحل کی منفی پوزیشن نے اور گذشتہ سال طالع میں راہو کی موجودگی نے آپ کی شخصیت کو بری طرح متاثر کیا ہے آپ کے اچھے اقدامات کے نتیجے بھی آپ کے حق میں الٹا نکلا ہے جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے اس سال آپ کا ستارہ عروج پر ہونے سے آپ کا وقار بلند ہوگا مگر ابھی آپ کا امتحان ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ کے بیت الاقرباء کا حاکم مشتری آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر وسط سال تک بحالت حقیض ہوگا مشتری کی یہ پوزیشن خاندان اور عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات کو بری طرح متاثر کرے گی جس سے آپ کا سامی وقار متاثر ہو سکتا ہے۔ 30 اگست تا 26 ستمبر مشتری کی رجعت ایک بار پھر آپ کو متاثر کر رہی ہے احتیاط سے کام لیں۔ باقی سال انشاء اللہ بہتر گزرے گا۔

**شرکتی و ازدواجی تعلقات:** آپ کے ازدواجی شرکتی معاملات کا حاکم ستارہ قمر

شریف زہرہ خاندان سے کشیدگی میں کمی کا باعث ہوگا آپ حسب خواہش گھر کی تبدیلی یا تین و آرائش میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ 4 تا 6 جون چھ مریخ کا وبال آپ کو صحت کے مسائل سے دوچار کر دے گا بچوں کی جانب سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے دوسری طرف یہی وبال آپ کے ظاہری باطنی دشمنوں کیلئے مسائل کا باعث بنے گا۔ 27 جون کو ساتویں زہرہ کا اوج جہاں آپ کے ظاہری دشمنوں کو مضبوط کر رہا ہے وہیں آپ کے حسب خواہش رشتہ ازدواج کے حصول کو بھی ممکن بنا رہا ہے۔ 11 جولائی کو شمس اوج پذیر ہو کر شرکتی معاملات میں مالی فائدہ کا باعث ہوگا وراثتی مقدمات کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو سکتا ہے آپ ایک بار پھر بیرون ملک سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ 12 ستمبر کو زہرہ کا ہبوط آپ کے کیریئر و روزگار پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ مخالفین کی ریشہ و دینوں کی وجہ سے آپ کی نوکری چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کا کوئی دوست آپ کی شدید مخالفت پر کمر بستہ ہے محتاط رہیں 14 تا 16 ستمبر آٹھویں مریخ کا ہبوط شرکتی معاملات میں مالی نقصان کا باعث ہوگا آپ بچوں کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ 17 ستمبر کو کیرئیر کے گھر عطارد کا شرف آپ کے لیے نئے کاروبار کی راہیں کھول دے گا۔ آپ گذشتہ کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں ملازم پیشہ افراد کیلئے ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ 11 اکتوبر شمس کا ہبوط آپ کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا۔ غیر متوقع طور پر بیرون ملک سفر کھٹائی کا باعث ہوگا اس سلسلہ میں دوستوں کا بھرپور تعاون میسر رہے گا۔ 16 اکتوبر اگرچہ آپ کے کیریئر کا حاکم اوج پذیر ہوگا مگر زائچہ کے بارہویں گھر اس کا اوج آپ کے خلاف شرکتی کاروباری معاملات کے حوالے سے خفیہ سازشوں کے دروازے کھول دیگا محتاط رہیں۔ اینگریشن پلانی کرنے کیلئے یہ ایک بہترین وقت ہوگا۔ 19 تا 21 اکتوبر مریخ کا اوج آپ کے خلاف سازشوں میں مشغول خفیہ دشمنوں کو اور مضبوط کر دیگا۔ یہ وقت بیرون ملک سفر کیلئے انتہائی مناسب ہوگا۔ آپ انجیر ز وغیرہ میں انوار ہو رہے ہیں۔ 5 تا 6 نومبر کو طالع میں عطارد کا وبال آپ میں چڑچڑاہٹ اور خود پسندی کو ابھار دے گا۔ آپ کے بارے میں انوار نہیں پھیلنے سے آپ کی شخصی وقار مجروح کر سکتا ہے۔ اس سال ہونے والے شمسی گرہن آپ کے مذہبی، مالی، ازدواجی اور وراثتی معاملات کو متاثر کر رہے ہیں اور قمری گرہن آپ کے وراثتی ازدواجی اور شرکت سے منسوب مالی معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ گرہن کے ایام میں صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں تاکہ ان کے خس اثرات سے محفوظ رہ سکیں اس سال پیش آنیوالے اہم واقعات سے آپ کو تقریباً آگاہ کر دیا گیا ہے امید کرتا ہوں انکے مد نظر آپ مسائل سے محفوظ رہ سکیں گے۔

**روح خاص:** حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ روزانہ

بعد از نماز فجر ۳۵ مرتبہ ورد کریں بمعہ اول و آخر 11-11 مرتبہ ورد کرنا۔

**صدقہ:** بروز جمعرات 300 گرام بڑے گوشت پر ہلدی ملا کر ویرانے میں

ڈالیں۔



ایک تیز رفتار ستارہ ہونے کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں نہایت سرعت سے تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ جہاں تفرک کو ایک ماہ میں چار بہتر مراتب میسر آتے ہیں وہیں چار منفی تیزیوں سے بھی گزرتا پڑتا ہے جو آپ کے شرکی ازدواجی معاملات میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتا ہے اسماں ہونے والے قمری گرہن جو کہ بالترتیب 16 جون اور 10 دسمبر کو ہو رہے ہیں یہ آپ کے ازدواجی و شرکی معاملات کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں ان ایام میں صدقہ اونماژ کسوف و خسوف ضرور ادا کریں تاکہ اگلے اثرات سے محفوظ رہ سکیں اسکے علاوہ اسماں آپ کے بیت الذود میں 3 اگست 19 تا 29 ستمبر مرخصی کی ہوگی کیفیت آپ کے معاملات میں تیزی سے بگاڑ پیدا کر دے گی ان ایام میں اپنے مزاج کو قابو میں رکھیں جلد بازی تا قابل طمانی نقصان کا باعث ہوگی اگر آپ نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو مابین علیحدگی ہو سکتی ہے اسکے علاوہ قمری عقرب کے دوران صدقہ ضرور ادا کریں تاکہ منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔

**تعلیمی کیریئر:** اسماں ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے جدی بچوں کو خاصی دشواریوں کا سامنا ہوگا آپکو اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی جانب سے مشکلات پیش آئیں گی۔ اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے جدی افراد جو کہ گذشتہ کئی سال سے دخل کی پوزیشن کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اسماں انشاء اللہ بہتری محسوس کریں گے پھر بھی سال کے کچھ اوقات آپکو مشکلات کا سامنا ہوگا آپکو 22 فروری 9 تا 9 مارچ، 16 مئی تا 3 جون اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر منفی دباؤ اور ارکان کی کمی کا سامنا ہوگا۔

**اولاد انعامی بانڈ لائٹری:** گذشتہ سال کی طرح اسماں بھی آپکو طے جلے حالات کا سامنا ہوگا۔ 27 تا 2 مارچ زہرہ کی منفی پوزیشن آپکو بچوں کی جانب سے پریشان رکھے گی وہ جدی افراد جو تا حال نعمت اولاد سے محروم ہیں انشاء اللہ 27 مارچ 21 تا اپریل خوشخبری نصیب ہو سکتی ہے پہلے سے صاحب اولاد جدی افراد کو بھی بچوں کی جانب سے راحت میسر آئے گی۔ 21 اپریل تا 16 مئی بچوں کی وجہ سے گھر کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے آپکی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ 16 مئی تا 22 اگست تک کا عرصہ بچوں کے حوالے سے بہترین ثابت ہوگا انشاء اللہ آپ قلبی سکون محسوس کریں گے البتہ 22 اگست 15 تا ستمبر کا عرصہ آپکے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا آپکو بچوں کے بچوں یا ان کے انہماج کے حوالے سے پریشانیوں کا سامنا ہوگا آپکے بچے ہندو شادی پر بعد نظر آ رہے ہیں۔ 26 تا 2 نومبر کا عرصہ بھی آپکے بچوں کے حوالے سے مشکل ثابت ہوگا انعامی بانڈ لائٹری وغیرہ کے خواہشمند افراد کیلئے اسماں کئی ایک مواقع ہو گئے مگر صحیح وقت کا انتخاب ضروری ہوگا آپکا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔

**منگنی و شادی:** اسماں آپکو منگنی شادی کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے منگنی کے حوالے سے آپکو اچھے بڑے دونوں طرح کے حالات کا سامنا ہوگا۔ 27 تا 2 مارچ،

نہیں بھی خطرے میں ہوگی بالخصوص اپریل، مئی اور اگست ستمبر کا عرصہ قطعی موافق نہ ہوگا۔ ایسی تقریبات کے انعقاد کیلئے بتائے گئے عرصہ کے علاوہ گو کہ کئی ایک مواقع میسر ہو گئے مگر 27 مارچ 21 تا اپریل اور 9 جون تا 4 جولائی کا عرصہ آپکے لئے موافق ترین وقت ہوگا اسماں آپکو شادی کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے البتہ آپکو قمری عقرب اور قمری گرہن جو کہ 16 جون اور 10 دسمبر کو لگ رہے ہیں ان ایام میں نکاح و شادی وغیرہ سے قطعی گریز کریں۔

**اسماں:** اسماں کو کہ آپکو زندگی سرفروں سے واسطہ رہے گا مگر آپکو ان سرفروں سے مطلوبہ نتائج کا حصول مشکل ہوگا بالخصوص سال کا پہلا وسط آپکے لئے خاصہ مشکل ثابت ہوگا بیرون ملک سفر کے خواہشمند جدی افراد کو گذشتہ کئی سال سے بیرون ملک کیلئے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اسماں انشاء اللہ آپکی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل ممکن ہوگی مگر ویزہ اپلائی کرنے کیلئے درست وقت کا انتخاب ضروری ہوگا اسماں 9 مارچ تا 16 مئی آپکے سفر کی راہ ہموار ہوگی مگر اس دوران نقلی دستاویزات کے ساتھ سفر کرنے یا ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں۔ 3 تا 17 جون، 28 جولائی تا 9 ستمبر اور 13 اکتوبر تا 2 نومبر آپکے لیے بیرون ملک سفر یا ویزہ اپلائی کرنے کا بہترین وقت ہوگا البتہ 22 فروری 9 تا 9 مارچ، 16 مئی 3 تا جون، 26 ستمبر 13 تا اکتوبر ایسی کسی بھی کوشش سے گریز کریں وگرنہ سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

**معیشت، کیریئر، روزگار:** 2011ء آپکے کیریئر کے حوالے سے ایک بہترین سال ثابت ہوگا آپکے کیریئر کے گھر خانہ مال کا حاکم و صل شرفیاب ہوگا آپکے لیے ترقی کی راہیں کھل جائیں گی۔ اسماں طویل دورانی کی منصوبہ بندی بہتر ہوگی ملازم پیشہ افراد کو بھی ترقی نصیب ہوگی۔ آپکے کیریئر کا حاکم ستارہ زہرہ ایک سال میں اچھی بڑی تمام حالتوں سے گزر جاتا ہے۔ اسماں 27 مارچ 21 تا اپریل کا عرصہ آپکے لئے بھلا شرف زہرہ ایک آئیڈیل وقت ہوگا اسی طرح 16 مئی تا 22 اگست کا عرصہ بھی آپکے لیے خاصہ موزوں ثابت ہوگا۔ اسماں 21 اپریل 16 مئی، 22 اگست 15 تا ستمبر اور 2 نومبر 26 تا نومبر کو کہ زہرہ منفی پوزیشن میں ہوگا مگر صل کی شرف کیفیت زہرہ کے منفی اثرات کو کافی حد تک دبانے کی بہر حال ان ایام میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا بہتر ہوگا۔ انشاء اللہ یہ سال آپکی زندگی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔

**خصوصی احکامات:** مجموعی طور پر سال 2011ء آپکے لیے ایک بہترین سال ثابت ہوگا آپکے خانہ مال کا حاکم و صل کیریئر کے گھر شرفیاب ہو کر آپ کے کیریئر کو چار چاند لگا دے گا آپ معاشی استحکام کی جانب گامزن ہیں اسماں آپکو سب سے زیادہ خانگی اور عزیز واقارب بہن بھائیوں کے مسائل سے واسطہ رہے گا یکم جنوری کو طالع میں شمس کا ہیبوط آپکی شخصیت کو متاثر کر رہا ہے آپکے قانونی اور شرکی مالی معاملات آپکے ذہنی دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں 12 تا 13 جنوری طالع میں مرخصی کا شرف آپکی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث ہوگا پراپٹی کی خرید و فروخت اور نئے گھر میں

وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں یہ وقت قطعی مناسب نہیں ہے آپکے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ آسکتا ہے۔ آپکو امسال ہونے والے کثیر الاقدار گرنہوں کے ایام میں خاص احتیاط سے کام لینا ہوگا امسال ہونے والے گرنہن آپکی صحت، عزت، ازدواجی شراکتی مالی معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں ان ایام میں نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں۔ پروردگار آپکا حامی و ناصر ہو۔

**لوح خاص:** روزانہ بعد از نماز فجر سورۃ توبہ آیت ۲۹ درد کریں ۱۹۲ مرتبہ بمعادل و آخر 11-11 مرتبہ درود پاک۔

**صدقہ:** بروز بدھ 500 گرام موگ ثابت کسی مستحق کو دیں۔ بروز جمعرات 300 گرام گوشت بڑا جانوروں یا بچروں کو ڈالیں۔

## برج: دلو AQUARIUS سیارہ: یورینس

رنگ:	خاکی، بھورا، نیلا
منصور:	ہوا
جواہر:	نیلیم، حدید، عقیقہ سیاہ
بہترین شریک حیات:	جزائیر، جزیران
ناموافق ساتھی:	ڈور، اسد، عقرب



بیماریاں: آنسو کی بیماریاں، احتلاخ قلب، دمہ

دن: ہفتہ عدد: ۸ 21 Jan to 19 Feb حروف: س، ش، ص، ہ

**اہم نکات:** 2011ء آپکے لئے ایک تیز رفتار اور مشکل سال ثابت ہوگا گوکہ آپکے طالع کا حاکم زحل امسال شریفاب ہونے سے آپکی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا مگر یہی زحل آپکے زائچہ کے بارہویں گھر (جو کہ خفیہ دشمنی کا گھر ہے) کا بھی حاکم ہے اس طرح سارا سال آپکے خلاف خفیہ سازشیں عروج پر ہونگی دوسری طرف دوسرے گمبارہویں کا حاکم مشتری بیت الاقرباء میں جو کہ منفی پوزیشن کا حامل ہونے سے آپکی خواہش، مالی امور اور عزیز واقارب سے تعلقات کجیاب سے آپکو مسائل کا سامنا ہوگا آپکے کیرئیر اور بیت الاقرباء کا حاکم مریخ امسال شرف و ہبوط اور اوج و وبال جیسی چاروں کیفیات سے گزرتے ہوئے منسوبہ معاملات میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کا باعث ہوگا باقی سیارگان اور شمس و قمر کے گرنہن امسال آپ پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں یہ اگلی سطور میں پڑھیں۔

**صحت:** دل وافراد کو اپنی صحت پر بالخصوص توجہ دینی چاہیے آپکی صحت کا حاکم ستارہ قمر ہر ماہ چار منفی اور چار مثبت حالتوں سے گزرتے ہیں آپکی صحت پر اچھے بڑے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے جہاں آپ بہت جلد متاثر ہوتے ہیں وہیں جلد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں امسال 16 جون اور 10 دسمبر کے قمری گرنہن اور 3 اگست تا 19 ستمبر جبکہ مرن کو آپکے بیت الصحت میں ہبوط ہوگا آپکو صحت کے مسائل کا سامنا ہوگا گرنہن کے ایام میں صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں اور مریخ کے ہبوط

شفت ہونے کیلئے یہ ایک بہترین وقت ہے 8 فروری کو ہونے والا شمس کا وہاں شراکتی ازدواجی معاملات اور وراثتی معاملات میں مالی نقصان کا باعث ہوگا۔ کیم مارچ کو تیسرے گھر عطارد کا ہبوط عزیز واقارب بالخصوص بہن بھائیوں کیساتھ تعلقات کو کشیدہ کر دے گا ملازم پیشہ افراد کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑھ سکتے ہیں ان ایام میں بیرون ملک سفر یا دوزیہ وغیرہ اپلائی کرنے سے قطعی گریز کریں۔ 18 اپریل کا شرف شمس والدہ کجیاب سے آسودگی فراہم کر رہا ہے آپکے لیے وراثتی پر اپرٹی کا حصول ممکن ہوگا شراکتی مالی فائدہ ممکن ہوگا۔ 18 اپریل کو زہرہ کا شرف عزیز واقارب سے جاری کشیدگی کو ختم کر دے گا اس میں آپکا کوئی دوست یا بچہ پھر پور کر دے گا اور اگر رہے ہیں یہ وقت آمدنی میں اضافہ کیلئے نئے کاروباری معاہدوں اور کاروبار کو وسعت دینے کیلئے سال کا بہترین وقت ہوگا۔ 6 تا 4 جون خاندان والد اور بچوں کجیاب سے مشکلات کا سامنا ہوگا دوستوں کے ساتھ اختلافات سے گریز کریں آپکی خواہشات آپکے لیے مسائل کا باعث ہوگی 27 جون کا اوج زہرہ ایک بار پھر آپکے کاروبار پر انتہائی سدا اثرات مرتب کر رہا ہے ملازم پیشہ افراد کو بہتر ملازمت یا ترقی مل سکتی ہے 11 جولائی کا اوج شمس آپکی ازدواجی زندگی پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کر رہا ہے شریک حیات کجیاب سے مالی معاونت ہو سکتی ہے نئے شراکت داری کیلئے یہ بہترین وقت ہوگا۔ 12 ستمبر کو زہرہ کا ہبوط کاروباری مشکلات کا باعث ہوگا وہ افراد جو کاروباری مقاصد کے حصول کیلئے بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں انھیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ ان ایام میں آپکو بچوں کجیاب سے مشکلات کا سامنا ہوگا آپکے فہم زرا آپکے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ 14 تا 16 ستمبر بیت الذونج میں مریخ کا ہبوط آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات کی تیزی بگاڑ کجیاب لے جائے گا آپکا کوئی دوست یا خاندان کا کوئی فرد آپکے معاملے میں رخنہ اندازی کر رہا ہے۔ 17 ستمبر کو عطارد کا شرف آپکے بیرون ملک سفر کی راہ ہموار کر رہا ہے آپکو بیرون ملک سے بہترین ملازمت کی آفر ہو سکتی ہے۔ 11 اکتوبر کو کیرئیر کے گھر شمس کا ہبوط آپکے کاروباری مفادات کیلئے نقصان کا باعث ہوگا گوکہ 12 تا 20 زحل بھی کیرئیر کے گھر شریفاب ہوگا مگر چونکہ شمس بادشاہ فلک ہونے کیوجہ سے تمام سیارگان پر حاوی ہو جاتا ہے اسلئے ایام میں آپکو حد درجہ احتیاط سے کام لینا ہوگا ان ایام میں کسی بھی نئے کاروباری معاہدے یا تبدیلی سے گریز کریں۔ 16 اکتوبر کو عطارد کا اوج حسب خواہش ملازمت کے حصول کو ممکن کر دے گا آپ بیرون ملک سفر کی تیاری کر رہے ہیں جس میں آپکا کوئی دوست معاون ہوگا۔ 19 تا 21 اکتوبر مریخ کا اوج آپکے لیے خاندانی وراثت کا حصول ممکن ہوگا دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی حسب خواہش کسی بہتر اور بڑے گھر کا حصول ممکن ہوگا یہ وقت پر اپرٹی کی خرید و فروخت کیلئے بھی بہترین وقت ہے۔ 5 تا 6 نومبر کو بارہویں عطارد کا وہاں آپکے ظاہری باطنی دشمنوں کیلئے وبال ثابت ہوگا ان تواریخ میں بیرون ملک ویزہ یا انگریزیشن

کے ایام میں آفتیں ہتھیاروں، کیمیکلز، آگ، زخم اور تیز بخار وغیرہ سے خصوصی احتیاط کریں وگرنہ آپکو جسمی جرحی کروانی پڑسکتی ہے۔

**سماجی تعلقات:** گوکہ آپکا ستارہ زحل شرف کے گھر ہے اور آپکے وقار میں اضافہ کر رہا ہے مگر چونکہ یہ بارہویں گھر کا بھی حاکم ہے اسلئے آپکے خفیہ دشمنوں کو بھی مضبوط کر رہا ہے آپکے گیارہویں کا حاکم مشتری جون تک منفی پوزیشن کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتا رہے گا اسکے علاوہ فروری سے راہو بھی ہمیں آجانے سے حالات تیزی سے خراب ہونگے آپکے سماجی تعلقات متاثر ہونے کے واضح امکانات موجود ہیں دوسری طرف مریخ جو کہ آپکے کیریئر، روزگار اور عزیز واقارب سے منسوب ستارہ ہے 16 جنوری تا 2 اپریل منفی پوزیشن میں رہتے ہوئے عزیز واقارب اور کاروباری حلقہ احباب کیساتھ کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ 2 اپریل تا 11 مئی آپکے تعلقات میں بہتری آئے گی مگر 11 مئی تا 3 اگست کا عرصہ بالعمول اور 3 اگست تا 19 ستمبر تک کا عرصہ بالخصوص آپکے تعلقات کے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا متناظر رہیں وگرنہ بچہ اختلافات آپکا سماجی وقار بڑی طرح مجروح ہوگا بعد از 19 ستمبر آپکے تعلقات میں بہتری آئے گی مجموعی طور پر سماجی حوالے سے یہ ایک مشکل سال ہوگا۔

**تعلیمی کیریئر:** ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے والے دلوجوں کو امسال 22 اگست تا 15 ستمبر تک کافی مشکلات کا سامنا ہوگا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے دلو افراد کو امسال 22 اگست تا 15 ستمبر مشکل حالات کا سامنا ہوگا گذشتہ سال سے زحل کے سحرترین اثرات آپکے تعلیمی کیریئر میں آپکے معاون ہیں یہ پروردگار کا خاص کرم ہے اس وقت سے بھر پور فائدہ اٹھائیں تعلیمی میدان میں طویل دورانیے کی پلاننگ آپکی بہترین کامیابی میں معاون ہوگی۔

**اولاد و انجائی بائٹ لائٹری:** امسال بچوں کے حوالے سے آپکو ملے جلے حالات کا سامنا ہوگا 22 فروری تا 9 مارچ بیت الاولاد کا حاکم ہبوط پذیر ہونے سے آپکی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا آپ بچوں کے کیریئر کے حوالے سے پریشان ہیں عین ممکن ہے اس سلسلہ میں آپکو اضافی اخراجات کرنا پڑیں 16 مئی تا 3 جون کا عرصہ ایک بار پھر آپکے لیے مسائل لے کر رہا ہے آپکو بچوں کی جانب خصوصی توجہ دینا ہوگی بعد از 3 جون تا 26 ستمبر کا عرصہ بچوں کے حوالے سے آپکے لیے آسودگی لے کر آئے گا اولاد کے خواہشمند دلو افراد کو ان ایام میں خوشخبری مل سکتی ہے 26 ستمبر تا 13 اکتوبر اور 2 نومبر تا آخر سال کا عرصہ ایک بار پھر آپکو بچوں سے متعلقہ مسائل سے دوچار رکھے گا۔ انجائی بائٹ لائٹری وغیرہ کے شوقین افراد کا امسال کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے آپکے لیے جون تا ستمبر کا عرصہ بہترین وقت ہوگا۔

**شراکتی و ازدواجی تعلقات:** آپکے بیت الذونج کا حاکم کیم جنوری تا 19 فروری حقیقت اور وبال جیسی کیفیات میں رہتے ہوئے آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات کے متاثر کر رہا ہے آپکے پارٹنر کی نظر میں آپکا وقار کم ہو رہا ہے۔ 21 مارچ تا 20 ستمبر

آپکے معاملات میں تیزی سے بہتری آئے گی آپکا کوئی قریبی عزیز آپکو پارٹنر شپ کی آفر کر رہا ہے آپ ازدواجی زندگی سے پھر پور لطف اندوز ہو رہے ہیں 21 مئی تا 21 جون آپکے لیے ایک مشکل وقت ہوگا آپکے انجریز آپکی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں 21 جون سے حالات ایک بار پھر آپکے کے موافق ہونگے آپ نئی شراکت داریوں پر غور کر رہے ہیں ایسے اقدامات کیلئے یہ انتہائی مناسب وقت ہوگا البتہ 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا عرصہ آپکا انتہائی محتاط روی سے گزارنا ہوگا کیونکہ حالات آپکے قابو سے باہر ہونگے اگر آپ نے تدبیر کا مظاہرہ نہ کیا تو مابین علیحدگی ہو جائے گی۔

**منگنی و شادی:** یہ سال آپکی منگنی و شادی دونوں طرح کی تقریبات کیلئے موافق حالات لے کر آ رہا ہے مگر جہاں سال کا زیادہ عرصہ آپکے موافق ہوگا وہیں کچھ عرصہ ناموافق بھی ہوگا اور ان ایام سے گریز بہتر ہوگا۔ منگنی کیلئے 22 فروری تا 9 مارچ، 16 مئی تا 3 جون اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر کا عرصہ ناموافق ہے ہوگا ان ایام میں طے کی گئی نسبتیں غلط فہمیوں اور بھرا کر کی نظر ہوگی لہذا گریز بہتر ہوگا اسی طرح شادی کیلئے کیم جنوری تا 19 فروری، 21 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر اور سال کا آخری عشرہ قطعی مناسب وقت نہ ہوگا زندگی کے اہم ترین معاملے میں درست وقت کا انتخاب از حد ضروری ہے۔ آپکے لیے امسال 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست اور 22 نومبر تا 22 دسمبر سال کے بہترین مواقع ہونگے ان ایام میں طے کئے گئے ہندسوں انشاء اللہ بہترین ثابت ہونگے۔

**سفر:** گذشتہ سال کی طرح امسال بھی آپکو قریبی سفر اختیار کرنا پڑیں گے مگر آپکے بیت السفر میں جون تک مشتری کی منفی پوزیشن آپکی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہوگی دوران سفر اپنی رقم کو بحفاظت رکھیں وگرنہ مالی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 11 مئی تا 3 اگست جلد بازی سے گریز کریں 3 اگست تا 19 ستمبر دوران سفر جھگڑے اور تیز رفتاری سے قطعی گریز کریں وگرنہ حادثہ کا قوی امکان ہے بیرون ملک سفر کے خواہشمند افراد کیلئے یہ سال کسی نعمت سے کم نہ ہوگا آپکے زائچہ میں زحل کی شرینی کیفیت آپکے بیرون ملک سفر اور اینگریژیشن کی راہ ہموار کر رہی ہے مگر آپکو سال کے کچھ عرصہ ایسے اقدامات سے گریز کرنا بہتر ہوگا 2 تا 27 مارچ، 21 اپریل تا 16 مئی، 22 اگست تا 15 ستمبر، 2 نومبر تا 26 نومبر کا عرصہ آپکے لیے موافق نہ ہوگا ان ایام میں سفر اور ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں وگرنہ سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

**معیشت، کیریئر، روزگار:** ابتدائے سال 16 جنوری کیریئر کا حاکم شرفی گھر رہتے ہوئے آپکے کیریئر بہترین اثرات مرتب کر رہا ہے۔ مگر یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ 16 جنوری تا 23 فروری آپکا کاروبار زوال پذیر ہوگا اسی طرح 23 فروری تا 2 اپریل آپکی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا اس دوران بچہ مایوسی

ہورہے ہیں محتاط رہیں ان ایام میں آپ کی چوری ہو سکتی ہے شرابی مالی امور میں مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ 14 تا 16 ستمبر بیت الصحیح میں مرض کا ہبوط آپ کی صحت کو بڑی طرح متاثر کر رہا ہے عین ممکن ہے آپ کو سرجری کروانا پڑے ان ایام میں ملازم پیشہ افراد کو خاص احتیاط کرنا ہوگی آپ کی جذباتیت کی وجہ سے نوکری جاسکتی ہے کاروباری افراد کو بھی کاروباری مشکلات کا سامنا ہوگا۔ 17 ستمبر کو آٹھویں عطارد کا شرف ایک بار پھر بچوں کی جانب سے خوشی کا باعث ہوگا آپ کے فخر زرعون پر ہیں مشترکہ مالی معاملات میں مالی فائدہ متوقع ہے آپ کو کسی کوئی انعام نکل سکتا ہے۔ 11 اکتوبر کو نائیس شمس کا ہبوط سراسرالی عزیز واقارب کیساتھ اختلافات کو بڑھا رہا ہے جسکی وجہ آپ کے شرابی ازدواجی تعلقات ہو گئے ان ایام میں بیرون ملک سفر یا ویزہ وغیرہ اپنانی کرنے سے گریز کریں 12 تا 20 اکتوبر کو آپ کے طالع کا حاکم شرفیاب ہوگا مگر یہ اتنے فوائد کا حامل نہ ہوگا جتنا کہ ہونا چاہیے اور یہ آپ کے لیے توجہ انتہائی بہتر ہے کیونکہ یہی زحل آپ کے بیت الاعداء یعنی خفیہ دشمنوں کا بھی حاکم ستارہ ہے اسکا شرف یقیناً آپ کے لیے خاصے مسائل کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ 16 اکتوبر کو کیرتیر کے گھر عطارد کا اوج آپ کے لیے اضافی آمدن کے دروازے کھول دے گا بچوں کی جانب سے بہتر ملازمت کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ 19 تا 21 اکتوبر بیت الذوج میں مرض کا اوج آپ کے شرابی ازدواجی تعلقات میں جاری تفتیوں اور اختلافات کے خاتمے کا باعث ہوگا آپ کوئی شرارت داری کی آفر ہو سکتی ہے۔ ان ایام میں کی گئی شادیاں آپ کے کیرتیر پر انتہائی سدا اثرات مرتب کریں گی۔ 5 تا 6 نومبر عطارد کا وبال بچوں اور شرابی مالی امور میں مشکلات پیدا کر رہا ہے دوستوں سے وابستہ امیدیں پوری نہ ہونے سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسماں ہونے والے شمس قمری گزرنے آپ کی صحت ازدواجی تعلقات بچوں اور دوستوں کی جانب سے پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہو گئے صدقہ اور نماز کی ادائیگی سے ان کے صحت اثرات سے یقینی بچاؤ ممکن ہے امید ہے کہ تمام حالات کے پیش نظر آپ مشکل اوقات میں پروردگار سے دعاؤں اور صدقات کے ذریعے اپنے لیے بیشک امان حاصل کر سکیں گے۔

**ورد خاص:** روزانہ بعد از نماز فجر ۳۰ مرتبہ سورۃ یوسف آیت نمبر ۲۳ ورد کریں

بمعاول و آخر 11-11 مرتبہ درود پاک۔

**صدقہ:** بروز ہفتہ 800 گرام کالے ماش یا کالے چنے کسی مستحق کو دیں۔

## 9 صفحات کا زائچہ مفت بنوائیں

نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش، یا انداز عمر، زہرہ اور اولاد کا نام، معہ جوابی پتہ لکھیں۔

بدیہ میں ڈعادیں: آغا حسین احمد عامل آغا ہاؤس احمد پور شرقیہ نمبر 5 ضلع بہاولپور

062-2275713, 068-5036832

0300-6802983, 0331-7560412,

آپ کا روبرو تبدیل یا بند کرنے کے بارے سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اخراجات میں ایسے وقت تیزی آتی ہے جبکہ خاندان کا حاکم غنی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ بعد از 2 اپریل تا 11 مئی آپ کا روبرو ایک بار ایک بار پھر بہتری کی جانب مائل ہوگا کوئی قریبی عزیز یا بھائی بہن کا روبرو میں بہتری کیلئے آپ سے تعاون کر رہے ہیں لیکن 11 مئی تا 3 اگست ہالومور 3 اگست 19 تا ستمبر بالخصوص آپ کے کیرتیر روزگار کیلئے مشکل ترین وقت ہوگا ان ایام میں جذباتیت سے قطعی گریز کریں مگر نہ کاروباری خسارہ کا سامنا ہوگا ملازم پیشہ افراد کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں محتاط رہیں 19 ستمبر کے بعد حالات انشاء اللہ بہتری کی طرف مائل ہونگے اکثر افراد کاروبار کو سنبھالنے کیلئے شراکت داری میں کاروبار کی ابتدا کر رہے ہیں سال کا باقی عرصہ انشاء اللہ حالات بہتر رہیں گے آپ کی ترقی کی راہیں کھل چکی ہیں۔

**خصوصی احکامات:** 2011 مجموعی طور پر آپ کے لیے ایک ملاحظہ سال ثابت ہوگا

اس سال آپ کو زندگی کے تمام امور میں انتہائی محتاط روی سے چلنا ہوگا قدرت جہاں آپ کے لیے آسائشیں مہیا کر رہی ہے وہیں آپ کے امتحانات کا سلسلہ بھی جاری ہے سال کی ابتدا یعنی یکم جنوری تا 8 فروری اور 8 تا 19 فروری بیت الذوج کا حاکم بالترتیب حنیض اور وبال کا شکار ہونے سے آپ کے شرابی ازدواجی معاملات متاثر ہونگے اس حنیض سے جہاں آپ کے خفیہ دشمن مقہور ہونگے وہیں آپ کی ذات بھی زبان زد عام ہوگی۔ 12 تا 13 جنوری کو بارہویں مرض کا شرف جہاں آپ کے عزیز واقارب کیساتھ تعلقات اور آپ کے کیرتیر پر انتہائی سدا اثرات مرتب کر دے گا وہیں آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے خفیہ دشمنوں کو بھی کامیابی سے ہتکتار کر دے گا یہ وہی اول الذکر وقت ہوگا جب آپ کی ذات پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں یکم مارچ کو خانہ مال میں عطارد کا ہبوط مالی امور میں نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان تواریخ میں کسی بھی قسم کا چیک یا تحریر وغیرہ دینے سے گریز کریں بچوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو شرابی مالی امور میں نقصان کا اندیشہ ہے 18 اپریل کو شرف شمس ہونے سے عزیز واقارب کیساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی آپ کے شرابی ازدواجی امور بہتری کی جانب گامزن ہو گئے۔ 18 اپریل کا شرف زہرہ خاندان کی جانب سے آسودگی کا مظہر ہے آپ گھر کی تزئین و آرائش میں مصروف ہیں خاندان کا کوئی فرد آپ کی مالی معاونت کر رہا ہے۔

6 تا 4 جون مرض کا وبال آپ کے لیے کاروباری مشکلات لے کر آ رہا ہے کسی عزیز کی وجہ سے خاندان میں آپ کے اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ 27 جون کو پانچویں زہرہ کا اوج بچوں کی جانب سے خوشخبری لے کر آ رہا ہے آپ فخر میں دلچسپی لے رہے ہیں وہ افراد جنکی تاحال منگنی نہیں ہوئی انشاء اللہ اب متوقع ہے 11 جولائی کا اوج شمس آپ کی صحت پر بہترین اثرات مرتب کرے گا آپ کی موجودہ ملازمت میں بہتری آئے گی شرارت داری اور عقد و شادی کیلئے یہ بہترین وقت ہوگا۔ 12 ستمبر کا ہبوط زہرہ خاندان بالخصوص والدہ کی جانب سے پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے آپ شدید ذہنی دباؤ کا شکار

حالات میں بہتری متوقع ہے آپکا وقار بحال ہو رہا ہے مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا  
22 اگست 15 تا ستمبر آپکی شراکت داریاں اور ازدواجی تعلقات آپکے لیے مسائل کا  
باعث ہیں اگر آپ نے خود پر قابو نہ رکھا تو آپکا سماجی وقار بڑی طرح مجروح ہو گا ایسی طرح  
26 تا نومبر کا عرصہ عزیز واقارب اور کاروباری رشتہاء کیساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا  
کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ سال آپکے سماجی تعلقات کیلئے ایک کڑا سال ہوگا۔

**شراکتی و ازدواجی تعلقات:** آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات کو اس سال طے جلے  
حالات کا سامنا ہوگا سال کی ابتدا بہتر ہوگی مگر 22 فروری تا 9 مارچ کا عرصہ آپکے  
لیے سال کا مشکل ترین وقت ہوگا آپکے مابین تعلقات انتہائی تیزی سے بگڑیں گے  
اگر آپ نے اپنی سوچ اور زبان کو کنٹرول نہ کیا تو آپکے مابین علیحدگی ہو جائے گی  
21 مارچ تا 16 مئی کو کہ حالات بہتری کی طرف مائل ہونگے مگر احتیاط لازم ہے۔  
9 تا 17 جون حالات میں تیزی سے بہتری آئے گی آپکا کوئی قریبی عزیز آپکو شراکت  
داری کی آفر رسکتا ہے۔ 28 جولائی تا 26 ستمبر آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات کے  
حوالے سے سال کا بہترین عرصہ ہے مگر اسی دور میں عطا دی رحمت کی رحمت بھی ہوگی  
رحمت کے ایام میں محتاط لنگھو آپکو مسائل سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ان ایام میں شراکتی  
معاہدوں کا بغور جائزہ ضرور لیں آپبے تحریر فی غلظی کا امکان ہے 26 ستمبر تا 13 اکتوبر  
کا عرصہ یکبار پھر آپکے لیے مشکل ثابت ہوگا آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں مالی نقصان  
ہوسکتا ہے۔ باقی سال حالات انشاء اللہ بہتر ہیں گے۔

**تعلیمی کیریئر:** حوت بچوں کو اس سال طے جلے حالات کا سامنا ہوگا آپکے لیے  
21 اپریل تا 16 مئی اور 22 اگست تا 15 ستمبر کا عرصہ مشکل ثابت ہوگا۔ اور اعلیٰ  
تعلیمات حاصل کرنے والے افراد کو 16 جنوری تا 23 فروری، 11 مئی تا 19 ستمبر  
مشکل حالات کا سامنا ہوگا جلد بازی اور جذباتیت سے گریز کریں وگرنہ آپکا تعلیمی  
سلسلہ منقطع ہوسکتا ہے۔ ان ایام میں مرض سے منسوبہ صدقات بہتر علاج ہوگا۔

**اولاد انجالی بائبل لائٹری:** آپکے بیت الاولاد کا حاکم قمر ہر ماہ شرف و ہیبت  
وغیرہ سے گزرتے ہوئے آپکے بچوں سے واسطہ معاملات پر سجد و تحس اثرات مرتب  
کرتا ہے اس طرح آپکو ہر ماہ اچھی بڑی دونوں طرح کی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے  
اس سال 16 جون کو ہونے والا قمری گزرن آپکے بچوں کے معاشی اور قرض وغیرہ سے  
منسوبہ معاملات کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ 21 جون تا 23 جولائی انشاء اللہ بچوں کے  
مزاج میں تیزی کا عنصر نمایاں ہوگا آپکے بچوں کے افسر ز آپکی مشکلات میں اضافہ کر  
رہے ہیں دوسری جانب آپکے بچوں کو کیریئر جاب وغیرہ کی پراہم ہو سکتی ہے 10 دسمبر  
کو ہونے والا قمری گزرن آپکے بیرون ملک مقیم اور ایگریکیشن کے خواہشمند بچوں کے  
لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔

**منگنی و شادی:** گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپکو منگنی کے کئی ایک مواقع میسر  
ہونگے مگر 3 اگست تا 19 ستمبر ایسی کئی بھی تقریب کے انعقاد سے گریز کریں ورنہ

**برج: حوت PISCES سیارہ: مشتری**

رنگ:	سبز، بھورا، خاکی
منصور:	آبی
جواہر:	زرد، یاقوت
بہترین شریک حیات:	سرطان، عقرب
ناموافق ساتھی:	جوزاء، سنبلہ، قوس

بیماریاں: امراض قلب، دروشان، مرگی، مقلق کی بیماریاں

دن: جمعرات عدد: ۳۷ 20 Fer to 20 Mar شریف: دبیج



**اہم نکات:** سال 2011ء آپکے لیے خاصی مشکلات کا حامل ہوگا آپکے طالع  
اور کیریئر کا حاکم ستارہ مشتری جون تک بالخصوص حالت حنیض میں رہتے ہوئے آپکو  
مسائل سے دوچار کرے گا اسکے علاوہ بارہویں کا حاکم دحل شرفی کیفیت کی وجہ سے  
آپکے خلاف خفیہ سازشوں کو بڑھا دے گا۔ اس سال ہونے والے گزرن زائچہ کے اہم  
ترین گھروں بیت الاولاد اور بیت الصحت کو بالخصوص متاثر کر رہے ہیں۔ خاندان مال  
میں مشتری کا حنیض آپکی معیشت کو بڑی طرح متاثر کرے گا۔ گوکہ خاندان مال کا حاکم  
مرخ شرف اور اوج میں رہتے ہوئے آپکی معاشی پوزیشن کو مستحکم کرے گا، مگر اسکا  
ہبوط اور دہال بہر حال آپکی مشکلات میں اضافہ کا باعث ہونگے مزید تفصیلات اگلی  
سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔

**صحت:** ابتدائے سال 19 تا فروری آپکو صحت کے مسائل کا سامنا ہوگا الفرضی  
مت کریں 21 مارچ کو بیت الصحت کو حاکم شرفیاب ہونے سے نہ صرف جاری صحت  
کے مسائل کا خاتمہ ہوگا بلکہ آپکی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہونگے 21 مئی تا  
21 جون ایک بار پھر صحت سے متعلقہ بلکے پھلکے مسائل کا سامنا ہوگا بعد از 21 جون تا  
23 اگست آپ صحت کی جانب سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں البتہ 23 ستمبر تا  
23 اکتوبر کا عرصہ آپکی صحت کے حوالے سے پریشان کن نظر آ رہا ہے۔ آپکو کریا  
گرد سے متعلقہ مسائل کا سامنا ہوگا کسی بھی قسم کی لاپرواہی بڑے نقصان کا باعث  
ہوگی اسکے علاوہ اس سال ہونے والے چارشمی اور ایک قمری گزرن بھی آپکی صحت کو  
متاثر کر سکتے ہیں ان سے بچاؤ کیلئے صدقہ اور نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں۔

**سماجی تعلقات:** اس سال طالع کا حاکم منغی پوزیشن میں ہونے کیوجہ سے آپکو  
اپنے تعلقات کے حوالے سے انتہائی محتاط روش اختیار کرنا ہوگی جون تک آپکے  
کاروباری معاملات آپکے سماجی وقار کو مجروح کر سکتے ہیں محتاط رہیں۔ دوسری طرف  
27 تا 2 مارچ بیت الاقرباء کا حاکم طرح میں ہونے سے عزیز واقارب بالخصوص بہن  
بھائیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں بعد از 27 مارچ انشاء اللہ حالات میں  
بہتری آئے گی سابقہ کشیدگی کا خاتمہ ہوگا 21 اپریل تا 16 مئی ایک بار پھر تناؤ کی  
کیفیت پیدا ہو رہی ہے عزیز واقارب کی جانب سے آپکو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش  
کشیدگی کا باعث ہوگی آپکے تعلقات بڑی طرح متاثر ہونگے 16 مئی تا 4 جولائی

سوائے اختلافات کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا گذشتہ کئی سال سے آپ کی شادی بوجہ رطل التوا کا شکار چلی آ رہی تھی گذشتہ سال اگست سے رکاؤوں کا دور شروع ہو چکا ہے اب ایسی تقریبات کا انعقاد ممکن ہوگا اس سال آپ کے لیے 9 مارچ تا 16 مئی، 19 تا 3 جون، 28 جولائی تا 9 ستمبر اور 13 اکتوبر تا 2 نومبر کا عرصہ سال کا نکاح و شادی کیلئے بہترین وقت ہوگا۔ البتہ 22 فروری تا 9 مارچ، 16 مئی تا 3 جون اور 26 ستمبر تا 13 اکتوبر ایسی تقریبات سے قطعی گریز کریں ان ایام میں کی گئی شادیاں غلط نہیں کا شکار ہوگی۔

**سفر:** اس سال بھی آپ کو گذشتہ کی طرح نزدیکی سفر اختیار کرنا ہوئے گا 21 اپریل تا 16 مئی، 22 اگست تا 15 ستمبر اور 26 تا 2 نومبر سفر سے گریز کریں آپ کے لیے مطلوبہ نتائج کا حصول مشکل ہوگا بیرون ملک سفر کے خواہشمند افراد کیلئے یکم تا 16 جنوری، 12 اپریل تا 11 مئی اور 19 ستمبر تا 11 نومبر ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے کے بہترین ایام ہیں بالخصوص ستمبر تا نومبر آپ کو بیرون ملک سے بہترین جاہ کی آفر ہو سکتی ہے۔ البتہ 16 جنوری تا 23 فروری، 11 مئی تا 19 ستمبر بیرون ملک سفر یا ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں ورنہ وقت اور پیسہ ضائع ہونے کی قوی امکانات ہیں ان ایام میں ایجنٹ وغیرہ سے بھی گریز کریں۔

**مصیبت، کیرئیر، روزگار:** سال 2011ء آپ کے کیرئیر کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے کیرئیر کا حاکم مشتری 22 جنوری تا 4 جون حنیض عیسوی منفی پوزیشن کا حامل ہونے سے آپ کا روزگار کی طرح متاثر ہوگا مشتری کا یہ حنیض عیسوی میں آپ کے خانہ مال میں ہوگا اس طرح آپ کی مصیبت پر بھی مشتری کے نفس اثرات ہونگے گوکہ بعد از جون مشتری کے اگلے برج چلے جانے سے دباؤ میں کمی واقع ہوگی مگر آپ کے لیے گذشتہ پوزیشن میں آنا مشکل ہوگا اسی دوران خانہ مال کا حاکم مریخ 16 جنوری تک شرفی کیفیت اور 19 ستمبر تا 11 نومبر اوج کے گھر ہونے سے آپ کی مالی صورتحال میں بہتری کا باعث ہوگا مگر اس سے صرف سابقہ گڑھے ہی بھرے جا سکیں گے کیونکہ 11 مئی تا 21 جون مریخ کا دباؤ اور 3 اگست تا 19 ستمبر مریخ کا ہیبت آور خاصہ نقصان پہنچا سکے ہونگے اس سال آپ کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو۔

**خصوصی احکامات:** جیسا کہ آپ کے گذشتہ سطور سے اندازہ ہو چکا ہے مجموعی طور پر یہ سال آپ کے لیے ایک مشکل سال ثابت ہوگا یہ پروردگار کی خاص کرم نوازی ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے آگاہی مل رہی ہے اپنی مشکلات سے منسوبہ دعاؤں اور صدقات کی ادائیگی سے آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں سال کی ابتداء میں ہی یکم جنوری کو گیارہویں سس کا حنیض آپ کی صحت اور ملازمت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ 3-12 جنوری کو خانہ مال کا حاکم شرفیاب ہونے سے آپ کی مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے آپ اپنی خواہشات کی تکمیل پر اخراجات کر رہے ہیں۔ بیرون ملک سفر اور ویزہ اپلائی کرنے کیلئے بہترین وقت ہے 8 فروری کو ہونے والا سس کا دباؤ جہاں ایک بار پھر آپ کی صحت اور ملازمت سے منسوبہ امور کو متاثر کر رہا ہے وہیں آپ کے ظاہر باطنی

حالات میں بہتری متوقع ہے آپ کا وقار بحال ہو رہا ہے مگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا 22 اگست تا 15 ستمبر آپ کی شراکت داریاں اور ازدواجی تعلقات آپ کے لیے مسائل کا باعث ہیں اگر آپ نے خود پر قابو نہ رکھا تو آپ کا سماجی وقار بڑی طرح مجروح ہوگا اسی طرح 26 تا 2 نومبر کا عرصہ عزیز واقارب اور کاروباری رفقاء کیساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ سال آپ کے سماجی تعلقات کیلئے ایک کڑا سال ہوگا۔

**شراکتی ازدواجی تعلقات:** آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات کو اس سال طے چلے حالات کا سامنا ہوگا سال کی ابتدا بہتر ہوگی مگر 22 فروری تا 9 مارچ کا عرصہ آپ کے لیے سال کا مشکل ترین وقت ہوگا آپ کے مابین تعلقات انتہائی تیزی سے بگڑیں گے اگر آپ نے اپنی سوچ اور زبان کو کنٹرول نہ کیا تو آپ کے مابین صلح کی وجہ سے 21 مارچ تا 16 مئی کو کہ حالات بہتری کی طرف مائل ہونگے مگر احتیاط لازم ہے۔ 17 تا 9 جون حالات میں تیزی سے بہتری آئے گی آپ کو کوئی قریبی عزیز آپ کو شراکت داری کی آفر کر سکتا ہے۔ 28 جولائی تا 26 ستمبر آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات کے حوالے سے سال کا بہترین عرصہ ہے مگر اسی دوران بیرون ملک سفر کی رجعت بھی ہوگی رجعت کے ایام میں محتاط گفتگو آپ کو مسائل سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ان ایام میں شراکتی معاہدوں کا بغور جائزہ ضرور لیں آپے تحریری غلطی کا امکان ہے 26 ستمبر تا 13 اکتوبر کا عرصہ ایک بار پھر آپ کے لیے مشکل ثابت ہوگا آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی سال حالات انشاء اللہ بہتر ہیں گے۔

**تعلیمی کیرئیر:** صحت بچوں کو اس سال طے چلے حالات کا سامنا ہوگا آپ کے لیے 21 اپریل تا 16 مئی اور 22 اگست تا 15 ستمبر کا عرصہ مشکل ثابت ہوگا۔ اور اعلیٰ تعلیمات حاصل کرنے والے افراد کو 16 جنوری تا 23 فروری، 11 مئی تا 19 ستمبر مشکل حالات کا سامنا ہوگا جلد بازی اور جذباتیت سے گریز کریں ورنہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ ان ایام میں مریخ سے منسوبہ صدقات بہتر علاج ہوگا۔

**اولاد انعامی بانڈ لائبرٹی:** آپ کے بیت الاولاد کا حاکم قمر ہر ماہ شرف و ہیبت وغیرہ سے گزرتے ہوئے آپ کے بچوں سے واسطہ معاملات پر سعد و خس اثرات مرتب کرتا ہے اس طرح آپ کو ہر ماہ اچھی بڑی دونوں طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اس سال 16 جون کو ہونے والا قمری گریہ آپ کے بچوں کے معاشی اور قرض وغیرہ سے منسوبہ معاملات کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ 21 جون تا 23 جولائی انشاء اللہ بچوں کے مزاج میں تیزی کا عنصر نمایاں ہوگا آپ کے بچوں کے انہیں زاپکی مشکلات میں اضافہ نہ رہے ہیں دوسری جانب آپ کے بچوں کو کیرئیر جاب وغیرہ کی پراہم ہو سکتی ہے 10 دسمبر کو ہونے والا قمری گریہ آپ کے بیرون ملک مقیم اور امیگریشن کے خواہشمند بچوں کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔

**منگنی و شادی:** گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ کو منگنی کے کئی ایک مواقع میسر ہوئے مگر 3 اگست تا 19 ستمبر ایسی کسی بھی تقریب کے انعقاد سے گریز کریں ورنہ

**امیہ جنتی (رجسٹرڈ) حکومت پاکستان کا پی راءٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ رجسٹریشن نمبر 9573**  
**ناشر: افتخار بگ ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور**

## برائے دفعیہ نظر بد

- (1) - ان اسماء کو پڑھ کر دم کرے اور زعفران سے لکھ کر پلائے اڈل و آخر زرد 14 بار پڑھے (یا حَسْبُ . یا حَفِیْظُ . یا بُرُ . یا مَنَعُ . یا مُنِیْبُ . یا خَلِیْلُ . یا حَلِیْمُ . یا مُرْتَضٰی )
- (2) - ایک مرغی کا انڈہ لے کر بچے کے سر سے لگا کر یہ دُعا سات بار پڑھیں ( بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ سَیِّدَنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا مَلَلْعُ لَوْء ) پھر اپنی پھیلی پر رکھ کر دھنی کی دھونی انڈے کو دیں اور سورہ اخلاص پڑھتے جائیں۔ اگر نظر ہے تو انڈہ پھیلی پر رکھا ہوا جائے گا تب اس کو توڑ کر دیکھیں اگر اندر سرخ خون کے قطرے ملیں تو پھر اسی انڈے کو نظر زدہ کی پیشانی پر ماش کر دیں۔ کیونکہ یہ نظر لگنے کا ثبوت ہوگا ورنہ کوئی بیماری ہے۔

## زلزلے و آسمانی آفات سے محفوظ رہنے کی دُعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّ اللّٰهَ یُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَ لَیْسَ زَالَتَا اَنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ قَبْلِ بَعْدِهِ ؕ اِنَّهٗ سَمٰنٌ حَلِیْمًا عَفُوْرًا (سپارہ ۲۲ آیت ۳۱ سورہ فاطر)

ترجمہ: بیشک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر (فرض کرو کہ) یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انھیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بیشک وہ بڑا مہربان (اور) بڑا بخشنے والا ہے۔

(رات کو سونے سے قبل ۲۱ بار پڑھیں اڈل و آخر زرد 7,7 بار پڑھیں) (الحاج نعیم امین)

بھی متعلقہ فیصلہ لینے سے گریز کریں اس حال ہونے والے کثیر الا تعداد شہسی گربن آپکی صحت اور ملازمت سے واسطہ امور کو اور قمری گربن بچوں سے واسطہ معاملات میں آپکی پریشانیوں کے مظہر ہیں ان سے بچاؤ کیلئے نماز کسوف و خسوف ضرور ادا کریں۔

**ورد خاص:** روزانہ سورہ شوریٰ کی آیت 19 تلاوت کریں ۳۸ مرتبہ بعد وال و آخر 11-11 مرتبہ ورد پاک۔

**صدقہ:** بروز جمعرات 3 گلو یا کم از کم 300 گرام بڑے گوشت پر ہلدی مل کر دیرانے میں ڈالیں۔

دشمنوں کو زیر کرنے میں مددگار ہوگا کیم مارچ کو طالع میں عطارد کا ہبوط آپکی شخصیت پر اثرات لے کر آرہا ہے ان ایام میں فضول گوئی سے قطعی گریز کریں دوسری جانب آپکے شراکتی ازدواجی معاملات اختلافات کی نذر ہو رہے ہیں۔ 8 اپریل کو خانہ مال میں شمس کا شرف کسی اچھی ملازمت کی وجہ سے آپکے مالی حالات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے یہ شرف ایسے وقت ہو رہا ہے جبکہ خانہ مال میں مشتری منفی اثرات مرتب کر رہا ہے آپکی صحت میں بہتری آرہی ہے 18 اپریل کو طالع میں زہرہ کا شرف آپکی شخصیت میں نکھار پیدا کر دے گا عزیز واقارب کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی شراکتی مالی معاملات میں مالی فوائد کا حصول ہوگا 6 تا 4 جون بیت الاقرباء میں مریخ کا وبال آپکے بیرون ملک سفر کی راہ میں رکاوٹ ہوگا مذہبی معاملات میں بحث و تکرار سے گریز کریں عزیز واقارب کیساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں 27 جون کو چوتھے گھر زہرہ کا اوج اقرباء سے جاری کشیدگی کا خاتمہ کر دے گا آپ گھر کی تزئین و آرائش میں مصروف ہیں وراثتی برائٹی کا حصول ہو سکتا ہے۔ 11 جولائی کو ہونے والا اوج شمس بچوں کی جانب سے خوشخبری لا رہا ہے مگر محتاط رہیں اس وقت ظاہری مخالفین بھی عروج پر ہوں گی 12 ستمبر کو بیت الذونج میں زہرہ کا ہبوط آپکے شراکتی ازدواجی معاملات میں خرابی پیدا کر دے گا آپکا کوئی قریبی عزیز آپکی ازدواجی زندگی میں رخنہ اندازی کر رہا ہے۔ آپکے شراکتی معاملات مالی نقصان کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں 16 تا 14 ستمبر مریخ کا ہبوط آپکے لیے بچوں کی جانب سے پریشانی لے کر آرہا ہے آپکو بچوں کے بچوں اور بچوں کے کیریئر مستقبل کے معاملات میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا ان ایام میں کسی بھی انعامی سکیم میں حصہ لینے سے قطعی گریز کریں۔ 17 ستمبر کو بیت الذونج میں عطارد کا شرف آپکے ازدواجی تعلقات میں بہتری لے آئے گا خاندان کا کوئی فرد آپکے مابین تعلقات کی بہتری کیلئے کوشاں ہے آپ نئی شراکت داریوں کی جانب متوجہ ہیں 11 اکتوبر کو ایکبار پھر آپکو شراکتی مالی خسارہ کا سامنا ہو سکتا ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپکی صحت کو شدید خطرات لاحق ہونگے 12 تا 20 اکتوبر زحل کا شرف آپکے نقصانات میں ازالہ کا باعث بن سکتا ہے ترکہ وراثت کا حصول ممکن ہوگا آپکے دوست آپکی مدد کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں مگر محتاط رہیں انہیں میں دوست نامزد نہیں ہو جو بھی موجود ہیں 16 اکتوبر کو عطارد کا اوج آپکے لیے مزید کا حصول اور بیرون ملک سفر کی راہ ہموار کر رہا ہے اس سلسلہ میں خاندان یا والدہ کی بھرپور تعاون حاصل ہوگا 19 تا 21 اکتوبر مریخ جہاں آپکے لیے ظاہری مخالفین لے کر آرہا ہے وہیں آپکے لیے بیرون ملک سے بہتر ملازمت بھی لا رہا ہے آپکی معاشی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہوگی پروردگار کی کم نوازی سے خانہ کے مال کے حاکم کا یہ اوج آپکو ایسے وقت میسر آرہا ہے جبکہ مشتری آپکے خانہ مال کو چھوڑ کر جا چکا ہے 5-6 نومبر کو کیریئر کے گھر عطارد کا وبال آپسے کیریئر روزگار کے حوالے سے غلط فیصلہ کروا سکتا ہے خاندان کے کسی فرد کے بہرہ کے میں مت آئیں ان ایام میں کوئی

# خواب اور اُس کی تعبیر

خواب	تعبیر
آکٹری دیکھنا	صاحب اولاد ہو
انگوشی فروخت کرنا	عورت سے بھائی ہو
آذان سننا	شہرت ملے
اسپ سوار دیکھنا	مرتبہ بلند ہو
اسپ سے گرتا	مرتبہ میں کمی ہو
آسمان کی طرف اڑنا	سفر دور و دراز ہو
آسمان سے گرتا	خرابی و حترلی ہو
آسمان دیکھنا	مرتبہ بلند ہو
آسمان پر اُپر دیکھنا	کشاہتِ روزگار ہو
آسمان پر سیاہی دیکھنا	مشکل میں جتا ہو
آفتاب دیکھنا	امیر سے ملاقات ہو
آگ جلتی دیکھنا	بازار ہو یا عورت ملے
آگ اٹھانا	تورہ مال ملے
آگ پر کچھ پکانا	کاروبار میں فائدہ ہو
آبِ رواں دیکھنا	پر کام خوشی سے انجام ہو
آکھ میں سر منگنا	بیماری سے تکلیف ہو
آندھی دیکھنا	سفر دور و دراز ہو
آم کھانا	تو انگر صاحب اولاد ہو
آئینہ دیکھنا	عورت کی تنہا سے ملاقات
اوشٹ دیکھنا	دوست کا فائدہ ہو
اونٹ پر سوار ہونا	امراض کبھی آئے
اونچی جگہ سے گرتا	حیرانی و پریشانی ہو
برات دیکھنا	رنج ہو
برف گرتے دیکھنا	سوم خراب ہو
بال بکھرے دیکھنا	مال کا نقصان ہو
بازو اپنا کٹا دیکھنا	برادر کا انتقال ہو
باغ سبز دیکھنا	خوشی ملے
باغ خشک دیکھنا	پریشانی و حیرانی ہو
بال دیکھنا	درازی عمر ہو
بارش دیکھنا	علم و اراں ہو
بادشاہ کو روہ دیکھنا	ملک میں خرابی ہو
بادام کھانا	زرہ مال ہاتھ آئے
بال سر کے کٹے دیکھنا	قرض سے نجات ملے
بال سر کے سفید دیکھنا	درازی عمر ہو

خواب	تعبیر	خواب	تعبیر	خواب	تعبیر
جاوڑ خون بھرا دیکھنا	حکومت ملے	تگوار دیکھنا	دشمن پر غالب ہو	پیشانی و حیرانی ہو	باسری بجانا
جسم کے ٹکڑے دیکھنا	حکومت ملے	تگوار کا تیز اٹھانا	کوئی مرد بزرگ مرے	غم سے نجات	بلند مقامات دیکھنا
دانت گرتے دیکھنا	دانت گرتے دیکھنا	تخت دیکھنا	راحت و بلندی ہو	تھوڑی تکلیف ہو	خود کو پیار دیکھنا
جوا کھلنا	جوا کھلنا	تخت پر بیٹھنا	کامیابی اور خوشی ہو	آزاد فائدہ ہو	بستر زمین پر بچھنا
چاند دیکھنا	چاند دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	ترقی دولت ہو	عزت زیادہ ہو	بچھو دیکھنا
چکورو دیکھنا	چکورو دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	حاکم سے نفق ہو	لبیل دیکھنا
چاند شمس دیکھنا	چاند شمس دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	غلط اراں ہو	تیل پونا دیکھنا
چاند گرہن دیکھنا	چاند گرہن دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	غلط گراں ہو	تیل و باد دیکھنا
چاندی دیکھنا	چاندی دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	رنج دور ہو	بیٹھ نہ مرغ دیکھنا
چاندی لینا	چاندی لینا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	حاکم سے خوف ہو	بھڑیاد دیکھنا
چاول کھانا	چاول کھانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	مشکل پیش آئے	بھینس دیکھنا
چاہ میں گرتا	چاہ میں گرتا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	رنج دور ہو	تانبہ دیکھنا
چراغ دیکھنا	چراغ دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	حیرانی ہو	تاوت اپنا دیکھنا
چیل دیکھنا	چیل دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	عمر دراز ہو	تاج کھینچنا
چھین مارنا	چھین مارنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	پریشانی ہو	تاریک جگہ دیکھنا
حلوہ دیکھنا	حلوہ دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	مشکل پیش آئے	تالاب میں نہانا
حلوہ کھانا	حلوہ کھانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	عزت کا ہر دلے	تال چنانا
حاکم کو دیکھنا	حاکم کو دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	کوئی الزام لگے	تیر چلانا
حامد دیکھنا	حامد دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	دلی مراد برائے	تیز دیکھنا
دشوکرتا	دشوکرتا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	اقبال بلند ہو	تیل پینا
حامد میں غسل کرنا	حامد میں غسل کرنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	مرض میں مبتلا ہو	توپ دیکھنا
حیات بنانا	حیات بنانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	دشمن مغلوب ہو	تھوک دیکھنا
خربوزہ دیکھنا	خربوزہ دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	حیرانی و پریشانی ہو	جنگل سبز دیکھنا
خط پڑھنا	خط پڑھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	خوشی و کامیابی ہو	جنگل خشک دیکھنا
خربوزہ کھانا	خربوزہ کھانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	رنج پیش آئے	جنگل میں دوڑنا
خاک دیکھنا	خاک دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	مصیبت سے رہائی ہو	جہاز پر چڑھنا
خرم کھانا	خرم کھانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	یکے تبدیل کرے	جہاز دیکھنا
دریا پار کرنا	دریا پار کرنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	سفر دور کا پیش آئے	جنازہ دیکھنا
دریا میں نہانا	دریا میں نہانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	بیماری سے نجات ملے	جواہرات دیکھنا
دریا سے پانی پینا	دریا سے پانی پینا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	حصول مراد ہو	جنگل کرنا
دروازہ دیکھنا	دروازہ دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	خوشی ملے	جنگ میں قتل ہونا
دیوار سے گرتا	دیوار سے گرتا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	حکومت و سرداری ملے	جامن کھانا
دیوانہ دیکھنا	دیوانہ دیکھنا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	تکلیف دور ہو	جانور پکڑنا
دہی کھانا	دہی کھانا	تاج پوشی دیکھنا	بزرگی کی نشانی ہے	کوئی نیک کام کرے	

**نوٹ** یہ واضح رہے کہ اکثر وہی خواب قابل اعتبار ہوتے ہیں جو ایسی حالت میں دیکھے جائیں کہ صحت بالکل صحیح ہو بیماری، رنج و غم اور خوشی و مسرت کی حالت میں اکثر خواب معتبر نہیں ہوتے۔ اول دن یا شب کا خواب بے اثر ہے۔ بعد نصف شب کے خواب میں حقیقت دہا تھیر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خوفناک خواب نظر آئے تو راہ خدا میں صدقہ دیا جائے۔ اچھا خواب دیکھ کر بیدار ہونے کے بعد ہرگز نہ سوئے۔ اپنا خواب کسی نااہل سے بیان نہ کریں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دشمنوں کے سوائے کلمہ شہادت ضرور پڑھے۔ منہ کے بل ہرگز نہ سوئے۔



**قرآن مجید مترجم و تفسیر**

قرآن پاک مترجم حافظ فرمان علی اعلی اللہ مقلمہ، مطبوعہ عمران کمپنی، چاند کمپنی، مصباح القرآن ٹرسٹ، نایب پبلشر احصربک سنٹر کے مطبوعہ مختلف سائز اور مختلف اقسام کے کاغذ

- ☆ انوار القرآن ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی - 550/
- ☆ مختلف اقسام مطابق کاغذ و بانڈنگ
- ☆ قرآن حکیم (مولانا مبین نجفی) عام - 400/ خاص - 700/
- ☆ القرآن المبین ترجمہ مولانا اماد حسین کاظمی - 450/
- ☆ حمال شریف (مترجم حافظ فرمان علی) عام - 350/ خاص - 600/
- ☆ حمال شریف (علامہ ذیشان حیدر جوادی) - 250/ - 600/
- ☆ سپارہ سیٹ مترجم و بلا ترجمہ قرآن پاک مزار تاج کمپنی، پاک کمپنی، چاند کمپنی اور دیگر اداروں کے دستیاب ہیں۔
- ☆ تفسیر القرآن: علامہ ظفر حسن امرہوی 5 جلدیں - 770/
- ☆ تفسیر انوار الہجرت علامہ حسین بخش جاڑا 15 جلدیں - 3500/
- ☆ تفسیر نمونہ: علامہ صفدر نجفی 15 جلدیں فی جلد - 350/
- ☆ تفسیر نور الثقلین ترجمہ علامہ محمد حسن جعفری (6 جلدیں) مایہ ناز تفسیر فی جلد - 400/
- ☆ تفسیر ابن کثیر 5 جلدیں - 1800/
- ☆ قصص القرآن (علامہ محمدی اشہداری) - 400/
- ☆ تفسیر المیزان (از آقائے طباطبائی) اول زین طبع - 800/
- ☆ تفسیر المیزان (از آقائے طباطبائی) دوم - 800/
- ☆ تفسیر المیزان (از آقائے طباطبائی) سوم - 700/
- ☆ تفسیر میزان انجلیت (8 جلدیں) فی جلد - 400/
- ☆ مجمع الفضائل (مناقب ابن شہر آشوب) - 350/
- ☆ تفسیر الکوثر (علامہ شیخ حسن نجفی) اول - 375/
- ☆ تفسیر الکوثر (علامہ شیخ حسن نجفی) دوم - 250/
- ☆ قصص القرآن (مختب از تفسیر نمونہ) - 400/
- ☆ تعلیم القرآن (موضوعی) از تفسیر زیدی - 600/
- ☆ تفسیر عیاشی جلد اول (ابو نصر تمیمی) - 350/
- ☆ تفسیر صافی (ملائیش کاشانی) اول - 450/ دوم - 500/

- ☆ مجمع الآیات مولانا ظفر حسن امرہوی 2 جلدیں - 400/
- ☆ تفسیر القرآن: مولانا مودودی 6 جلدیں - 1800/

**تاریخ - سیرت - سوانح**

- ☆ سیرت رسول (مولانا ظفر حسن) 3 جلدیں - 700/
- ☆ سیرت النبی (جعفر سبحانی) - 320/
- ☆ سیرت النبی (شبلی نعمانی) 3 جلدیں - 1000/
- ☆ سیرت آئمہ اہلبیت (ہاشم معروف حسنی) 2 جلد - 600/
- ☆ سیرت امیر المومنین: مفتی جعفر حسین 2 جلدیں - 600/
- ☆ سپر مین ان اسلام تحقیق 25 مصنفین - 250/
- ☆ چودہ ستارے (نجم الحسن کراروی) - 230/
- ☆ کوکب دری فی فضائل علی ترجمہ مناقب مرتضوی - 300/
- ☆ نقوش عصمت (علامہ ذیشان حیدر جوادی) - 250/
- ☆ تذکرۃ الاطہار (شیخ مفید) - 320/
- ☆ احسن المقال (عباس قتی) 2 جلدیں - 750/
- ☆ الفاروق - 190/ ☆ الصواعق محرقة - 300/
- ☆ تاریخ الخلفاء (جلال الدین سیوطی) - 300/
- ☆ بحار الانوار علامہ مجلسی (12 جلدیں) - 2550/
- ☆ تاریخ اسلام (نجم الحسن کراروی) (جلد اول) - 350/
- ☆ تاریخ نبی ہاشم (ارضی بن رضا) 5 جلدیں - 600/
- ☆ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ (جلد اول) - 60/
- ☆ تاریخ اسلام (علامہ علی نقی) مجلد - 250/
- ☆ تاریخ اسلام کاسفر (سید علی اکبر رضوی) - 600/
- ☆ تاریخ اعظم کوفی (محمد بن علی کوفی) - 350/
- ☆ تاریخ انبیاء علیہم السلام اور اقوام عالم 3 جلدیں - 1250/
- ☆ تاریخ اسلام (گروہ نگارش) - 250/
- ☆ تاریخ تشیع (سید محمد جعفری) - 300/
- ☆ تاریخ احمدی (نواب آف پریانواں) - 325/
- ☆ پند تاریخ (موسیٰ خسروی) 5 جلدیں - 800/
- ☆ دین مصطفیٰ و تاریخ اسلام - 400/
- ☆ تاریخ فقہ جعفری (علامہ ہاشم معروف حسنی) - 225/

- ☆ تاریخ طبری 10 جلدیں - 3400/-
- ☆ تاریخ ابن خلدون 12 جلدیں - 3600/-
- ☆ تاریخ ابن کثیر 13 جلدیں - 3800/-
- ☆ تاریخ طبقات ابن سعد 8 جلدیں - 2100/-
- ☆ تاریخ فرشتہ 2 جلدیں - 900/-
- ☆ تاریخ یعقوبی سیٹ - 700/-
- ☆ تاریخ مزارات (مع رنگین تصاویر) - 400/-

**کتاب ادعیہ**

- ☆ تعقیبات نماز کلاں کارڈ - 50/ ، مجلد - 80/
- ☆ مجموعہ وظائف پاکت سائز پلاسٹک کور - 85/
- ☆ مشکل کشا کلاں - 50/ ، پاکت سائز - 50/
- ☆ تحفہ والدین (دعا کیں اور وظائف) - 140/
- ☆ تعقیبات نماز پاکت مترجم حدیث کساء - 60/
- ☆ دعائے توسل مع رنگین تصاویر آرٹ پیپر - 30/
- ☆ صحیفہ کاملہ ترجمہ: مفتی جعفر حسین - 320/
- ☆ صحیفہ علویہ حضرت علی کی دعائیں - 400/
- ☆ اسباب النجات پاکت - 40/ ، مخزن الوظائف - 45/
- ☆ حدیثہ العظیمین پاکت - 50/ ☆ فہم الاممال پاکت - 135/
- ☆ منتخب دعائیں (ترجمہ) از صحیفہ کاملہ رنگین - 45/
- ☆ ذریعہ النجات مع دعائے مستشیر و دعائے عہدہ - 30/
- ☆ وظائف الصالحین اول - 40/ دوم - 60/
- ☆ زاو آخرت آرٹ پیپر پاکت - 130/
- ☆ زاو راہ مجلد - 200/ ، سفینہ النجاہ - 65/
- ☆ سات معجزے - 18/ ، سولہ معجزے - 27/
- ☆ حدیث کساء - 20/ ، دعائے کمیل - 25/
- ☆ دعائے کمیل مع انگریزی ترجمہ اعلیٰ کاغذ - 30/
- ☆ دعائے نور مع ناو علیٰ صغیر و کبیر (پاکت) - 18/
- ☆ وظائف ناو علیٰ - 18/ ☆ دعائے کمیل - 12/
- ☆ خزینہ الوظائف - 50/ ☆ زیارت عاشورہ - 20/
- ☆ زیارت عاشورہ، دعائے علقمہ، دعائے ندبہ - 50/
- ☆ وظائف القرآن (رنگین آرٹ پیپر) - 160/

- ☆ نسیم الاعمال عام-125 آرٹ پیپر -175  
 ☆ تحفۃ المؤمنین پاکت ساز-50 نماز پاکت-10  
 ☆ گوہر رنگانہ عام-300، گولڈن-400  
 ☆ دعائے کمیل آرٹ پیپر رنگین -30  
 ☆ اسرار ناطق (عبدالعلی ہروی) -30  
 ☆ صحیفہ نماز (مولانا حسین مہدی) -300  
 ☆ اللہ درآمار الاساء-45 ☆ دعائے عرف-45  
 ☆ زیارت آل یطین-30 ☆ دعائے جوشن کبیر-45  
 ☆ زیارت چہارہ معصومین-60 دعائے ندبہ-30  
 ☆ نماز مغربہ یا تصویر سادہ-27 رنگین-40  
 ☆ زینت العابدین (مسطی نمازیں) -50  
 ☆ تسکین روح عام -90 آرٹ پیپر -150  
 ☆ وسیلۃ النجات (رنگین) -130 تحفہ آخرت جلد 180

**مطبوعات ولی العصر ٹرسٹ**

- ☆ ریاض القدس (فضائل و مصائب) ۲ جلدیں -800  
 ☆ المدحہ آکسائیہ (فضائل و مصائب) ۲ جلدیں -825  
 ☆ معالی السطنین (فضائل و مصائب) ۲ جلدیں -600  
 ☆ مفتاح الجنۃ ۴ کے عدد پر مجالس -200  
 ☆ انوار خمسہ ۵ کے عدد پر مجالس -300  
 ☆ نفس المہوم از شیخ عباس ثنی -450  
 ☆ الہمیت فی القرآن از آقائے صادق حسن -250  
 ☆ علی فی القرآن از آقائے صادق حسن -300  
 ☆ ملاقات بہ امامت ماں آقائے حسن اعلیٰ جلد-360  
 ☆ الامام المہدی از سید محمد کاظم القزوینی -250  
 ☆ زندگانی حضرت فاطمہؑ از آیت اللہ مستغیب -180  
 ☆ زندگانی حضرت زینبؑ از آیت اللہ مستغیب -100

- ☆ ریاض الاحزان آقائے قزوینی -250  
 ☆ قلب قرآن از آیت اللہ مستغیب -120  
 ☆ انوار زہراءؑ آقائے حسن اعلیٰ -175  
 ☆ عالم عجیب ارواح آقائے حسن اعلیٰ -180  
 ☆ جزیرہ خضر اکملہ حالات ممکنہ برمودا -175  
 ☆ پرواز روح آقائے حسن اعلیٰ -120  
 ☆ عزاداری از دید گاہ مریحیت -150  
 ☆ رجعت (آقائے محمد خادہ شیرازی) -150  
 ☆ مصلح نبویؐ از آقائے حسن اعلیٰ -120  
 ☆ صحیح الاحزان از آقائے محمد علی یزدی -250  
 ☆ مہدی موعود آیت اللہ مستغیب -100  
 ☆ مہدی فی القرآن از آقائے صادق حسن -100  
 ☆ تاریخچہ عزاداری حسینیؑ از آقائے شہرستانی -180  
 ☆ سید الشہداء از آیت اللہ مستغیب -135  
 ☆ مظلومہ کر بلانی تاریخ زینب کبریٰ -250

- ☆ تحفۃ بچپن پاک (محمد الیاس عادل) -360  
 ☆ کائنات جعفر (گفتا م علی حسینی) سیٹ -350  
 ☆ روح حکیم سرور شباب اول-100، دوم-125، سوم-200  
 ☆ آسمی قوتوں سے نجات حکیم سرور شباب -100  
 ☆ مصباح الارواح (حکیم سرور شباب) -200  
 ☆ عکس لوح محفوظ (حکیم سرور شباب) -300  
 ☆ قرآنی عملیات (محقق صفہانی) ۲ جلد-200  
 ☆ کلید عملیات (برکت علی گوشائین) -120  
 ☆ مجرب تعویذات و عملیات (ایوب بشوی) -150  
 ☆ تمام مشکلات کامل (ایوب بشوی) -150  
 ☆ معاشی مشکلات کامل قرآن وحدیث کی روشنی میں -120  
 ☆ عملیات تخیرو حجت (علامہ عابد عسکری) -250  
 ☆ عملیات رزق (علامہ عابد عسکری) -185  
 ☆ قسمت نامہ (علامہ عابد عسکری) -225  
 ☆ روح العملیات (اڈل) گفتا م علی حسینی -250  
 ☆ جادو شکن (علامہ عابد عسکری) -250

**خطبات و احادیث**

- ☆ نبخ الفصاحت (رسول اکرم کے خطبات) -900  
 ☆ نبخ البلاغہ (مفتی جعفر حسین) -400 اعلیٰ -800  
 ☆ نبخ البلاغہ (ذیشان حیدر جوادی) -400  
 ☆ نبخ البلاغہ انگریزی (Peak of Eloquence) -450  
 ☆ نبخ البلاغہ انگریزی ترجمہ علی رضا تہران -400  
 ☆ من لاصحرف الفقیہ (۲ جلدیں) -900  
 ☆ علل الشرائع از علامہ شیخ صدوق -400  
 ☆ کمال الدین از علامہ شیخ صدوق -400  
 ☆ نبخ الاسرار (مولانا علی کے خطبات) -400  
 ☆ جامع ترمذی شریف کامل (۲ جلد) -1000  
 ☆ مشکوٰۃ شریف (۳ جلد) -720  
 ☆ صحیح بخاری شریف (۳ جلدیں) -1350  
 ☆ نبخ البلاغہ (محمد الیاس عادل) -500

- ☆ وظائف الابرار مترجم عام -180  
 ☆ وظائف الابرار مترجم گولڈن -300  
 ☆ وظائف الابرار مترجم آرٹ پیپر -400

**فقہ عملیات - وظائف**

- ☆ توضیح المسائل (آقائے سیستانی) -175  
 ☆ توضیح المسائل (آقائے حافظ بشیر) -175  
 ☆ توضیح المسائل (آقائے خامنہ ای) -270  
 ☆ شرائع الاسلام (ترجمہ جامع جعفری) -600  
 ☆ مفتاح الجنان مترجم حافظ ریاض نجفی -400  
 ☆ مفتاح الجنان بلا ترجمہ (مولانا اختر عباس) -300  
 ☆ شمع شہستان رضا مکمل (نقوش تعویذات) -350  
 ☆ شمع شہستان رضا (نقوش تعویذات) (عام) -160  
 ☆ نقش سلیمانی -150 ☆ حرز سلیمانی -150  
 ☆ شمس المعارف -500 ☆ کتزہ بحین -100  
 ☆ تحفہ مشکل کشا -250 ☆ جواہر خمسہ -250  
 ☆ ذخیرہ عملیات اردو ترجمہ جامع الدعوات کبیر -130  
 ☆ مخزن عملیات ترجمہ مجمع الدعوات کبیر -160  
 ☆ مجربات قرآنیہ ترجمہ رائے ظفر علی -100  
 ☆ اعجاز القرآن -80 ☆ مجموعہ وظائف -85

## مطبوعات عصمہ پبلیکیشنز کراچی

## علامہ ذیشان حیدر جوادی

- ☆ محفل و مجالس - 180/ ☆ اصول و فروع - 135/
- ☆ اہلبیت علیہم السلام کتاب و سنت کی روشنی میں - 250/
- ☆ ذکر و فکر - 250/ ☆ مطالعہ قرآن - 275/
- ☆ آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات - 100/
- ☆ حسین مئی - 150/ ☆ غلظت عظیم (جاس) - 120/
- ☆ رسالت الہیہ (جاس) - 120/ ☆ اسلام دین (جاس) - 60/
- ☆ عقیدہ و جہاد (جاس) - 60/ ☆ کربلا ششای - 120/
- ☆ مفاتیح الایمان - 400/ ☆ عرفان رسالت - 60/
- ☆ نقوش عصمت - 225/ ☆ بیخ البلاغہ - 400/
- ☆ صحیفہ زہرا - 100/ ☆ تحفہ رضویہ - 60/
- ☆ اناسن الحسین - 120/ ☆ احادیث رسول - 75/
- ☆ صحیفہ کاملہ ترجمہ ذیشان حیدر مفتی محمد حسین - 250/
- ☆ توحید - 130/
- ☆ خلافت اور امامت - 120/ ☆ کربلا - 60/
- ☆ معجزہ اور قرآن (علامہ ضمیر اختر) - 100/
- ☆ سائنس اور غلبہ اسلام (ڈاکٹر کلب سادق) - 60/
- ☆ نجات (علامہ طاہر جردلی) - 75/
- ☆ علی مولا - 250/ ☆ زینب بنت علی - 120/
- ☆ علمدار کربلا - 100/ ☆ سیکینہ سیکینہ ہے - 60/
- ☆ کربلا کا ننھا شہید - 60/ ☆ مختار نامہ - 150/
- ☆ تاریخ کربلا - 120/ ☆ ہمارا آخری امام - 120/
- ☆ علی مولا کے معجزات - 100/ ☆ جنگ جمل - 100/
- ☆ مولا عباس کے معجزات - 100/ ☆ جنات و شیاطین - 50/
- ☆ قرینی ہاشم - 150/ ☆ فدک - 60/
- ☆ خطبات حضرت فاطمہ - 60/ ☆ فرشتے - 50/
- ☆ اسلام کی نامور خواتین کی سوانح حیات - 100/
- ☆ مولا علی کے فیصلے - 100/ ☆ مولا علی کے اقوال - 100/
- ☆ تفسیر کربلا - 120/ ☆ سکھوں - 60/
- ☆ مولا علی کے 25 سال مدینے میں سفید مجلد - 250/
- ☆ مولا علی کے 25 سال مدینے میں عام کاغذ - 150/
- ☆ مجالس فیروز - 80/ ☆ غدیر سے کربلا - 80/

## تصانیف آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید

- ☆ انسان کامل - 125/
- ☆ بچی کہانیاں حصے 180/ ☆ فلسفہ شہادت - 30/
- ☆ انتظار نامہ - 50/ ☆ مقالات مطہری - 45/
- ☆ مقتل مطہر - 225/ ☆ حج - 150/
- ☆ اسلام اور کائنات - 250/ ☆ سیرت آل محمد - 145/
- ☆ فطرت - 150/ ☆ مطالعہ بیخ البلاغہ - 125/
- ☆ ختم نبوت - 40/ ☆ فلسفہ حجاب - 60/
- ☆ فلسفہ ولایت - 60/ ☆ سخن - 300/
- ☆ مقام ولایت - 60/ ☆ امامت و رہبری - 50/
- ☆ عدل الہی - 200/ ☆ عبادت و نماز - 60/
- ☆ سیرت نبوی - 150/ ☆ جاذبہ و دفعہ علی - 75/
- ☆ اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات - 130/
- ☆ معنوی آزادی - 65/ ☆ جہاد - 35/
- ☆ طہارت روح آنسٹ پیپر مجلد - 250/

## جامع تعلیمات اسلامی کی مطبوعات

- ☆ اسلام دین فطرت - 80/ ☆ اسلامی دین معاشرت - 100/
- ☆ اسلام دین حکمت - 250/ ☆ اسلام دین معرفت - 250/
- ☆ کتب رسول - 200/ ☆ مکتب اسلام - 100/
- ☆ حکایات القرآن - 200/ ☆ فلسفہ معجزہ - 60/
- ☆ فلسفہ حجاب - 75/ ☆ فلسفہ ولایت - 75/
- ☆ فلسفہ احکام - 100/ ☆ گفتار عاشورہ - 75/
- ☆ تاریخ عاشورہ - 120/ ☆ بنائے کربلا - 120/
- ☆ انسان کامل - 125/ ☆ مقتل مطہر - 225/
- ☆ سیر و سلوک شہید مرتضیٰ مطہری و طباطبائی - 125/
- ☆ حیات انسان کے چھ مرحلے (جوادی حسینی) - 100/
- ☆ بہلول دانا - 40/ ☆ حیات چچن - 300/
- ☆ اسلامی قانون سزا - 150/ ☆ انتظار نامہ - 50/
- ☆ سخن - 300/ ☆ شریکۃ الحسین - 100/
- ☆ سیرت آئمہ اہلبیت ہاشم معروف حسی (دو جلد) - 600/
- ☆ مکتب تشیع - 100/ ☆ ابوطالب مظلوم تاریخ - 80/

- ☆ سیرت مصطفیٰ (ہاشم معروف حسی) - 300/
- ☆ پاسداران اسلام - 100/ ☆ آداب زندگی - 60/
- ☆ اسلامی داستانیں - 200/ ☆ فاطمہ الزہراء - 50/
- ☆ خدمتہ الکبریٰ - 25/ ☆ شریکۃ الحسین - 100/
- ☆ اسلامی عقائد (علامہ مرتضیٰ عسکری) - 250/
- ☆ تاریخ فقہ جعفری (ہاشم معروف حسی) - 225/
- ☆ تفسیر سورہ حجرات (آیۃ اللہ مستغنیب) - 200/
- ☆ محرمات اسلام (حجت الاسلام حسی بہارابی) - 350/
- ☆ تصوف اور تشیع کا فرق (ہاشم معروف حسی) - 350/
- ☆ اخلاق اور روحانی نشوونما (سید نجمی موسوی) - 150/

## تصانیف علامہ طالب جوہری

- ☆ انسان معاصر اور قرآن (عشرہ 1997ء) - 75/
- ☆ تہذیب نفس اور تہذیب حاضر (1998ء) - 120/
- ☆ عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم (1999ء) - 120/
- ☆ حیات و کائنات کا الوہی تصور (2000ء) - 120/
- ☆ انسانیت کا الوہی منشور (2001ء) - 120/
- ☆ اساس آدمیت اور قرآن (عشرہ 2002ء) - 120/
- ☆ میراث عقل اور دینی الہی (2003ء) - 120/
- ☆ میزان احادیث اور قرآن (2004ء) - 120/
- ☆ دین اور شریعت کی عقلی تعبیر - 60/ ☆ ذکر معصوم - 75/
- ☆ نظام حیات انسانی - 45/ ☆ مجالس جوہری 2010 - 130/
- ☆ علامات ظہور امام مہدی (پیچنگوئیان) - 360/
- ☆ منصب ہدایت اور قرآن (2006ء) - 120/
- ☆ حدیث کربلا (مقتل) - 500/

## طب پر بہترین کتب

- ☆ طب مصحوبین - 30/ ☆ طب الصادق - 30/
- ☆ طب امام رضا - 30/ ☆ طب نبی اکرم - 40/
- ☆ طب اسلامی اور جدید سائنس میڈیکل سائنس - 200/
- ☆ طب آل محمد اور امراض جسمانی از حکیم فخر مہدی اول - 225/ 135/
- ☆ سرچشمہ صحت (ڈاکٹر سید مظفر حسین کاشمی) - 300/

**تصانیف علامہ رضی جعفری**

- ☆ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 120/-
- ☆ امام علی رضا 80/- ☆ امام موسیٰ کاظم 80/-
- ☆ دستور حیات 80/- ☆ امام محمد باقرؑ 80/-
- ☆ سید الساجدین 80/- ☆ مولا حسن 80/-
- ☆ امام جعفر صادقؑ 120/- ☆ مولا حسینؑ 80/-
- ☆ عباس ابن علیؑ 80/- ☆ مولا علی مولود کعبہ 80/-

**علامہ حسن ظفر نقوی کی تصانیف**

- ☆ تاریخ کعبہ 175/- ☆ امامت ولایت 175/-
- ☆ امیر مختار 200/- ☆ امیر مختار (انگریزی) 200/-
- ☆ نشان راہ 30/- ☆ ولایت مصومین علیہم السلام 135/-
- ☆ ارتقاء انسانیت میں مصومین کا کردار 125/-
- ☆ حیثیت آزمائش کے میدان میں 125/-
- ☆ مقصد حیات (عشرہ باب العلم کراچی) 170/-
- ☆ سیرت امام زین العابدینؑ (عشرہ لاہور) 170/-
- ☆ معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا کردار 140/-
- ☆ امامت ولایت (انگلش) 200/-
- ☆ مقام اخلاق (جالس مدرسہ باب العلم کراچی) 165/-

**تصانیف علامہ شیخ صدوقؑ**

- ☆ علل الشرائع 400/- ☆ اکمال الدین 300/-
- ☆ توحید 250/- ☆ من لا یحضر الفقیہ (سیٹ) 900/-
- ☆ فلسفہ نبوت امام مہدیؑ 135/- ☆ فضائل الشیعہ 65/-
- ☆ امالی 2 جلدیں 600/- ☆ معانی الاخبار 300/-
- ☆ نسیم بہشت 300/- ☆ خصال 300/-
- ☆ عیون اخبار الرضا 2 جلدیں 400/-
- ☆ محبت اہلبیت کون؟ 65/- ☆ ثواب الاعمال 150/-

**آیت اللہ دستغیب کی تصانیف**

- ☆ ولایت 175/- ☆ جنت 150/-
- ☆ امامت 60/- ☆ نصائح 135/-
- ☆ گناہان کبیرہ مکمل 550/- ☆ توبہ 50/-
- ☆ معاد 100/- ☆ استعاذہ 90/-

☆ زندگانی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا! 180/-

- ☆ زندگانی حضرت زینب سلام اللہ علیہا 100/-
- ☆ برزخ 60/- ☆ سید الشہداء 135/-
- ☆ قلب سلیم سیٹ 450/- ☆ درس اخلاق 75/-
- ☆ بہشت 250/- ☆ تفسیر سورہ حجرات 200/-
- ☆ مہدی موعودؑ 100/- ☆ ایمان 2 حصے 165/-
- ☆ حیرت انگیز واقعات 120/- ☆ معراج 175/-
- ☆ قلب قرآن 120/- ☆ جواب حاضر ہے 175/-
- ☆ سورج بادلوں کی اوٹ میں 100/- ☆ توحید 135/-
- ☆ سکھول 125/- ☆ دوم 150/-

☆ ہدیۃ الشیعہ 300/- ☆ گھر ایک جنت 250/-

**مطبوعات ثاقب پبلیکیشنز**

- ☆ شرائع الاسلام 600/-، الفیض (علامہ علی) 150/-
- ☆ خطیب آل محمدؑ 350/-، سلطان کائنات 150/-
- ☆ فضائل امیر المومنینؑ 250/-، صلح امام حسنؑ 180/-
- ☆ توبہ آغوش رحمت 180/-، بہترین احادیث 80/-
- ☆ شرح دعائے کبیل 200/-، خلاصہ القدر 250/-
- ☆ سبط اکبر 275/-، عیون المعجزات 150/-
- ☆ عرفان مصومین 80/-، خطبہ حضرت فاطمہؑ 100/-
- ☆ شرح رسالۃ الحقوق امام سجادؑ (انگلش) 200/-
- ☆ وظائف الابرار (انگلش) 200/-، ارج الطالب 350/-
- ☆ صحیفہ سجادیہ (انگلش) 300/-، ثمرات الیات 600/-
- ☆ منتخب مناقح الجہان (انگلش) 400/-
- ☆ نوح البلاغہ (مفتی جعفر حسین) سفری 300/-
- ☆ منتخب وظائف الابرار (انگلش) 200/-، عروج العبادۃ 400/-
- ☆ منتخب صحیفہ سجادیہ (انگلش) 300/-

**علامہ طاہر القادری کی تصانیف**

- ☆ السیف الجلی فی منکر ولایت علیؑ 60/- ☆ حبیب علیؑ 40/-
- ☆ القول المعبرتی فی الامام المنظر 60/-

- ☆ فلسفہ شہادت امام حسینؑ 150/-
- ☆ ذبح عظیم 100/- ☆ مناقب زہراؑ 125/-
- ☆ مرج البحرين فی مناقب الحسنینؑ 100/-
- ☆ معارف آیت الکرسی 250/-

**علامہ ضمیر اختر نقوی کی تصانیف**

- ☆ معجزہ اور قرآن 200/- ☆ عظمت صحابہ 200/-
- ☆ ولایت علیؑ 200/- ☆ امام اور امامت 200/-
- ☆ حضرت علیؑ میدان جنگ میں 200/-
- ☆ مجالس محمدؐ (اول) 200/- (دوم) 200/-
- ☆ سیرۃ فاطمہ الزہراؑ (سادہ) 700/-
- ☆ شہزادی ام کلثومؑ بنت علیؑ 600/-
- ☆ احسان اور ایمان 200/- ☆ حضرت جعفر طیارؑ 200/-
- ☆ حضرت قاسمؑ 500/- ☆ حضرت ام البنینؑ 300/-
- ☆ عظمت امام جعفر صادقؑ 200/-
- ☆ عظمت حضرت زینبؑ 200/-
- ☆ غم امام حسینؑ اور عز اور دل کی شفاعت 200/-
- ☆ امام حسن علیہ السلام کی فتح 150/-
- ☆ شہید علمائے حق (حالات زندگی) 200/-
- ☆ ظہور امام مہدیؑ 200/- ☆ ذوالجناح 600/-
- ☆ شعرائے اردو اور عشق علیؑ 500/-
- ☆ حضرت شہر بانوؑ 400/- ☆ ذوالفقار 300/-
- ☆ شہزادہ قاسم کی مہندی 500/-
- ☆ شہزادہ قاسم اول 500/- ☆ دوم 500/-
- ☆ اردو غزل اور کربلا 200/-
- ☆ شہزادہ علی اصغرؑ 800/-
- ☆ معراج خطابت (سیٹ) 1400/-
- ☆ ضمیر حیات 1000/-
- ☆ مصوموں کا ستارہ 300/-
- ☆ نوادرات مرثیہ نگاری 2 جلدیں 600/-
- ☆ میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال 300/-
- ☆ میر انیسؑ بحیثیت ماہر حیوانات 400/-

110/- ☆ مجالس خواتین (مولانا ظفر حسن امرودی)	225/- قسمت نامہ- 165/ ☆ مسافرہ شام-	<b>تصانیف علامہ غضنفر عباس تونسوی</b>
300/- ☆ نسیم المجالس (علامہ نسیم عباس) جلد ۲	☆ مولائے کائنات کے فیصلے- 185/ تحفہ عملیات	☆ حقیقت محمدیہ -150/ ☆ لعاب محمدؐ
250/- ☆ نسیم الابراہیم (مولانا غلام حسین) جلدیں فی جلد	☆ مشکوٰۃ الانوار- 185/ قوم جنات -300/	☆ حقیقت بیت اللہ (زیلع) ☆ الکوش -100/
☆ خطبات شیخ الجامعہ -135/ ☆ مگرار خطبات	☆ ۱۰۰۱ داستان علیؑ -300/ جمال منتظر -400/	☆ طریق العرفان (ختم) ۸ جلدیں -700/
☆ گوهر غم (ذکرہ غدیر فاطمہ) دو جلدیں -135/	☆ فلسفہ معراج- 135/ قصص القرآن -400/	☆ حقیقت بسم اللہ (ختم) ☆ اسرار کبریا -170/
☆ خطبات محسن اوّل، دوم -300/	☆ مناقب اہلبیت 4 جلدیں (ترجمہ انفرد) -1000/	<b>علامہ صائم جتوی کی تصانیف</b>
☆ مجالس ترائی سیٹ -360/ ☆ عجم المجالس -60/	☆ قرآن اور وضو- 200/ اصحاب رسولؐ -165/	☆ مشکل کشاء دو جلدیں -800/
☆ مجالس اجتہادی -75/ ☆ مقام اہلبیت -100/	☆ تاریخ اسلام مجموعہ تقاریر مرزا محمد اطہر -150/	☆ ایمان ابوطالب دو جلدیں -800/
☆ عظمت اہلبیت -90/ ☆ ذکر محصوم -60/	☆ امام زمانہ اور ہمارا کردار (علامہ صادق حسن) -140/	☆ روضۃ الشہداء دو جلدیں -700/
☆ بنائے لالہ (تقاریر عرفان حیدر عابدی) -100/	☆ دربار حسین (علامہ صفدر نجفی) -150/	☆ شہید ابن شہید -800/ ☆ البتول -340/
☆ اطاعت رسولؐ (تقاریر عرفان حیدر عابدی) -100/	☆ قبر میں کام آنے والی نیکیاں -150/	<b>تصانیف الحاج تصدیر حسین زیدی</b>
☆ عمدۃ المجالس -100/ ☆ بیاس -135/	☆ سپاہی کا جزیرہ (علامہ ناصر عباس) -140/	☆ اوصاف الہی -200/ ☆ ارکان خدا ناسیہ -175/
☆ نسیم الابراہیم 2 جلدیں مکمل فی جلد -350/	☆ مجالس زیدی (مولانا ناظم حسن زیدی) -150/	☆ راہ ہدایت -500/ ☆ گلدرست اخلاق -140/
☆ ذکر المصاب -300/ ☆ معیار مودت -135/	☆ تحفہ الواظنین (تقاریر علامہ ناصر عباس) -150/	☆ ارکان انسانیت -200/ ☆ تعلیم اخلاق -600/
☆ اولی الامر کون -135/ ☆ نصیر المجالس -165/	☆ حدیث کساء (تقاریر سید کاظم مہدی) -135/	<b>کتب حج و زیارت</b>
☆ بحر المصاب -165/ ☆ مجالس شام غریباں -100/	☆ مجالس سیدہ کائنات (علامہ محمد تقی نقوی) -150/	☆ اللہ کا مہمان -200/ آل محمد کا مہمان -200/
☆ مجالس اہم باب (کنیزہ اہم باب) -110/	☆ انتقام مختار (علامہ صادق حسن) -200/	☆ ہدیۃ الزائرین -250/ مقامات مقدسہ -150/
☆ مجالس الموسوی (آغا علی موسوی) -60/	☆ کربلا امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں -185/	☆ منہاج الزائرین عمرہ و شام (راے ظفر علی) -100/
☆ خطبات کاظمی (مولانا جان علی کاظمی) -150/	<b>کتب حدیث خوانی (مجالس)</b>	☆ دیار زینب (حسن عسکری کاظمی) -150/
☆ نجف ریزہ (حسن نقوی) -120/	☆ کفایت الواعظین ۳ جلدیں -300/	<b>ادارہ منہاج الصالحین</b>
☆ مجالس الشیعہ (مولانا کلب حسین) -90/	☆ مجموعہ تقاریر (علامہ علی نقی) جلد ۳ -500/	☆ توضیح عزرا -300/ سوغنامہ آل محمدؐ -300/
☆ احسن المجالس (مولانا شبلیہ الحسن) -100/	☆ بصیرت افروز مجالس (ابن حسن چارچوی) -100/	☆ سیرت آل محمدؐ -145/ تاریخ جنت البقیع -135/
☆ ذخیرۃ المجالس (۳ جلد) -450/	☆ مجموعہ مجالس (مولانا محمد جعفر شہید) جلد اول -125/	☆ اسلام اور کائنات -250/ غریب ربذہ -135/
☆ مجالس سیدہ کائنات -150/	☆ مجموعہ مجالس (مولانا محمد جعفر شہید) جلد دوم -200/	☆ فطرت -165/ کربلا سے کربلا تک -150/
☆ اسلام اور عزا اداری (طاہر جرونی) -120/	☆ مجموعہ مجالس (مولانا محمد جعفر شہید) جلد سوم -225/	☆ احادیث قدسیہ -165/ سردار کربلا 2 جلد -500/
☆ صراط مستقیم -150/ ☆ عین البرکات -120/	☆ توضیح عزرا (علامہ حسین بخش) -300/	☆ امالی (طوسی) -300/ امالی (شیخ مفید) -300/
<b>تصانف سوز خوانی - مرثیے</b>	☆ مصباح المجالس (مولانا ظفر حسن) 5 حصے -700/	☆ مکتب امامت و خلافت 2 جلدیں -550/
☆ سامان شفاعت -150/ ☆ آیات منقبت -150/	☆ خطبات نسیم خطبات -165/ فاتح نیکسلا -165/	☆ تحفہ الانام ترجمہ فیائۃ المرام 3 جلدیں -750/
☆ عقیدت جاوداں -200/ ☆ غم جاوداں -200/	☆ امام حسینؑ اور عاشورہ (بروایت صدوق) -235/	☆ معجزات آل محمدؐ 4 جلدیں (ترجمہ مدنیہ امجد) -1000/
☆ مجموعہ تصانف -145/ ☆ عرفان غم -200/	☆ مجالس جوہری (علم اور عقیدہ) -125/	☆ غم نامہ کربلا (ترجمہ یوسف) -135/ عملیات رزق
	☆ مجالس الغروی (مختل الغروی) -140/	☆ تہذیب نفس یا اخلاقی عمل -225/ جاوداں -250/

- ☆ تورغم ازل، دوم- 275/ ☆ چشمہ غم - 125/-
- ☆ بیاض امامیہ (نوے) (دست امامیہ) - 225/-
- ☆ نوائے غم جلد ازل- 135/، جلد دوم - 125/-
- ☆ جوش کے مرچے - 135/ ☆ سو غم - 110/-
- ☆ چشمہ غم - 120/ ☆ اشک غم - 100/-
- ☆ ذوالفقار حیدری اول - 175/ دوم - 200/-
- ☆ جواہر انیس - 425/ ☆ جواہر دہر - 600/-
- ☆ ایک آنسو میں کربلا جلد 1- 185/ جلد 2- 200/ جلد 3- 250/-
- ☆ پہلے حسین لکھنا (قصائد) - 75/-
- ☆ لواء الحمد (قصائد) - 200/-
- ☆ صدائے ماتمی (سرائیکی) ظفر عباس ماتمی - 120/-
- ☆ سرگوشی جبرئیل (از شوکت رضا شوکت) - 200/-
- ☆ منک الہام (از شوکت رضا شوکت) - 200/-
- ☆ محشر خاموش (افسر عباس زیدی موعوم کا کلام) - 150/-
- ☆ جام غدیر (حسن رضا غدیری) - 150/-
- ☆ جواہر تصدق (سرائیکی وارو) - 200/-
- قصائد - سلام - مقببت**
- ☆ رزق مودت (طاہر ناصر علی کا مجموعہ) - 150/-
- ☆ کربلا سفر میں ہے (طاہر ناصر علی کا مجموعہ) - 150/-
- ☆ حروف ناطق (شاعر آل عمران) - 150/-
- ☆ مقصود کا نکات (علی شان) - 250/-
- ☆ تشذیبی (طاہر ناصر علی) - 150/-
- ☆ عشق حسین (مرثیہ) (علی کوثر زیدی) - 100/-
- ☆ نفوش موذت و جاہت حسین و جاہت - 150/-
- ☆ آئینہ موذت (علی کوثر زیدی) - 100/-
- ☆ ریزہ نجف (اسد رضوی) مقببت و سلام - 180/-
- ☆ تذکرہ شعرائے اہلبیت - 150/-
- ☆ میراث حسن (حسن نقوی) - 500/-
- ☆ موج ادراک (حسن نقوی) - 250/-
- ☆ فرات نگر (حسن نقوی) - 250/-
- ☆ حق الیاء (حسن نقوی) - 250/-
- ☆ نذر سخن (طاہر ناصر علی) - 200/-
- ☆ کتب سلونی (طاہر ناصر علی) - 150/-
- ☆ نوائے مقتل (غیر مسلم شعراء کا کلام) - 250/-
- ☆ صدائے نوک سناں (حشمت بہلول) - 130/-
- ☆ نجات کی جب سبیل کرنا (مجم حسن) - 300/-
- متفرق کتب**
- ☆ عہد نامہ مالک اشتر (کتوب حضرت علی) - 200/-
- ☆ شیعت کا مقدمہ - 250/-
- ☆ شیعت کا مقدمہ (انگش) - 250/-
- ☆ اقبال در مدح محمد و آل محمد - 175/-
- ☆ صحیفہ دعا ترجمہ عدۃ الدزائی - 200/-
- ☆ بسم اللہ کے اسرار و رموز از استاد علی اکبر اسماعیلی - 120/-
- ☆ تہذیب زندگی (مولانا شہنشاہ نقوی) - 200/-
- ☆ کتاب انصاف (علامہ شیخ صدوق) - 200/-
- ☆ حکومت میں الہیہ کے آخری تاجدار کا ظہور - 100/-
- ☆ ظہور امام مہدی قریب تر ہے کمل سے - 100/-
- ☆ تشریح ملاقات امام زمان - 80/-
- ☆ نوجوانوں کے جنسی مسائل (ڈاکٹر علی قاسمی) - 120/-
- ☆ شہید انسانیت (علامہ علی نقی) - 300/-
- ☆ حصہ اور اسلام (علامہ علی نقی) - 150/-
- ☆ کربلا کی شیر دل خاتون (عائشہ مصری) - 150/-
- ☆ انوار امامت و تاقیامت (مقدس اردبیلی) - 200/-
- ☆ عقائد امامیہ (علامہ شیخ رضا مظفر) - 150/-
- ☆ حکمتائے پنج البلاغہ (محمد علی صابری) - 100/-
- ☆ حضرت رباب (ڈاکٹر مجتبیٰ حسن) - 25/-
- ☆ اقوال علی کا انسائیکلو پیڈیا (یوسف مثالی) - 300/-
- ☆ امام علم و عرفان امام جعفر صادق علیہ السلام - 250/-
- ☆ مجالس المؤمنین (از نور اللہ شوستری) - 450/-
- ☆ خلافت و ولایت (سید ابوالاعلیٰ مودودی) - 150/-
- ☆ شان علی (پروفیسر شوکت علی عابد) - 150/-
- ☆ حروف اعجاز (سید مظفر عباس نقوی) - 125/-
- ☆ حفاظت قرآن (سید مظفر عباس نقوی) - 150/-
- ☆ پھر حضرت علی آئے (ڈی ایف کراکا) - 60/-
- ☆ اسلام میں علم کی اہمیت (ڈاکٹر کلب صادق) - 120/-
- ☆ سراج الہین (فوق بلگرامی) - 250/-
- ☆ علی تو علی ہے (پروفیسر علی نقی) - 200/-
- ☆ نماز معصومین مع نگین شجرہ طیبہ (رائے ظفر علی) - 100/-
- ☆ انسان عدالت الہیہ کے رو برو - 175/-
- ☆ انبیائے قرآن (محمد باقر حسن لکھنوی) - 200/-
- ☆ قصص الانبیاء و آئمہ (عزادار نقوی) - 250/-
- ☆ عبرتیں (علامہ فیض کرا لوی) - 180/-
- ☆ الصراط السوی فی احوال مہدی - 300/-
- ☆ منیہ المرید (تالیف الشہد ثانی) - 200/-
- ☆ مشکوٰۃ الانوار (علامہ محمد اسماعیل) - 185/-
- ☆ قطرے سے گوہر ہونے تک - 150/-
- ☆ حکمتیں (علامہ فیض کرا لوی) - 400/-
- ☆ غدیری فضائیں - 200/ ☆ معرفت الہیہ - 200/-
- ☆ آئینہ حقوق ترجمہ رسالۃ الحقوق - 300/-
- ☆ استخارہ قرآن (مجاہد حسین ٹر) - 200/-
- ☆ غریب طوس (امام علی رضا) - 165/-
- ☆ امالی شیخ مفید - 285/ ☆ علی اشج الناس - 185/-
- ☆ فضائل نامہ (حسین بخش جاڑا) - 185/-
- ☆ تسکین رُوح (ڈاکٹر سید محمد نقوی ٹنچی) - 250/-
- ☆ حیات امام حسین (حاج سید ہاشم رسولی) - 400/-
- ☆ فضیلتوں کے نمونے (ابراہیم امینی) - 250/-
- ☆ دلائل حقانیت (معجزات امام رضا) - 300/-
- ☆ خدائے سید مجاہد حسین نقوی - 150/-
- ☆ حقائق مصحف فاطمہ - 250/-
- ☆ بلال محمدی (مولانا سید شہباز زیدی) - 100/-
- ☆ کلام امام حسین خطبات، خطوط اور وصیتیں - 300/-
- ☆ مصحف ناطق (سبطین سوسوی) - 250/-
- ☆ ایران کے دن (الطاف شیخ) - 400/-
- ☆ رسائل العیہ (علامہ خزاعی) 13 جلدیں فی جلد - 250/-

**مطبوعات پیغام وحدت اسلامی**

- ☆ گھر کو جنت بنانے کے چودہ نسخے 80/-
- ☆ طول عمر اور وسعت رزق کے سو مجرب نسخے 90/-
- ☆ اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ 60/-
- ☆ مرض تکبر علامات، تشخص کے طریقے اور علاج 50/-
- ☆ مرض حب دنیا (علامات اور علاج) 60/-
- ☆ نفسیاتی جھیم (باپ کا خط بیٹی کے نام) 100/-
- ☆ عظمت و بلندی کیلئے علم ہی کافی ہے 90/-
- ☆ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے؟ 100/-
- ☆ بد نظری کے نقصانات اور اس کا علاج 60/-
- ☆ ترک گناہ کے چالیس طریقے 70/-
- ☆ دوستی 60/- ☆ صدقہ 75/-

**ادارہ علم و عمل پبلیکیشنز کراچی**

☆ (بچوں کے لئے)

- ☆ علی کا شیعہ 45/- ☆ شہر حروف 80/-
- ☆ آؤ تجوید سیکھیں 2 حصے 160/-
- ☆ قصوں کی دنیا (سیٹ) 455/-
- ☆ کربلا درک اول ادرم 160/-
- ☆ بہار قرآن اول ادرم 200/-
- ☆ آؤ قرآن پڑھیں 2 حصے 250/-
- ☆ دینیات سیٹ (رنگین) 2 حصے 280/-
- ☆ المہدی ورک بک (رنگین) 40/-
- ☆ روشن ستارہ (رنگین تصاویر کے ساتھ نمبر 3) 100/-
- ☆ روشن ستارہ (رنگین تصاویر کے ساتھ نمبر 5) 100/-
- ☆ ایک نظر میں (2 حصے رنگین) آرٹ ہیپر 240/-
- ☆ اسلامی تعلیم بالقصور آرٹ ہیپر 120/-
- ☆ اسلامی تعلیم 6 حصے (دینیات) 200/-
- ☆ اقوال آئمہ 30/- بارہ امام 50/-
- ☆ عدالت علویہ 30/- میرنا القرآن 20/-
- ☆ جلوہ نور (سیٹ) 300/-

- ☆ عدائے عدالت انسانی (جارج جرداق) 300/-
- ☆ ملاقات امام (سید محمد مجتہد) 150/-
- ☆ سیرت امام موسیٰ کاظم 350/-
- ☆ فتح الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب 350/-
- ☆ جامع التواریخ فی مقتل حسین 120/-
- ☆ تعبیر الرویا (خواب نامہ) علامہ مجلسی 75/-
- ☆ سرا کبر (جنت و جہنم کا بیان) 200/-
- ☆ منازل آخرہ (مرنے کے بعد کیا ہوگا) 120/-
- ☆ حضرت علی کی جنگیں 75/-
- ☆ ظہور امام مہدی قریب تر ہے 7 جلدیں فی جلد 30/-
- ☆ حضرت بی بی پاکدامن (مرف ذاکر مسعود شاناہی) 45/-
- ☆ عصر ظہور (علی الکلورانی) 200/-
- ☆ سیرت فاطمہ الزہرا (آغا سلطان مرزا) 200/-
- ☆ افضل و مفضل (الرفعی بن رضا) 100/-
- ☆ تشیح در سنن 100/- ☆ فلسفہ آل محمد 150/-
- ☆ المرتضیٰ (سید علی جعفری) 85/-
- ☆ گفتار لئشین (اقوال) 100/-
- ☆ قرآن اور جدید سائنس 75/-
- ☆ عبرت آمیز واقعات 75/-
- ☆ بچوں کے اسلامی نام و القاب 100/-
- ☆ اسلام میں خواتین کا مقام 60/-
- ☆ الحمدی کر نیں (اسد ترمذی) 130/-
- ☆ التمل اور حجت خدا 60/-
- ☆ کرشمہ قدرت (نگینوں کے خواص) 180/-
- ☆ اہلبیت قرآن وسنت کی روشنی میں 250/-
- ☆ تزکیہ نفس (آیت اللہ یزدی) 350/-
- ☆ بزرگ کا سفر نامہ 210/-
- ☆ ایران کے دن (تاریخ و سفر نامہ) 400/-
- ☆ دین آباد اور رسول 100/-
- ☆ صحیفہ فاطمہ الزہرا 300/-
- ☆ صحیفہ امام حسن 300/-
- ☆ صحیفہ امام حسین 300/-
- ☆ صحیفہ امام رضا 300/-
- ☆ صحیفہ امام مہدی 300/-

- ☆ ایمان مجسم علی ابن ابی طالب (علامہ محمد علی) 300/-
- ☆ اسلامی اخلاقی اقدار 150/-
- ☆ سلونی (آقائے رضا لکھی) سیٹ 2 جلد 600/-
- ☆ حالات زندگی ثانی زینب معصومہ 100/-
- ☆ احسن الجوابات اول- 165 دوم 135/-
- ☆ شہباز قلندر (مشتاق باریچو) 250/-
- ☆ دیوان قلندر (مشتاق باریچو) 250/-
- ☆ رمز المصیبتہ 2 جلد (کربلا کے واقعات) 520/-
- ☆ انتقام مختار 200/- ☆ عباد الرحمن 200/-
- ☆ علوم حدیث کا ارتقاء 300 عیون الحجرات 120/-
- ☆ نجات انس و جان (منظوم صحیفہ کاملہ) 350/-
- ☆ قرآن اور اخلاق 150/- ☆ بہلول ثانی 200/-
- ☆ ابو عبدہ رسول خدا 90/- ☆ منافع الحج 500/-
- ☆ تجدد رویش (عملیات) 800/-
- ☆ وظائف الشیعہ 220/-
- ☆ لمحات جاویدان (حیات امام حسین) 300/-
- ☆ وضو اور قرآن 200/- ☆ والایت نگویہ 350/-
- ☆ مخزن فقہ اثنا عشر (سیم علی رضا ایڈوکیٹ) 500/-
- ☆ شہدائے ملت جعفریہ کراچی (حسن مرتضیٰ) 565/-
- ☆ گنگا رحمت کے دروازے پر (آقا محمد حسن روبر) 165/-
- ☆ نوید امن (آیت اللہ صافی) 120/-
- ☆ نبوت (72 سوالات کے جوابات) 80/-
- ☆ سنن النبی (اسلامی آداب زندگی) 250/-
- ☆ حضرت علی کی تقریریں (رضا علی مابدی) 250/-
- ☆ شہید اسلام (واقعہ کربلا پر نئے انداز میں تحریر) 200/-
- ☆ سرچشمہ صحت (ہومیو پیتھک علاج) 300/-
- ☆ صحیفہ معرفت (علی کی محبت قرآن اور حدیث میں) 200/-
- ☆ حضرت علی کی ذوق البصر محبت پر مبنی اولم کے نثرات 150/-
- ☆ جنات کی دنیا 200/- ☆ حسینیت سے وابستگی 150/-
- ☆ قرآن مجید خلاصہ التفسیر (محمد حسین نجفی) 800/-
- ☆ سعادت الدارین فی مقتل حسین 450/-
- ☆ وسائل الشیعہ (علامہ خزعلی) 13 جلدیں فی جلد 250/-
- ☆ روپ کنوار کماری (ڈاکٹر سید تقی مابدی) 450/-

**ادارہ معاون مومنین ، واعظین مقربین۔ پیشنماز**

ایسے مومنین، اراکین، انجمن جوانی مساجد میں مستقل طور پر یا ماہ رمضان المبارک میں عارضی یا مستقل طور پر سید وغیر سید پیشماز رکھنے کے خواہش مند ہوں۔ بچوں کی شادی کے سلسلہ میں، مرحومین کی تقاضا نمازوں کے لئے رابطہ کریں۔  
گدائے در سیدہ :

0300-6059825, 03465899452  
سرگرمی جاس ٹی وی، عمر ویڈیو پبلسٹیٹی

**حفظ القرآن تجوید اور علوم اہلبیت کی اہم درسگاہ**  
**جامعہ قرآن و اہلبیت**

(1) ماہ قرآن رمضان کی شہنائے مبارک میں لاہور کی جامع مساجد میں مغفرت مومنین کے لئے سحری کے وقت تک تلاوت (2) فردوس میں روزانہ اور بعد میں ہفتہ وار تلاوت کا سلسلہ جاری۔ خادم قرآن و اہلبیت: مولانا حافظ کاظم رضا نقوی (پرنسپل)  
(1) نجف بازار کوٹ کھیت لاہور (2) جامع امامیہ سحر علی چوک واٹن کینٹ۔  
0333-4332518, 0300-4425408, 042-3700747

**SHARAFAT KHAN DIESEL SERVICE**

Specialist in calibration and phasing of fuel injection pumps, nozzels and injectors of construction machinery, Power generators all types of Motor vehicles.

Prop: M.Haroon Khan  
Cell: 0300-8448262  
0321-8448262  
Main Bund Road, Opp Sanda Telephone Exchange, Lahore  
Ph: 042-37155199, 37150656

**انسانیت بچانیے**

**زندگی بچانیے**

**آن لائن و آف لائن ڈونر کیپ**

[www.bloodforlife.com.pk](http://www.bloodforlife.com.pk)

پاکستان کے تمام شہروں سے رجسٹرڈ ہو کر خون کے ضرورت مند مریضوں کی زندگی کی امید بنیے!

A project of Al-Khadija Foundation Pakistan.  
70-B, Jaffaria Colony, Bund Road, Lahore

**Daffodil Publications**

M Siddique  
0300 5373436

Deals in all kind of Dictionaries, Atlas, Encyclopedias, Fine Art, Children, Kitchen, Colouring, Fashion, Novel and Sketch Books.  
Zubaida Centre, Opp Muslim Model School,  
40-Urdu Bazar, Lahore. Ph: 042 37246924

**PJ MOTORS**

5-Jail Road Lahore, Pakistan, Ph: 042 37580017, 042 38727910,  
Fax: 042 37580018, email: pjmotorslhr@gmail.com

**We import all kind of Japanese vehicles and also deal in local cars**

Chief Executive: Syed Anwar Hussain Shah  
Mob: 0303 4091904, 0331 4982801, 0333 4557606

**PJ ENTERPRISE JAPAN**

Cell: 0081 9061442766, Ph: 0081 766551917  
HTTP://pjenterprise.jp



**ولی العصر ٹورز اینڈ سروسز (پرائیویٹ لمیٹڈ)**

عراق اور شام ویزہ سرورسز کا با اعتماد ادارہ نیز ہر ایر لائن کا ٹکٹ دستیاب ہے



چہلم سید الشہداء کر بلا معلیٰ میں

**کاروان ولی العصر**

یوم عاشور کر بلا معلیٰ میں

یوم العرفہ کر بلا معلیٰ میں

ایران، عراق - 45000/-  
ایران، عراق، شام (ہائی ایر لائن سے) - 85000/-

چہلم سید الشہداء اشام میں

رواگی: (عمر، شام، عراق، ایران) ماہ ربیع الاول  
ہمراہ قافلہ: ملک غلام جعفر طیار، علامہ ناصر عباس ملتان، سید مشتاق حسین شاہ، سید مظہر علی شیرازی  
اعمال ہرزہ میں اجتماعی طور پر کرائے جائیں گے۔ مجلس کا خصوصی اہتمام ہوگا (انشاء اللہ)  
1,25,000 روپے

ہر ماہ زیارات کیلئے قافلہ روانہ ہوتا ہے ایر لائنز کے کرایہ جات اور دوسرے ٹیکسز میں اضافہ بذمہ زائر ہو گئے

03337427141 ملک فیصل حیات تنھو کہ

**چیف ایگزیکٹو سید غضنفر عباس کاظمی**

03124761412 سید محسن رضا گیلانی

خطیب مرکزی مسجد امام ہارگاہ قصر القائم سلائیٹ ٹاؤن سرگودھا  
0321/0301-6003412

PH: 0514355992 wali-ul-asartours@hotmail.com چاندنی چوک راولپنڈی



## کاروان کربلا ونجف

کاروان کربلا ونجف کے زیر اہتمام علماء کرام کی زیر قیادت زیارت مقدسہ کا پروگرام درج ذیل ہے:

1. چہلم امام حسینؑ کربلا معنی میں:

بائی انیر + بائی روڈ۔ پاسپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر 2010ء۔

2. عمرہ و زیارات مقدسہ عراق، ایران، شام:

بائی انیر۔ پاسپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 مارچ 2011ء۔

3. زیارات مقدسہ ایران، عراق، شام:

بائی انیر + بائی روڈ۔ پاسپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 مئی 2011ء

رابطہ: سید خاور عباس نقوی (چیف آرگنائزر)  
ایم اے اسلامیات

66۔ بی جلی پارک سنگھ پورہ، باغبانپورہ، لاہور۔  
0333-4747756  
0333-4520507  
فون: 042-36864133

## گلشن زہرا ویلی

اسلام آباد زون 5 میں گلشن زہرا صرف شیعیان حیدر کر کے گھر بنانے کیلئے ایک مخصوص رہائشی منصوبہ ہے

ایک نیا تھہ پانی بجلی گیس پختہ سڑک فیڈرل اسکول رہائشی عمارتوں اسلام آباد زون 5

گلشن زہرا ویلی میں 5 مرلہ 10 مرلہ اور ایک کنال کے تقریباً سات سو پلاٹ موجود ہیں


تفصیل	رہائشی پلاٹ	کمرشل پلاٹ
5 مرلہ	1,50,000/- ایک لاکھ پانچ سو روپے	3,00,000/- تین لاکھ روپے
10 مرلہ	3,00,000/- تین لاکھ روپے	6,00,000/- چھ لاکھ روپے
1 کنال	6,00,000/- چھ لاکھ روپے	12,00,000/- بارہ لاکھ روپے

رابطہ: (منتظر مہدی) 0301-5459317, 0344-5121407, 0333-5590972  
Web: WWW.GZVALLEY.COM E-mail: Info@GZVALLEY.COM

## فالج کا مجرب علاج ماء العسل (شہد)

ایک پاؤ شہد خالص کو آدھا کلو صاف پانی میں حل کر لیں۔ اور چوبیس پریکانا شروع کر دیں۔ اتنا پیکس کہ ایک پاؤ پانی سوکھ جائے اور آدھا کلو بچ جائے۔ فالج زدہ کو دو کھانے کے بیچ دن میں تین سے چار مرتبہ تک دیں۔ فالج ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر استعمال کروانے سے فالج کا کوئی منفی اثر جسم انسانی پر نہیں ہوتا۔ اگر فالج پرانا ہو گیا ہو تو تین سے چار ماہ کے مسلسل استعمال سے مردہ حصہ میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ برائے صدقہ جاریہ۔ والدین غلام رضا عسکری کے نام سے پڑھ کر دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ فون: 0333-7014915

## روحانی و قرآنی فیض



قاری منیر حسین محمدی: فون: 0300 4352315: 042 8433845

ہر قسم کے نقوش جو منکر و مفرغ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ منگوانے کے لئے فون کریں۔ ملاقات کے لئے فون کر کے تشریف لائیں۔ صبح 10 تا رات 8 بجے۔

محمدیہ قرآن سینٹر و روحانی و قرآنی فیض مکان نمبر 30 ڈوگر ہوٹل والی گلی الحد کالونی نیلم بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔

## Dean's

ریڈی میڈ گارمنٹس اور سکول یونیفارم  
آر آپ اپنی پسند کا یونیفارم اپنے ہی سکول میں رکھنا چاہیں تو  
برائے رابطہ: علی محسن موبائل: 0300-8480285  
G-4 گلبرگ ستر میں بیٹو بازار بالقاتل (Pace) لاہور۔  
فون: 35760625-26

## الحمدمیرکس

پروپرائیٹری  
محکم علی  
لیڈیز اینڈ جینٹلمینس کپڑے کی تمام ورائٹی  
بازار سے بارعایت دستیاب ہے۔  
محمد وسیم  
0346-4406438 0345-4182941  
24۔ مین سہری روڈ زون 5 لاہور

## al zainab (pvt) Ltd.

TRAVEL & TOUR

Syed Muhammad Ali Imran

CEO 0333 4422345042

Ph: 35778899, 35755260, Fax: 042 35755261,

e-mail: ceo@al-zainab.com

## کامیاب زندگی گزارنے اور حصول مقاصد کیلئے

### ورد شدہ سونا پالش خاص مجرب روحانی الواح

لوح مشتری	حصول دولت ترقی عہدہ	چاندی سونا پالش	1100 روپے
لوح رحل	عدد 8 اور رحل کی خوشتر رفح کرنے کیلئے	تاجا سونا پالش	1000 روپے
لوح مقدر	خوش نصیبی حصول ویرہ، ملازمت فراہمی	تاجا سونا پالش	400 روپے
طلسمی باز بند	ہر مقصد میں کامیابی کیلئے گارنٹی شدہ	مفتاح طلسمی	700 روپے

علم ہجر سے ایک سوال کا جواب فری پوچھیں۔ عددی زناچیز فری ہوا کریں۔

آغا جعفر حسین مکان 10/D گلی نمبر 1، بلاک X، سیٹلائٹ ٹاؤن،  
اے پور شرقیہ، ضلع بہاول پور۔ فون نمبر 0300-7807248, 062-2275714

۷۸۶

۹۲/۱۰

# کلام الہی اور طب نبوی کا کرشمہ

بفضل اللہ بنصرت پاک

ستاروں کی بندش، جادو، سائیہ، بندش رشتہ، گھریلو و کاروباری اور سفری تمام مشکلات کے لیے رابطہ کریں نیز نقش قرآنی رزق میں برکت فتح و نصرت جادو آسب سے بچاؤ کے لیے ہرن کی کھال پر خاص اوقات میں تیار کیے جاتے ہیں اور کالایر قان A-B-C دل کے وال کا بند ہونا، اٹھرا، جرمز کا نہ ہونا، پتہ گردہ میں پتھری، بواسیر، السر تمام بیماریوں کا علاج تسلی بخش کیا جاتا ہے۔

وقت ملاقات: روزانہ صبح 10 تا 4 بجے شام بروز جمعہ 10 تا 1 بجے

حکیم عامل سید انجم شاہ

Ph: 0300 4267735, 0321 4267735

مکان نمبر 18/A گلی 189 عاطف پارک نیو میوگیوال چوک سنگھ پورہ لاہور

murshad1975@gmail.com

## ہر بیماری کا علاج فون پر دم کرائیں

(دبئی علاج) ذمہ۔ بواسیر۔ پتھری۔ مرگی۔ 92 دن میں مکمل نجات

عبدالمصومین (ع) عالم حکیم شاعر اہل بیت درویش خضر عباس پیاسی

روحانی سوچھلا الشفا خانہ (رجسٹرڈ) فاضل پورٹی نزد پولیس چوکی تحصیل ضلع راجن پور  
0333-6474494  
(جنوبی پنجاب پاکستان) 0302-7909693 0346-7328884

## فری میرج سنٹر

فی سبیل اللہ میرج پیورڈ کے ذریعے بیچے اور بچیوں کے کے رشتوں سے پریشان والدین کے لئے بلا معاوضہ کام کر رہی ہے۔ (برائے مہربانی صرف خواتین رابطہ کریں)

ادارہ: ڈوور آف (ادیرٹس) رجسٹرڈ 125 ٹیپو بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور

Ph: 0333 4655526, 042 35852888

email: doafoundation@gmail.com

web: www.doorofawareness.com

سورۃ الحمد و دعائے کفیل سے شفا یابی

ہر قسم کی پریشانی، شفا کے لئے فی سبیل اللہ رابطہ کریں۔

محمد علی کفیلی (عالم دعائے کفیل) فون: 0332-6996581

چانسلر:  
آغا سید سیدین موسوی

# مُصْبَاحُ الدُّجَى یونیورسٹی

(تعلیمات قرآن و اہل بیت)

زیر سرپرستی:  
حضرت قائم آل محمد (ع) علیہ السلام

فری ایجوکیشن

کتب وی ڈیز کے ہدیہ کے علاوہ

## گھر بیٹھے دینی کورسز



- (1) قرأت و مسائل دینیہ (2 سیمسٹر) دورانیہ 1 سال
- (2) پیش نماز (1 سیمسٹر) دورانیہ 6 ماہ
- (3) واعظ / واعظہ (4 سیمسٹر) دورانیہ 2 سال
- (4) فاضل عربی (2 سیمسٹر) دورانیہ 1 سال
- (5) فاضل ایران / عراق / اشام (6 سیمسٹر) دورانیہ 3 سال

﴿ نمایاں پوزیشن والے سٹوڈنٹس کے لیے حوزہ علمیہ قم ایران میں داخلہ کے مواقع ﴾

مصباح الدجی یونیورسٹی کے تمام پروگرامز مرکزی تفصیلات، لیکچرز، داخلے، امتحانی نتائج، تازہ ترین خبریں، نوے، مجالس، اسلامک موویز، مقامات مقدسہ کی تصاویر اور دیگر ملکی و بین الاقوامی اسلامی معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں:

www.mu.edu.pk

Join us on Facebook: www.facebook.com/muedupk

رابطہ: پروفیسر علامہ غلام صابر (وائس چانسلر) مُصْبَاحُ الدُّجَى یونیورسٹی نیاز بیگ (ٹھوکر) لاہور پاکستان

Ph: 0092-42-36127790 0092-300-7473505 E-Mail: misbahudduja@yahoo.com

# کاروان حج صاحب الزمانؑ

زیارات مقامات مقدسہ (بانی اربعہ بانی روڈ)

حسب سابق امسال ہمارے زیارتی پروگرام درج ذیل ہیں

- (1) ایران، عراق، شام، جہلم کربلا میں روانگی 15 جنوری
- (2) عمرہ شام، کربلا، ایران ماہ اپریل دوسرا ہفتہ
- (3) ایران، عراق، شام (گرمیوں کی چھٹیوں میں) 20 جون
- (4) (یوم عرفہ) کربلا معلیٰ میں (اکتوبر کا تیسرا ہفتہ)

**سہولیات: A.C ٹرانسپورٹ، کھانا، رہائش، ویزہ، میڈیکل نیز ایئر پورٹ و بارڈر ٹیکس بذمہ کاروان۔**

**بانی ایئر اور بانی روڈ دونوں طرح کے پیسے موجود ہیں**

قائد سالار محمد اسد زیدی عرف آصف شاہ 0345-4638090

042-36292671, 35087768, 03009448581

دفتر (ادارہ خدمت زائرین) مین بازار بی بی پاکداسن بالمقابل اسحاق میڈیکل سٹور ایپرس روڈ لاہور۔ نیز خدمات وغیر خدمات بچہ بچوں کے رشتوں کے لیے رابطہ کریں۔

## آپ کی مشکلات کا حل

عالم ارواح سے

مالک کے حلقے علم سے آپ کی پریشانیاں سے متعلق سوالات کے جوابات عالم ارواح سے معلوم کیے جاتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ اس سوالات اپنے ہاتھ سے لکھ کر ارسال کریں اور جوابات حاصل کریں۔ رابطہ: بیت آئین مکان نمبر 39 پٹی سٹریٹ غازی پارک، ملت روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور 0321-9991214

imamali7861214@yahoo.com

## فیس نہ دفتر سرپرستی انٹرنیشنل سکار

50 تا 25 سال لڑکے لڑکیوں کے رشتے بذریعہ استخارہ ہر ذات اہل تشیع، کرسچین۔ بڑی عمر، لیٹ شادی دوسری شادی کٹواری، ہاتھ بیوہ ہمراہ بچے کے لیے سول آری آفیسرز کا رد ہاری رشتے موجود بخود بخود خواتین فارمنیشن لڑکے لڑکیوں کے لیے ہر ذات ہر عمر سے رشتے موجود 100% اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں۔

صوفی محمود احمد 042,35111226  
03004601226, 0333-4701226

## کاروان رضا حج سندھ پاکستان

اندرون سندھ کے موئین کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے رابطہ کریں۔

**ایڈوانس بکنگ جاری ہے**

سرپرست کاروان  
حجت الاسلام والسلمین

الحاج مولانا کرم علی چوہدری المشہدی

ایڈریس: حیدری ہاؤس پرانی وحدت کالونی حیدرآباد  
0346 3870929/0300 3041405  
E.mail: kahmashhadi@hotmail.com  
kahmashhdy@yahoo.com

## الواج شرفات کواکب

تغییر منکلات و حضرات کے کورسز بذریعہ ڈاک کردائے جاتے ہیں۔ سایہ آسپ، کالے علم سے تحفظ اور بیماریوں سے بچاؤ کے لئے رابطہ کریں۔ الواج شرفات کواکب دستیاب ہیں۔

محمد اسد سلیمانی c/o شیخ محمد حسین نیوز ایجنسی فوارہ چوک بھنگ صدر  
0300 6501194, 0346 7241487

# برطانیہ میں یورپ کی مرکزی سالانہ گیارہویں یادگار تاریخی

# مجلس عزائم داری شہادت فاطمہ الزہراء

VENUE: CAROLINE CHISHOLM SCHOOL  
WOOLDALE ROAD NORTHAMPTON NN4 6TP

SUNDAY 15 MAY 2011  
10:00 AM (English Time)

حافظ حسین لاہور	علیہ السلام ناصر عباس ملتان	ضیاء خیر نقوی لاہور	قاضی نسیم عباس خانیوال	علی ناصر حسینی تنہاڑا
تصدقین	ناصر عباس	علیہ السلام ضیاء خیر نقوی لاہور	قاضی نسیم عباس	علی ناصر حسینی
ضیغم عباس شاہ لاہور	اقبال حسین شاہ بھار	نوبید عاشق لاہور	میر حسن میری	فضل عباس نقوی ملتان
ضیغم عباس شاہ	اقبال حسین شاہ بھار	نوبید عاشق لاہور	میر حسن میری	فضل عباس نقوی
انجمن شب الہدیین لاہور	سید علی ضیاء ضوی صاحب بیاض انجمن خزانہ عباس	ممتازہ آغا بہشتی لاہور	عقیل حسن نقوی لاہور	ملک مریدین پھرار
انجمن شب الہدیین	سید علی ضیاء ضوی	ممتازہ آغا بہشتی	عقیل حسن نقوی	ملک مریدین

منجانب: انجمن غلامان حضرت عباس رجسٹرڈ نارٹھمپٹن

**AZADAR INTERNATIONAL**

GLOBAL MONEY TRANSFER, TOP RATE, SECURE & RELIABLE  
01604 638 842  
07989 344 151 (Syed Nasir Abbas Jafri)

برطانیہ سے پاکستان پیسے بھیجنے کیلئے رابطہ کریں

## زیارات مقامات مقدسہ کیلئے قابل اعتماد قافلہ

۲۸ سال سے زائرین کرام کی خدمت میں رواں دواں

دوسرا قافلہ پرل کا پہلا ہفتہ	عمرہ شام (بائی ایئر)
تیسرا قافلہ جولائی کا پہلا ہفتہ	کل اخراجات - 55000/- روپے + ٹکٹ ہوائی جہاز
چوتھا قافلہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ	زیارات ایران، عراق، شام (بائی ایئر، بائی روڈ)
	زیارات ایران، عراق، شام (بائی ایئر، بائی روڈ)

# کاروان کربلا و شام

پہلا قافلہ جنوری کا تیسرا ہفتہ  
چہلم سید الشہداء کربلا معلی میں  
لاہور سے شام اور ایران سے لاہور (بائی ایئر)  
شام سے عراق اور عراق سے ایران (بائی روڈ)  
کل اخراجات - 115000/- روپے صرف

جہازیات تمام ملک کے ویزے، میڈیکل ٹیس، رہائش، ٹرانسپورٹ، ہارڈ اور سافٹ ویئر، ٹیکس، بڑے قافلہ سالاروں کے۔ اخراجات طعام شامل نہیں ہیں۔ ہر قافلہ کیلئے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، 8 رنگین فوٹو (بیک گراؤنڈ سفید) اور - 50000/- روپے ایڈوانس ایک ماہ پہلے جمع کرنا ضروری ہیں

سید محمد زمان حیدر ترمذی چیف آرگنائزر کاروان کربلا و شام کربلا گامے شاہ لاہور 042-36315273, 0322-4513272, 0301-4513272

### جادو سحر، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات کیلئے

بعض نماز عشاء دو رکعت نماز حاجت پڑھیں اور ۷ مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حصار کر لیں۔  
اول و آخر دو روز 11، 11 مرتبہ اور چاروں قبل 313 مرتبہ پڑھیں اور دُعا کریں۔  
پانی پر دم کر کے پیئیں۔ 41 روز عمل کریں۔ عرق گلاب و زعفران سے چہار قبل شریف کا عددی نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ جو نہ لکھ سکتے ہوں وہ نقش چہار گل شریف ہم سے طلب فرمائیں۔  
عالم حاجی سید کاشف حسین کاظمی ۵ بخشی مارکت انارک لاہور۔  
فون: 0300-4422687, 042-7210183

**24 Hours Service**

- ★ Escort services given at airport.
- ★ Free doorstep service.
- ★ Special Fares for Students.
- ★ Special fares for Syria.
- ★ All kind of hotel bookings.

**Lets TRAVEL N TOUR**  
Its time to fly  
M S Mirza 0300 8490111, 0321 4364950  
Mez 03, Defence Shopping Mall, DHA, Lahore.  
Ph: 36685336-36611935, 37746011

### قضا نمازیں پڑھوائیں

اپنے مرحومین کی قضا نمازیں انتہائی مناسب ہدیہ پر پڑھوائیں۔ اگر آج آپ کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آج کی بھی نماز پڑھوائے گا۔ نیز شمالی علاقہ جات کے سنگناخ پہاڑوں سے حاصل کردہ خالص سلاجیت دستیاب ہے۔  
اخون غلام مہدی بلتستانی  
کوٹا نمبر F-8 وحدت کالونی لاہور۔ فون: 0346-4433199

**نماز اجارہ و دُعاے مغفرت برائے مرحومین**  
قضا نمازیں، روزے و دیگر واجبات شریعہ ادا کروانے کیلئے  
رابطہ: مولانا سید محمد مطیع الحسنین کاظمی  
0321/0333 5304639  
0345/0300 4622340  
فلپ 617، بلاک Q، گراؤنڈ فلور ماڈل ٹاؤن لاہور۔

# پنجتن تبرکات سینٹر



ہمارے یہاں سونے، چاندی، جرمین سلور، براک میں علم، نچے، ضرر تاج، تابوت، جھولے، مشکیزہ، ذوالجناح کا زیور و دیگر سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ نیز علم کے پٹکے پھریرے، تابوت کی چادر، امام ضامن وغیرہ دستیاب ہیں۔

ہر قسم کے جواہرات و انگوٹھی۔ 999 نقش و حرز جوادی انگوٹھی و دیگر تعویذات بھی دستیاب ہیں۔

**بہت مناسب دام** **اعلیٰ معیاری کام**

## Punjatan Tabarrukat Center

Shop # 7, Mubeen Arcade, Near Mehfil e Shah Khurasan,  
Soldier Bazar # 3, Karachi, Pakistan.  
Ph: 021 32250559, 32256474, Mobile: 0333 2352775  
e-mail: ptc786@hotmail.com, web: www.punjatan.org

## زیارات ایران، عراق، شام، حج و عمرہ

ہر سکون اور آرام دہ سفر کے لئے ملک کا بااعتماد اور منفرد ادارہ۔  
جس کو عرصہ پچیس سال سے زائرین کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔  
پروگرام انشاء اللہ: زیارات مقدسہ اور عمرہ کی سعادت کے لئے ہر سال 4 قافلتے تشکیل دیے جاتے ہیں۔

خصوصاً **یوم عرفہ** کربلا معلیٰ اور **چہلم** سید الشہداء۔

جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا **شریکۃ الحسیۃ** شام میں منایا جاتا ہے۔

زیو شہادت: الحاج شامد اقبال خان کھچی 0300-0321 9404133

9-8 گوہر سنٹر، وحدت روڈ لاہور۔ فون: 042 35857391 ای میل: alzahratravel@yahoo.com

# الزہراء ٹریولز اینڈ ٹورز

بامحمد  
قبرستان  
فند

ہم مومنین کیلئے قبر کی جگہ یقینی بنانے کیلئے

## وانی صاحب الزماں

کے نام سے قبرستان کے قیام کیلئے کوشاں ہیں

برائے زمین قبرستان فند میں زیادہ سے زیادہ عطیات دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔

اکاؤنٹ نمبر 0058-0081-000097-01-4 بینک الحیب اسلام پورہ لاہور۔

زیر اہتمام: انتظامیہ شیعہ جامع مسجد صاحب الزماں۔ حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور۔

یا اللہ  
قبرستان  
فند

زائرین کے اعتماد اور معیار کا ضامن ادارہ جو نسل در نسل خدمت میں مصروف

## کاروان شاہ خراسان لاہور

حسب سابق اسال کاروان کا سالانہ شیڈول

پہلا گروپ: 16 جنوری 2011 چہلم امام حسین کربلا معلیٰ میں (عمرہ، ایران، عراق، شام)

دوسرا گروپ: اپریل کا پہلا ہفتہ (عمرہ، ایران، عراق، شام)

تیسرا گروپ: جون کا پہلا ہفتہ (عمرہ، ایران، عراق، شام) (13 رجب کعبۃ اللہ میں)

چوتھا گروپ: ستمبر کا آخری ہفتہ (ایران، عراق، شام)

پانچواں گروپ: اکتوبر کا آخری ہفتہ (ایران، عراق، شام) (یوم عرفہ کربلا معلیٰ میں)

نوٹ: ہر گروپ کی بٹنگ روانگی سے ایک ماہ قبل کروائی ہوگی۔ ایڈوانس بٹنگ کی سہولت موجود ہے۔ روانگی کی درج بالا تاریخوں میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

سالار سید احمد رضوی 0333-4628205, 03464388872

دفتر: آفس نمبر 3 گراؤنڈ فلور خرم سنٹر بالمقابل MCB مین وحدت روڈ لاہور

Ph: 042 38728655, e-mail: khurasan1214@yahoo.com

علماء کرام کاروان  
کے ہمراہ ہونگے



# جامعہ باقر العلوم مغلپورہ لاہور

کی زیر سرپرستی



کاروان باقر العلوم  
yabaqir@hotmail.com

جہانگیر روڈ مغلپورہ لاہور پاکستان

**Caravan Baqir-ul-Uloom TOUR & TRAVELS (PVT.) LIMITED**

فون: 0321-9478828  
0092-42-36815871-2  
فیکس: 0300-4008642  
0092-42-36865616

خوشا وہ لوگ جو پرچم اسلام بلند رکھتے ہیں  
خوش قسمت ہیں جو قوم کی رہبری کے لئے منتخب ہوتے ہیں

(رہنمائی)

## جامعہ باقر العلوم مغلپورہ لاہور

داخلہ جاری ہے  
محمد و آل محمد علیہم السلام

کے مشن کی ترویج میں حصہ دار بننے اور اپنے بچوں کو دین حق کی بقا کے لئے وقف کر کے  
شہزادی کوئین نخت جگر رسول اعظم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے سرخرو ہوں۔  
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم (میٹرک، ایف اے،  
میٹرک پاس طلباء کو ترجیح دی جائے گی) (ب اے، ایم اے) خصوصاً کمپیوٹر کی ٹریننگ لازمی دی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو سیرت معصومین پر عمل پیرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

0301-6335593, 0321-4048514

فوری رابطہ فرمائیں  
0300-4251476, 042-36815872

جامعہ باقر العلوم کی تعمیر جاری ہے۔  
مذہبی فریضہ سمجھ کر تعاون فرمائیں۔

آپ 3000 روپے ماہانہ تعاون سے ایک طالب علم کے کفیل بن سکتے ہیں

رضاء الہی کے لیے مسلمان کی قبر بنانے والے پرچہ ہم کی آگ حرام اور سنت واجب ہو جاتی ہے۔ (صحیح)

تخیر حضرات کے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ دار بننے کا نادر موقع  
لاہور کینٹ میں شیعینان حیدر کرار کے مرحومین کے لیے مثالی قبرستان کی بنیاد

## بہشت زہرا (قبرستان)

حیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ  
ایسی ایٹ ہاؤس ایجنٹن روڈ، لاہور۔ پاکستان  
A/C 20311-714-172221

جدید تقاضوں کے عین مطابق

- ★ انتظامی امور، ایماندار خوش اخلاق اور فعال ہاتھوں میں
- ★ مسجد و امام بارگاہ اور باقر العلوم قرآن سنٹر کے ذریعہ قرآن خوانی،
- ★ مجالس عزاء محافل میلاد اور درود و سلام کا ہمہ وقت انتظام
- ★ تمام تر سہولتوں سے آراستہ و مزین ★ 14 سے 25 ایکڑ پر محیط

تعاون کی پروزوراجیل ہے اپنے پیاروں کے گرد ان قبر میں پھر پور حصہ ڈالیں۔

انتظامیہ بہشت زہرا

مرکزی دفتر جامعہ باقر العلوم (رجسٹرڈ)

جہانگیر روڈ مغلپورہ لاہور، فون: 6815871-2 فون: 6865816 ای میل: yabaqir@hotmail.com

## پروگرام مجالس عزاء 2011

یکم تا 9 محرم الحرام  
جامعہ باقر العلوم مغلپورہ لاہور  
خطاب: 2 بجے دن  
ادارہ منہاج السنین، جوہر ٹاؤن لاہور  
خطاب بعد از نماز مشربین

خطاب: 11 محرم تا 9 ربیع الاول  
ہر جمعرات 2 بجے دن  
جامعہ باقر العلوم مغلپورہ لاہور  
علاوہ ازیں روزانہ لاہور  
شیشو پورہ، کھاریاں اور  
دیگر شہروں میں مجالس عزاء

ان سب مجالس عزاء سے پرنسپل جامعہ رقیہ کبریٰ

سلطان الاناضل ایم اے  
قدسیہ ظفر صاحبہ  
خطاب فرمائیں گی

علامہ راعی ظفر علی  
0300-4008642  
0321-9478828

ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر  
0322-4422545  
0300-4422545

مسز نسیم ظفر  
0300-9478828

امیر علی زیدی  
0300-9401665

ڈاکٹر عامر علی  
0333-4263533  
0322-4421287

”جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی ہے“ (سورہ مبارکہ مائدہ، آیت: ۳۲)

اوقات کار شام 9-6 بجے  
الخدیجہ فری میڈیکل سینٹر

روزانہ 250 مریض نیشاپور سے ہیں  
موجودہ سہولیات



## الخدیجہ فاؤنڈیشن جعفریہ کالونی خدمت کے 11 سال

الخدیجہ فری میڈیکل سینٹر سے 6 لاکھ پچاس ہزار مریضوں کا علاج

اب ان مریضوں کو ان ڈور کی سستی اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کیلئے وقف شدہ اراضی پر الخدیجہ ٹرسٹ ہسپتال کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کیلئے ہمیں آپ سب کے بھرپور مالی تعاون کی ضرورت ہے۔

## الخدیجہ ٹرسٹ ہسپتال

آپ کی مدد کا منتظر  
جعفریہ کالونی بند روڈ لاہور

ایک کنال اراضی پر چار منزلہ ہسپتال کی تعمیر کا تخمینہ تقریباً تین کروڑ پچیس لاکھ روپے لگا گیا ہے



ڈیزائن ہسپتال، نقشہ پاس ہونے کے فوراً بعد تعمیر کا آغاز کر دیا جائیگا

ہسپتال کا لوئر گراؤنڈ فلور آؤٹ ڈور کے مریضوں کیلئے گراؤنڈ فلور کنسلٹنٹ رومز، ڈینٹل سرجری، الٹراساؤنڈ، ایکسرے اور معیاری لیب کیلئے فرسٹ اینڈ سینئر فلورز آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور میل اینی میل وارڈز کیلئے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔

## آپ اپنے مروجین کے ایصالِ ثواب کیلئے کمرہ تعمیر کروا سکتے ہیں

گزشتہ گیارہ برسوں میں مختلف فری میڈیکل کیمپوں کے ذریعے ہزاروں مریضوں کے بیپائٹس بی سی اور ٹی بی سمیت مختلف ٹیسٹ مفت کیے گئے اور مہلک امراض سے بچاؤ کیلئے رہنمائی فراہم کی گئی۔ آپ بھی دستِ شفا بڑھائیں!

برائے رابطہ

بیدار قاب ہیراتون  
0300-4401048  
0323-4401048

عطیات جمع کروانے کیلئے بینک اکاؤنٹ: الخدیجہ ویلفیئر فاؤنڈیشن

اکاؤنٹ نمبر 4-1711 یو بی ایل موڈرن آبا دملتان روڈ لاہور، برانچ کوڈ 1740

مفتی تھان: الخدیجہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان (رجسٹرڈ) 70-B جعفریہ کالونی بند روڈ لاہور (تاسیس 2000ء)

فون: 042-37415120، 042-36108036، ویب سائٹ: www.alkhadija.com، ای میل: info@alkhadija.com

# بخاری فاؤنڈیشن!

www.bukharifoundation.org

تعارف ----- اور تعاون کی دعوت

بعض شخصیات اپنی صلاحیتوں کے وفور اور اپنے خداداد کمالات کے باعث تہا خود اپنی ذات میں ایک چلتی پھرتی انجمن اور متحرک ادارہ ہوتی ہیں۔ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے جہاں بہت کم وقت میں اپنے حسن بیان سے ذہنوں کو مسحور کیا اور دل آویز خطابت کا جادو جگا کر اہل نظر سے بے پناہ داد و وصول کی ہے وہاں تڑکیہ نفوس اور فکر و ذہن کی آبیاری کے فرائض سے بھی کبھی لمحہ بھر کے لئے غافل نظر نہیں آئیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں۔ وہ جہاں قدم رکھیں وہاں خیر و فلاح کی آبیاری کے بہت سارے سامان خود بخود فراہم ہونے لگتے ہیں۔

اتنی بڑی اور مقبول بارگاہ حق شخصیت ہونے کے سبب اپنے حلقہ درس و عطاء میں جب بھی انہوں نے بعض قومی امور پر اہل خیر کو اقدام کی دعوت دی تو ان کے حلقہ فیض نے پر جوش طریقے سے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اقدام کیا۔ حالیہ سیلاب کے ابتدائی دنوں میں جبکہ امریکہ میں ان کے لیکچرز جاری تھے تو انہوں نے وہاں کی پاکستان کمیونٹی سے دستِ تعاون بڑھانے کی اپیل کی اور پھر جب وہ ان کی فراخ دلانہ مدد کے ساتھ واپس پاکستان تشریف لائیں تو انہوں نے متاثرہ علاقوں میں بنفس نفیس خود جا کر ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا اور سارے کاموں کی خود نگرانی کی۔

"روزِ قیامت انسان سے اس کے اموال کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی و عرفی حیثیت کے حوالے سے بھی اُس سے سوال کیا جائے گا۔"

(امام جعفر صادق)

چنانچہ محترمہ خانم طیبہ بخاری نے وسعت پذیر ہوتے ہوئے کارہائے خیر کی فعال طریقے سے بروقت ادائیگی اور (Transparency) کے لئے "بخاری فاؤنڈیشن" کے نام سے ایک ادارہ کی تشکیل کی اور معتمد علیہ افراد کو شامل کر کے مستقبل کے لئے ایک سرچشمہ بن جانے والے ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈیشن فلاحی کاموں کے لئے سرگرم عمل رہتی ہے۔ اس وقت ان کے پیش نظر سر دست منصوبوں میں بے گھر موٹین کی آباد کاری ہے۔ چنانچہ اس کے لئے اس وقت مصروف عمل ہیں۔

فاؤنڈیشن کے حسابات کے حوالے سے اس کی شفافیت (Transparency) کو اس حد تک یقینی بنایا جائے گا کہ



ادارہ کو وصول ہونے والے زرع تعاون، عطیات اور اموال جہاں جہاں خرچ ہوں گے۔ ادارہ کے پاس نہ صرف تشخیص کے ساتھ یہ حساب موجود ہوگا بلکہ ہر صاحبِ خیر کے علم میں لایا جاسکے گا کہ اس کا پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے۔ اہل خیر قارئین کے لئے زیر نظر تحریر ادارہ کی تشکیل سے آگاہی اور ادارہ کا تعارف بھی۔ نیز ادارہ کے ساتھ تعاون کی دعوت بھی ہے۔



# محرم الحرام 2010ء (یکم تا 9 محرم الحرام)

مسجد باب العلم، نشاط کالونی، لاہور کینٹ  
سوزخوانی 2:30 بجے دوپہر خطاب: ٹھیک 3:15 بجے شام

قصر عباس، مورگاہ ڈیفنس، راولپنڈی  
سوزخوانی 8:30 صبح خطاب 9:15 بجے

## شام غربیاں

مسجد باب العلم، نشاط کالونی، لاہور کینٹ  
سوزخوانی ٹھیک بعد از مغربین خطاب: ٹھیک 6 بجے شام

## صبح عاشور

مرکزی امام بارگاہ، G-9/2، اسلام آباد  
آغاز مجلس 8 بجے صبح خطاب: ٹھیک 9 بجے صبح

11 تا 15  
محرم الحرام

مسجد باب العلم، نشاط کالونی، لاہور کینٹ  
8 ربیع الاول آغاز 3:30 بجے شام خطاب ٹھیک 4 بجے شام

(الوداعی مجلس)

9:45 بجے صبح امام بارگاہ مستری عبداللہ شاہ، سیالکوٹ

3:30 بجے شام مرکزی امام بارگاہ، G-9/2، اسلام آباد

# شام شبائے مبارکی

خطاب فرمائیں گی۔

ان تمام مجالس سے مفسرہ قرآن، سرمایہ ملت، جعفریہ،  
نقیبہ علوم آل محمد ﷺ، فاضلہ قم، ممتاز سکارل

ایام فاطمیہ

(بطابق اپریل 2011ء)

11 تا 15 جمادی الاول

مسجد باب العلم، نشاط کالونی، لاہور کینٹ  
آغاز مجلس 5 بجے شام خطاب: ٹھیک 6 بجے شام

21 رمضان المبارک بسلسلہ شہادت حضرت علیؑ

مسجد باب العلم، نشاط کالونی، لاہور کینٹ  
آغاز مجلس 9:30 بجے صبح خطاب: ٹھیک 10:30 بجے صبح

1 تا 10 جمادی الاول

بارگاہ علمدار، سرسید روڈ، راولپنڈی  
آغاز مجلس 5 بجے شام خطاب: ٹھیک 5:45 بجے شام

24 رجب سلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظمؑ

مسجد باب العلم، نشاط کالونی، لاہور کینٹ  
آغاز مجلس 5 بجے شام خطاب: ٹھیک 6 بجے شام

0333-4296652

0333-4623133

051-5581979

0334-5216963

051-2103692

0016312202475

00971503119719

0016317900038

0321-5149284

0524271777

E-Mail: [kontaktmanagement@yahoo.com](mailto:kontaktmanagement@yahoo.com)

نوٹ: موٹین کو مطلع کیا جاتا ہے جو ایام عزائی مجلس کے لئے رابطہ کرتے ہیں کہ خانم کا جو پروگرام ہفت روزہ میں شائع ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ باہر کے ممالک میں ہوتی ہیں۔

چنانچہ ایام عزائی کیلئے رابطہ کی کوشش نہ کریں (ایام عزائی کا شیڈول سال پہلے بن جاتا ہے) انتظامیہ



شيعه ملٹی ميڈيا

Download Shia Urdu & English Books

[www.ShiaMultimedia.com](http://www.ShiaMultimedia.com)